

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

اُس نے اِس وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا
امام الزماں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام

الذِّكْرُ الْمَحْفُوظُ

تاریخ محافظتِ قرآن شریف
اور مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات

فہرست موضوعات

صفحہ	نمبر شمار
v	1 - اظہارِ تشکر
vii	2- پیش لفظ
xiv	3- فہرستِ عناوین
1	4- باب 1 قرآنِ کریم کی لفظی محافظت
12	فصل 1 عہدِ نبویؐ میں جمع و تدوین قرآن پندرہ (15) ذیلی عناوین
77	فصل 2 عہدِ خلافتِ راشدہ میں جمع و تدوین قرآنِ کریم چار (4) ذیلی عناوین
103	5- باب 2 تحریف قرآن کے ضمن میں لگائے جانے والے الزامات کے جوابات پچاس (50) ذیلی عناوین
365	6- باب 3 قرآنِ کریم کی معنوی محافظت پانچ (5) ذیلی عناوین
399	7- انڈیکس
i	انڈیکس آیات قرآنِ کریم
v	انڈیکس اعتراضات
vii	انڈیکس اسماء

اظہارِ تشکر

الحمد لله ذو المنن

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

خاکسار کو تفسیر القرآن میں تخصص کے دوران مستشرقین کے حفاظتِ قرآن کے موضوع پر اعتراضات کے جواب کے موضوع پر مقالہ لکھنے کا کام تفویض ہوا تھا۔ مقالہ نگران مکرم و محترم جناب چوہدری محمد علی صاحب تھے جن کے سایہ شفقت میں اور دعاؤں سے تمام مراحل آسان ثابت ہوئے۔ اسی مقالہ کو نظر ثانی اور بہت سی تبدیلیوں اور اصلاحات کے بعد کتابی صورت میں پیش کرنے کی توفیق پارہا ہوں۔

خاکسار مکرم و محترم حضرت صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب مدظلہ العالی کی ہمہ وقت اور شفقت سے بھرپور راہنمائی پر ہر وقت اُن کا ممنون احسان ہے۔

اسی طرح خاکسار مکرم و محترم جناب سید عبدالحمی شاہ صاحب ناظر اشاعت ربوہ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہے جو ہمیشہ اپنی گوں ناگوں مصروفیات کے باوجود ہمیشہ خاکسار کی وقت بے وقت حاضری کو فریاد دلی سے معاف فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی اوقات سے میں سے ناچیز کی اس حقیر سی کوشش کو بھی وقت دیا اور مطالعہ کر کے شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

میرے مشفق استاد مکرم و محترم جناب خواجہ ایاز احمد صاحب کی راہنمائی ہمیشہ شامل حال رہی۔ مقالہ لکھنے کے دوران جب ضرورت پڑی خاکسار نے اُن کی شفقت کی وجہ سے بلا جھجک اُن سے راہنمائی حاصل کی۔

خاکسار خاص طور پر محترم محمد مقصود احمد منیب صاحب مربی سلسلہ کا ہمیشہ ممنون احسان رہے گا جنہوں نے بھرپور توجہ اور محنت سے نظر ثانی کی اور لغوی اعتبار سے بہت سی مفید اصلاحات کیں۔ جزاء اللہ خیراً مکرم ظہور الہی تو قیر صاحب مربی سلسلہ اور مکرم راشد محمود احمد صاحب مربی سلسلہ کی بے لوث مدد پر خاکسار ان دونوں احباب کا تہہ دل سے ممنون ہے۔

خاکسار محترم نصیر احمد قمر صاحب مربی سلسلہ ایڈیشنل وکیل الاشاعت لنڈن و ایڈیٹر الفضل انٹرنیشنل کا تہہ دل سے مشکور ہے جن کی پُر خلوص اور بے لوث مدد اور راہنمائی سے آخری مراحل بھی طے ہوئے۔

میرے مولیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس کے پاک مسیح کی پیاری جماعت کا ہر وہ فرد جس کی جب بھی ضرورت پڑی میرے جیسے کمزور اور حقیر انسان کی امداد کو موجود تھا۔ میرے مولیٰ تو ان سب احباب کو بہترین جزاء دے۔ ان سب نے محض تیری رضا کی خاطر ایک ناچیز، حقیر اور کمزور انسان کی بے لوث امداد اور راہنمائی کی۔ تو بھی ان کا مددگار اور راہنما ہو جا۔

اور سب سے بڑھ کر اندھی عقلوں کو انوار الہی سے منور کرنے والی وہ آسمانی ہدایت اور راہنمائی ہے جو آج کے دور میں مہدیؑ دوراں اور اُن کے خلفاء کی صورت میں ہمیں فیضیاب کر رہی ہے۔

کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس

وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار

پیش لفظ

رب انفخ روح برکة فی کلامی هذا واجعل افئدة من الناس تهوی الیه
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر: 10)

یعنی یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں
یہ آیت اسلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے اور اگر کوئی تعصب سے پاک انسان اس آیت پر غور
کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ دعویٰ انسانی نہیں۔ تمام مفسر، جدید عرب محققین اور یورپین مصنف بالاتفاق کہتے ہیں
کہ یہ سورۃ مکی ہے۔ مکی دور مسلمانوں کے لیے ابتلاؤں اور آزمائشوں سے پُر ایک ایسا دور تھا کہ مذاہب عالم میں
اس کی مثال نہیں ملتی۔ ابتدائی مومنین اسلام قبول کرنے کی پاداش میں انسانیت سوز مظالم کے شکار ہو رہے تھے۔
تھوڑے سے تو مسلمان تھے جن میں سے کچھ جلتے سورج تلے پتی ریت پر بھاری بوجھوں کے تلے سسک رہے
تھے تو کچھ ننگی پیٹھوں پر لیٹے اپنی پکھلتی چربیوں سے دکھتے کونلوں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ ایک طرف سے آل
یاسر کی آہ و بکا بھرتی تھی تو دوسری طرف وہ مقدس بدن دہائی دے رہے ہوتے جنہیں دو اونٹوں سے باندھ کر پھر
اُن اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر چیر دیا گیا تھا۔ مسلمان ہونے والوں کو بے تحاشا زد و کوب کیا جاتا اور جب
ظالم مار مار کر خود ہی تھک جاتے تو زخموں سے چور اور درد و الم سے بے حال ان غریبوں کے گلوں میں رسے ڈال
کر لا ابالی نوجوانوں کے سپرد کر دیا جاتا جو انہیں مکہ کی سنگلاخ گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ چٹائیوں میں لپیٹ کر
ناک میں ڈھونی دی جاتی اور اس اذیت ناک انداز میں دم گھونٹا جاتا۔ اُن ستم رسیدہ مسلمانوں کی آہ و زاری سے
پتھر دل پکھل کیوں نہ گئے!!! عصمت مآب مسلمان خواتین مخالفین کی درندگی کا شکار ہو رہی تھیں تو خود سید
المعصومین بھی خون آشام بھیڑیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ آہ! کیوں اُس پیارے چہرے کو لہولہاں کیا گیا!!! آہ
! بنی نوع انسان کے غم میں تڑپنے والے اور اپنی جان سے زیادہ نوع انسانی سے پیار کرنے والے کو کیوں ستایا
گیا!!! بخاری میں روایت ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نبی کی

حکایت فرماتے ہوئے دیکھا۔ جس کو اس کی قوم نے لہولہاں کر دیا تھا۔ اور وہ اپنے چہرے سے خون

پونچھتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے کہ اے خدا! میری قوم کو بخش دے۔ وہ نادان ہے۔

(بخاری استنباط المرتدین باب اذا عرض الذی.....)

پھر کی زندگی کے آخری سال بھی نہایت ہی خطرناک تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت شعب ابی طالب میں محبوس تھے۔ شاہ دو جہاں اور اس کے پیارے جانثار بھوک و افلاس کا شکار تھے۔ وہ دور تھا کہ کفار مکہ کا بچہ بچہ مسلمانوں کا جانی دشمن بن چکا تھا اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے جگہ نہ ملتی تھی۔ ایسے پر آشوب وقت میں جب کہ مسلمان کمزوری اور کسمپرسی کی حالت میں مخالفین کی مشقِ ستم تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم خود قرآن کریم اور اس کی تعلیم کی حفاظت کریں گے کتنا زور دار اور پر شوکت دعویٰ ہے۔ اس فقرہ (اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ) کی طاقت کو وہی لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو عربی جانتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جب مسلمان خود مخالفین کے گھیرے میں تھے اور ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کفار کے مظالم نے ابتدائی مسلمانوں کو منتشر کر رکھا تھا اور ان کی زندگی میں کوئی اجتماعیت نہ تھی۔ مخالفین سمجھتے تھے کہ جو لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور ہمارے رحم و کرم پر ہیں ہم ان کو اور اس تعلیم کو جس پر ایمان لانے کے یہ دعویٰ دار ہیں جب چاہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ایسے میں مخالفین کو لگا رہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم سارا زور لگا لو اور قرآن مجید کے مٹانے کے لیے پوری طاقت خرچ کر دو تو بھی تم ناکام رہو گے کیونکہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی آزاد ہوتے اور ترقی پاتے ہیں۔ ایک عظیم الشان جماعت آپ کے ساتھ ہو جاتی اور قرآن مجید کی کما حقہ حفاظت ہوتی ہے اور آج تک ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ کیا یہ بے نظیر حفاظت دنیا کی اور کسی مذہبی کتاب کو حاصل ہوئی ہے؟ ریورنڈ باسورٹھ سمٹھ رقم طراز ہیں:

In the Quran we have, beyond all reasonable doubt, the exact words of Muhammed without subtraction and without addition

(R. Basworth Smith "Mohammad and Mohammadanism". London 1874, p. 15)

آج ہمارے پاس موجود قرآن کریم میں بلاشک و شبہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی کے بغیر محمد

(ﷺ) کے ہی الفاظ ہیں۔

وہ بیٹیم میورا اپنی کتاب لائف آف محمد کے دیباچہ میں بحث کے بعد لکھتا ہے۔

"We may upon the strongest presumption affirm that every verse in the Coran is genuine and unaltered composition of Muhammad himself."

ترجمہ۔ ہم نہایت مضبوط قیاسات کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت اصلی

ہے اور ہر قسم کی تحریف سے پاک محمد (آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ہی تصنیف ہے۔

پھر لکھتا ہے:-

"And conclude with at least a close approximation to the verdict of Van Hammer that we hold the Coran to be as surely Muhammad's words as the Muhammad held it to be the word of God."

(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Vol.1, Introduction)

ہم وان ہیمر کے مندرجہ ذیل فیصلہ کے بالکل مطابق نہ سہی کم سے کم اس کے خیال کے بہت موافق فیصلہ تک پہنچتے ہیں۔ وان ہیمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو قرآن موجود ہے اس کے متعلق ہم ویسے ہی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصلی صورت میں محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا بنایا ہوا کلام ہے۔ جس یقین سے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ خدا کا غیر مبدل کلام ہے۔
نولڈ کے کا قول ہے:

"Slight clerical errors there may have been, but the Qur'an of Othman contains none genuine element, though sometimes in very strange order. Efforts of European scholars to prove the existence of later interpolations in the Qur'an have faild."

(Encyclopedia Britanica Edition 11 under Heading "Quran")

ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں (طرز تحریر) ہوں تو ہوں۔ لیکن جو قرآن عثمانؓ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس میں کچھ بھی بیرونی آمیزش نہیں ہے۔ گو اس کی ترتیب عجیب ہے۔ یورپین علما کی یہ کوششیں کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن میں بعد کے زمانہ میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے بالکل ناکام ثابت ہوئی ہیں۔

یہ وہ شہادتیں ہیں جو اسلام کے شدید ترین دشمنوں کی ہیں۔ اَلْفَضْلُ مَا شَهِدَ بِهِ الْاَعْدَاءُ۔ مگر باوجود اس واضح ثبوت کے دشمنان اسلام تعصب میں اندھے ہو کر اس حسنِ حصین کی دیواروں سے سر ٹکراتے چلے آئے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ قرآن کریم بھی دوسرے مذاہب کی کتب کی طرح انسانی دست برد کا شکار ہو چکا ہے۔ ہر دور میں مخالفوں نے ہر ممکن کوشش کی اور زور لگایا اور ہر جائز و ناجائز تدبیر کو آزما یا مگر ہمیشہ ناکامی اور نامرادی کا طوق گلے کا ہار بنا۔ آج بھی شیطان کے چیلے اپنا زور لگا رہے ہیں اور آئندہ بھی لگاتے چلے جائیں گے مگر بد نصیبی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

آئندہ سطور میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح اور کن ذرائع سے خدا تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ پورا کرتا چلا آ رہا ہے اور کیا دلائل ہیں کہ آئندہ بھی حفاظت کا وعدہ پورا کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ

ساتھ ہم دشمنان اسلام کے ان وساوس کا جواب بھی ڈھونڈیں گے جو وہ اس کی حفاظت کے موضوع پر عام قاری کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

زیر نظر کاوش میں حفاظت قرآن کے ذرائع کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر اٹھنے والے اہم سوالات اور دانستہ طور پر ناواقف لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے جانے والے شبہات کے ازالہ کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور اس ضمن میں 1995 میں سامنے آنے والی ایک گمنام معترض کی کتاب WHY I AM NOT A MUSLIM میں حفاظت قرآن کے موضوع پر اٹھائے جانے والے بیادہی اعتراضات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس گمنام معترض نے اپنا قلمی نام ابن وراق رکھا ہے۔

معترض کی کتاب کے ضمن میں یہ عرض کر دوں کہ مصنف کے نامعلوم ہونے اور کتاب کے انداز سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ابن وراق ایک خیالی اور تصوراتی شخصیت ہے جبکہ یہ کتاب کسی کمیٹی کی مرتبہ ہے اور عین ممکن ہے وہ کمیٹی عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہو۔ کیوں کہ کتاب میں زیادہ تر عیسائی مصنفین کے حوالہ سے بات کی گئی ہے۔ اس پر ایک قرینہ یہ بھی قائم ہوتا ہے کہ حقیقت میں ابن وراق ایک مسلمان محقق اور عالم تھے جو کہ نویں صدی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے عیسائیت پر گراں قدر علمی کام کیا اور عیسائیت کے عقائد کی حقیقت ظاہر کی۔ شائد اسی تعلق میں آج ابن وراق کے نام سے ایک خیالی پتلا گھڑا گیا ہے (واللہ اعلم) لیکن اس کوشش میں کتاب میں حقائق کے نام پر باتیں بھی خیالی ہی پیش کر دی گئی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

یہ انداز نیا نہیں۔ متعصب دشمن اسلام دشمنی میں ایسے ہتھکنڈے بہت پہلے سے ہی اختیار کرتے آئے ہیں۔ اہل اسلام ہر زمانہ میں ایسے خناس صفت دشمن کے حملوں کا جواب دیتے رہے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام نے بھی دفاع اسلام میں ایسے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے جو چھپ کر وار کرنا چاہتے تھے۔ پھر بیسویں صدی کے شروع میں جماعت احمدیہ کی طرف سے دفاع اسلام میں جاری کیے گئے ایک انقلابی انگریزی رسالہ Review of Religions کے جنوری 1904 کے شمارہ میں بھی ایک گمنام پادری کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو چھپ کر اسلام پر حملہ کرتا ہے۔ پھر اسی رسالہ کے 1907 کے ایک اردو شمارہ میں بھی ایک ایسے عیسائی کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو اپنا نام ظاہر کیے بغیر اعتراضات کرتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہر دشمن اسلام جو اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہے، جب بھی بے جا بغض اور دشمنی کی راہ سے اعتراض کرے تو اس کے لیے سب سے آسان یہی راہ ہو کہ اعتراض کرتے ہوئے دنیا کی نظروں سے خود کو چھپالے تاکہ اپنے لہجہ اعتراضات کے جواب کے بعد ملنے والی ذلت اور نکتب سے بچ سکے لیکن خصوصیت سے یہ مزاج عیسائی معترضین کا ہے اور سورۃ الناس میں درج پیشگوئی مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ کی صداقت کا

مُنہ بولتا ثبوت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس طرح تمام مذاہب کے اہل علم تحقیق و جستجو کے بعد اب یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ یہ مذاہب اب اصل پیغام بھلا چکے ہیں اسی طرح دشمنانِ اسلام چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارہ میں بھی ایسے اہل علم مل جائیں جو یہ ثابت کر دیں کہ اسلام بھی اپنے اصل کو کھو چکا ہے۔ لیکن جب انہیں ایسے مسلمان علماء نہیں ملتے تو شکوک پیدا کرنے کے لیے مسلمان کہلانے والوں میں سے ایسے جہلاء کی تلاش میں رہتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہوں اور زبانِ درازی، بلا ثبوت الزام تراشی اور ہرزہ سرائی میں اُن کے مددگار ہو سکیں۔

ابن وراق کا تعارف یہ کرایا گیا ہے کہ موصوف جے پور انڈیا میں پیدا ہوئے اور پھر پاکستان تشریف لے آئے یہاں سے Scotland تشریف لے گئے اور وہاں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ مذہباً مسلمان ہیں اور شیعہ فرقہ کے کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔

کتاب کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ مصنف یا کمیٹی نے مختلف مستشرقین کی کتب میں سے صرف اعتراضات کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ قلعی بھی کھل جاتی ہے کہ اسلام کے بارہ میں مختلف مستشرقین اور محققین کی تحقیقات میں سے اپنے مطلب کا حصہ چن لیا گیا اور پورے شد و مد کے ساتھ پیش کیا گیا۔ جہاں جہاں تبصرہ کیا ہے وہاں دیانت داری کو بلائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ مقصد تنقیدی تحقیق نہیں اور نہ ہی حق کی تلاش مقصود ہے بلکہ کتاب کا مقصد عام قاری کو ایسی بحثوں میں الجھانا ہے جن سے وہ شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنس کر حق اور سچ کی جستجو سے ہی ہاتھ کھینچ لے۔

اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کے مطالعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر بہت کمزور اور غیر مستند ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حتمی طور پر کچھ علم نہیں ہوتا کہ اصل تعلیمات کیا تھیں۔ ہر طرف انسانی دست برد کی کارستانیاں ہی نظر آتی ہیں اور غور و فکر کرنے والا قاری شکوک و شبہات کی دلدل میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک چالاکی یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح ان شکوک و شبہات کے سیلابِ شد کا رُخ اسلام کی طرف موڑ دیا جائے۔ چنانچہ سادہ لوح لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو دوسرے مذاہب کا حال ہے وہی اسلام کا حال ہے اس لیے دوہی راستے ہیں۔ یا تو اپنے مذہب سے ہی چمٹے رہو خواہ وہ کیسا ہی ہے کیونکہ اسلام میں بھی تمہیں یہی کچھ ملے گا اور کچھ زیادہ نہیں ملے گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ مذہب سے ہی کنارہ کش ہو جاؤ۔ جبکہ حقیقت میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور اسلام کے معاملہ میں بقول Bosworth Smith نہ تو کوئی شخص خود کو دجل اور فریب میں مبتلا کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کو۔ موجودہ دور میں ایک یہی مذہب ہے جو بالکل محفوظ ہے اور اسی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی مقصدِ زیست حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دشمنانِ اسلام کی یہ کوشش بذاتِ خود اس بات کا ثبوت بھی ہے یہ جنگِ بین المذاہب بے شک ہے لیکن اصل

میں طاغوتی طاقتیں اس کوشش میں ہیں کہ بنی نوع انسان مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے۔ اس لیے یا تو لوگوں کو اُن مذاہب کی طرف بلا یا جائے جو اپنے اصل کو کھو چکے ہیں یا پھر اسلام سے بھی دُور کیا جائے۔ چنانچہ اس کوشش میں جہاں اسلامی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے وہیں یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ سادہ لوح لوگ یہ جھوٹ بھی تسلیم کر لیں کہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی اصل الہی پیغام کے ساتھ لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں خلط ملط ہو چکی ہیں اور دوسرے مذاہب کی طرح اسلام بھی اپنے اصل کو کھو چکا ہے۔ جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس یہی ہے جو Bosworth Smith بیان کرتے ہیں کہ ”(اسلام کے) یہاں حقائق ہیں نہ کہ خیالات اور قیاسات اور ظنون اور طلسماتی کہانیاں۔ ہم باسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔“

اعتراضات کے جواب میں عام طور پر اعتراض کی نوعیت کے مطابق اور اُٹھائے جانے والے نکات کے جواب دیے جاتے ہیں اور بلا ضرورت تفصیل بیان نہیں کی جاتی۔ لیکن زیر نظر تصنیف میں اس پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ چونکہ کتاب ”WHY I AM NOT A MUSLIM“ کا مقصد شکوک پیدا کرنا ہے نہ کہ تنقیدی تحقیق پیش کرنا اس لیے اعتراضات کے جواب میں قاری کے ذہن میں پیدا ہونے والے اوہام کے ازالہ کی کوشش کی جائے چنانچہ مد نظر یہ رہا ہے کہ ابن وراق کے اعتراضات کا جواب اسی صورت میں مکمل ہوگا جبکہ اس کے پیدا کیے گئے شکوک کا قلع قمع کیا جائے اور حقائق اور دلائل اس طرح عام فہم انداز میں پیش کیے جائیں کہ ان کی روشنی میں قاری کے دل میں یہ بات راسخ ہو کہ قرآن کریم کامل طور پر ایک محفوظ کتاب ہے۔ اس وجہ سے مطالعہ کے دوران شاید یہ احساس ہو کہ جوابات عام نہج سے ہٹ کر کچھ زیادہ تفصیلی ہیں۔ اگر صرف اعتراضات کے جواب دینا ہی مد نظر رکھا جائے تو کتاب کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کسی اعتراض کی بنیاد جھوٹ پر ہے تو اگر اعتراض کا غلط اور جھوٹ پر مبنی ہونا ہی ثابت کر دیا جائے تو کافی ہے جواب کی ضرورت نہیں اسی طرح جن اعتراضات کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ان کو دعویٰ بلا دلیل قرار دے کر چھوڑ دینا بھی عین درست ہوگا۔ لیکن اگر معترض کی کتاب کے مقصد کو ظاہر کرنا اور اس مقصد کے حصول کی کوشش کو ناکام بنانا اس کاوش کا مقصد سمجھا جائے تو پھر ہر اُس پہلو کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا، جو ایک عام قاری کے دل میں شک پیدا کر سکتا ہے اور پھر اس شک کا عام فہم انداز میں ازالہ کرنے کے لیے جس قدر بھی تفصیل بیان کرنی مناسب ہو، بیان کی جائے گی۔ پس اس کتاب میں یہ طریقہ اپنایا گیا ہے تاکہ موجودہ دور میں لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا جائے اور اس غرض کے حصول کے لیے تفصیل کے بیان سے پہلو تہی نہیں کی گئی۔ لیکن یہ خیال رکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ شک و شبہ کے ازالہ کی کوشش میں جواب کو اتنا بھی پھیلا نہ دیا جائے کہ قاری کو بذات خود جواب سمجھنے میں ہی مشکل ہو۔

ایک پہلو تکرار کا بھی ہے۔ کتاب میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ ہر اعتراض کے جواب میں مضمون جامع ہو اور قاری کو ایک بات سمجھنے کے لیے بار بار گزشتہ صفحات کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے۔ نیز ابن

وراق جو قاری کو الجھانا چاہتا ہے، اس مذموم مقصد کو ناکام کرنے کے لیے اس کتاب میں قاری کی آسانی مد نظر رکھی گئی ہے اور اس آسانی کے لیے بسا اوقات مضمون کو مختصر طور پر دہرایا بھی گیا ہے۔ پس یہ عاادہ اور تکرار مضمون کی جامعیت اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اور قاری کی آسانی کے لیے ضروری سمجھی گئی ہے۔

ایک اور بات اس ضمن میں درج کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے علما الزامی طور پر معترضین کے مذہب اور ان کی کتب کی حقیقت بھی ظاہر کرتے اور بتاتے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو! بعینہ یہی اعتراضات تمہارے مذہب اور کتابوں پر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پس اے نادانو! تعصب اور اسلام پر حملہ کے شوق میں اپنے ہی نیچے ادھیڑ رہے ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ بجائے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اب ابن وراق سے منسوب اس کتاب میں اعتراضات کرنے کے لیے ایک چالاکی یہ کی گئی ہے کہ نامعلوم مصنف خود کو Secular اور Rationalist ظاہر کرتے ہوئے عیسائیت اور یہودیت کے خلاف ایسا طرز عمل اپناتا ہے کہ جواب دیتے وقت عیسائیت اور یہودیت کی قلعی نہ کھولی جائے۔ اعتراض کرتے ہوئے رویہ یہ اختیار کرتا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں مگر حوالے زیادہ تر عیسائی مستشرقین کے ہی دیتا ہے۔ نیز تعصب بھی وہی جھلکتا ہے جو بالعموم ایک تنگ نظر اور متعصب مذہبی مُلا کی میراث ہے اور خاص طور پر عیسائی مستشرقین میں اسلام کے خلاف ملتا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی ایسی وجہ تو نہیں کہ اس بنیاد پر ہم یہ مؤقف اختیار نہ کر سکیں کہ اگر یہ اعتراض اسلام پر یا قرآن پر اٹھاؤ گے تو نتیجہ تمام مذاہب اور ان کے صحائف سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا لیکن پھر بھی کوشش زیادہ تر یہی کی گئی ہے کہ جوابات میں تاریخی، منطقی اور عقلی پہلو کو ہی مد نظر رکھا جائے اور ساتھ ساتھ قارئین کو یہ علم بھی ہوتا رہے کہ یہ اعتراض صرف اسلام پر ہی نہیں بلکہ تمام ادیان عالم پر کیا جا رہا ہے اور ابن وراق کو بھی یہ پتہ چلتا رہے کہ خواہ کسی بھی دجل سے کام لو، اسلام سے مقابلہ کرو گے تو نصیب میں نامرادی اور نکبت ہی لکھی جائے گی۔

چنانچہ زیر نظر کوشش میں اس پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام ایسا کمزور اور مجبور نہیں ہے کہ اپنے خلاف اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب کے سلسلہ میں دوسرے مذاہب کی کمزوریوں کے بیان کو بطور سہارا استعمال کرے اور پھر ان مذاہب کا اپنی بنیادوں سے ہٹ جانا بھی علمی دُنیا میں اب اتنا مسلّم ہو چکا ہے کہ اس کتاب میں زیادہ تفصیل سے ان کا بیان موجب طوالت اور تضيغ اوقات ہوگا۔ چنانچہ برسبیل تذکرہ مختصر طور پر تو اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ ان اعتراضات کا شکار تمام مذاہب اور صحائف اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی جواب بن نہیں پڑتا جبکہ اسلام ایک ایسا حصین حصین ہے کہ اس سے ٹکرا کر ہر اعتراض پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اور اسی محفوظ قلعہ کے اندر دوسرے مذاہب اور صحائف کو بھی پناہ لینا پڑتی ہے۔ اور دیانت دارانہ مطالعہ کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آخر کار مذاہب عالم کو اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے اسلام سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔

فہرست عناوین

باب 2	تحریف قرآن کے ضمن میں لگائے	1	باب 1	قرآن کریم کی لفظی محافظت	1
103	جانے والے الزامات کے جوابات	12	فصل 1	عہد نبوی میں جمع و تدوین قرآن	12
105	☆ شیطانی آیات	1	1	☆ ابتداء نزول سے ہی کتب قرآن کا اہتمام	14
110	☆ واقعہ ابی سرح	2	i	☆ قرآن کریم سے ثبوت	15
118	☆ خلاصہ	i	ii	☆ احادیث اور تاریخ سے ثبوت	17
119	3	رسول کریم ﷺ قرآن کریم میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تھے	iii	☆ کاتبین وحی	21
			iv	☆ عہد نبوی میں کتب قرآن کا طریقہ اور ذرائع	24
123	i	☆ قرآن کریم سے ثبوت	v	☆ عہد نبوی میں قرآن کریم مکمل طور پر تحریری صورت میں جمع ہو چکا تھا	24
126	ii	☆ محمد ہست برہان محمد	24	2	☆ حفظ قرآن کریم
126	iii	☆ آنحضرت ﷺ کی صداقت اور دیانت پر گواہیاں	27	i	☆ الْفَضْلُ مَا شَهِدْتُ بِهِ الْأَعْدَاءُ
136	iv	☆ حضور ﷺ نے ہر قسم کی آسائش کو رد کر دیا اور قرآن میں کوئی رد و بدل قبول نہ کیا	37	3	☆ تلاوت قرآن
141	v	☆ آنحضرت ﷺ نے ہر قسم کی تکلیف کا مقابلہ کیا مگر قرآن میں رد و بدل قبول نہ کیا	38	4	☆ تعلیم القرآن
148	vi	☆ فتوحات کے بعد کی زندگی آنحضور کے رد و بدل نہ کرنے پر دلیل ہے	49	i	☆ قرآن کریم حافظہ سے محو نہ ہونے دینا خدا تعالیٰ کی ذمہ داری تھی
153	vii	☆ آنحضور ﷺ کی صداقت کا ایک ثبوت آپ کا ایمان کامل	60	ii	☆ آنحضور ﷺ کی سعی مبارک
162	viii	☆ آنحضور ﷺ کی صداقت کا ثبوت: صحابہ کا غیر متزلزل ایمان	66	iii	☆ صحابہ کی گواہی
174	4	رسول کریم ﷺ کو قرآن کریم میں کسی رد و بدل کا موقع نہیں تھا	68	iv	☆ مخالفین کی گواہی
			69		
			77		فصل 2
			81	i	☆ صحابہ کے دور میں جمع قرآن سے مراد اور اس کا محرک
			87	ii	☆ عہد خلافت صدیقی میں جمع قرآن کا طریق
				iii	☆ صحابہ کے دور میں قرآن کریم میں رد و بدل ناممکن تھا
			98		
			100	iv	☆ قرآن مجید کے اعراب (حرکات) و نقاط

256	آیتِ رجم	6	177	ترتیبِ قرآن	5
257	☆ حضرت عائشہؓ سے مروی روایت	i	177	☆ ترتیبِ آیات	i
261	☆ رسول کریم ﷺ اور خلفاء راشدین کا رجم کی سزا تجویز کرنا	ii	178	☆ ترتیبِ سور	ii
269	اختلافِ مصاحف	7	181	☆ سورتوں کی ترتیب پر قرآن کریم کی اندرونی گواہی	iii
285	اختلافِ قراءت	8	184	☆ ترتیبِ سور پر احادیث اور روایات سے دلائل	iv
289	☆ فرق حرکات (اعراب)	i	186	☆ رسول کریم کی لگوائی ہوئی ترتیب بدلی نہیں گئی	v
289	☆ فرق حروف	ii	195	☆ قرآن کریم کی احزاب یا منازل میں تقسیم	vi
291	☆ اختلاف لغت	iii	204	☆ خلاصہ	vii
310	☆ ایک تحقیق	iv	204	☆ حکم و عدل علیہ السلام کا ارشاد	vii
311	متفرق الزامات	9	204	☆ قرآن کریم کی ترتیب نزولی کے بدلنے میں حکمت	ix
311	☆ قرآن کریم کے لفظ ”قل“ پر اعتراض	i	207	☆ قرآن کریم کا حسن بیان	x
321	☆ اعتراض: محققین کے مطابق قرآن کریم کی بہت سی آیات الحاقی ہیں	ii	213	☆ آخری طریق فیصلہ	xi
345	☆ حفاظت قرآن کے ضمن میں مستشرقین کی گواہیاں	iii	228	☆ قرآن کریم کی معنوی ترتیب اور اس کا دستور بیان	xii
352	☆ حفظ قرآن پر اعتراض	iv	236	☆ قرآن کریم کا اسلوب بیان بطریق درس و تعلیم	xiii
365	باب 3 قرآن کریم کی معنوی محافظت		237	☆ ترتیبِ مضامین قرآن	xiv
383	☆ مسئلہ نسخ و منسوخ	i	238	☆ قرآن کریم کا اسلوب بیان عام طرز پر نہیں ہے	xv
394	☆ قرآن کریم کی دائمی حفاظت کا وعدہ ہے	ii	241	☆ قرآن کریم مضمون کو اس کی طبعی ترتیب سے بیان فرماتا ہے	xvi
398	☆ قرآن کریم کے بعد اور کسی الہامی کتاب کے نزول کی ضرورت نہیں	iii	244	☆ نظام ترتیب قرآن، قوانین قدرت کے مطابق ہے	xvii
399	انڈیکس		245	☆ ترتیب قرآن عالم جسمانی اور عالم روحانی کے مطابق ہے	xviii
	انڈیکس آیات	i	246	☆ قرآن کریم کی ترتیب بیان باعتبار ظاہر	xix
	انڈیکس اعتراضات	ii	248	☆ قرآن کریم میں اعادہ و تکرار اور اس کا حقیقی فلسفہ	xx
	انڈیکس اسماء	iii	252	☆ خلاصہ	xxi
			254	☆ قرآن کریم کی اجزاء اور رکوعوں میں تقسیم	xxii
			255		

باب اول

قرآن کریم کی لفظی محافظت

اگر تمام دنیا میں تلاش کریں تو قرآن مجید کی طرح خالص اور محفوظ کلام الہی کبھی نہیں مل سکتا۔ بالکل محفوظ اور دوسروں کی دستبرد سے پاک کلام تو صرف قرآن مجید ہی ہے۔ (حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام)

3	تمہید
12	فصل 1 عہد نبویؐ میں جمع و تدوین قرآن کریم پندرہ (15) ذیلی عناوین
77	فصل 2 عہد خلافت راشدہ میں جمع و تدوین قرآن کریم چار (4) ذیلی عناوین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا نادر اور بے مثل کلام ہے کہ ایسے بہت سے مواقع پیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے کہ اس کی خوبیاں دیکھ کر کفار کے دل پر بھی رعب طاری ہو جاتا ہے۔ وہ بھی دل ہی دل میں کبھی حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم تسلیم کرنے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن اس کے بعد پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اپنے تکبر، نخوت اور انانیت کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے صداقت کو پہچاننے کے باوجود قبول کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ پھر مخالفت برائے مخالفت میں ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تمسخر کرتے اور خدا سے ٹکر لے بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ سمجھتے نہیں جب ہم نے ایک کلام اتارا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کیے بغیر ہی مٹ جائے۔ وہ قائم رہے گا اور رکھا جائے گا اور اسے قبول نہ کرنے والے خود اپنا ہی نقصان کریں گے۔ فرمایا کہ اس کلام کی مخاطب ساری دُنیا ہے پس اگر ساری دُنیا نے اسے نہ مانا اور ظلم و تعدی اور شرارت کی راہ سے مخالفت میں حد سے بڑھ گئی تو ساری دُنیا تباہی کا شکار ہوگی۔

یہ سورت چار نبوی یا اس سے بھی پہلے نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کی ظاہری حالت بہت کمزور تھی۔ گنتی کے مسلمان تھے اور وہ بھی زیادہ تر غربا۔ ایسے میں ٹکر لینے پر ساری دُنیا کو تباہ و برباد کر دیے جانے کے انداز اور تنبیہ پر کفار حیرت کا اظہار کرتے اور مسلمانوں کو تمسخر اور تضحیک کا نشانہ بناتے کہ تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ ہم اس چھوٹی سی بستی میں رہنے والے ہی جب چاہیں تمہیں مسل ڈالیں اور تم دُنیا پر فتح یاب ہونے کی بات کر رہے ہو۔ چنانچہ ایک طرف مسلمانوں سے استہزاء کرتے اور دوسری طرف بانی اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ میں کہتے کہ یہ تو ایک دیوانہ ہے (نعوذ باللہ)۔ قرآن کریم ان کا یہ تمسخران الفاظ میں بیان کرتا ہے:

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (الحجر: 7)

اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے یقیناً تو دیوانہ ہے

پہلے انبیاء سے بھی تمسخر ہوا لیکن انبیاء سے تمسخر کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوئے اور انبیاء ہمیشہ کامیاب ہوئے اسی طرح اب بھی ہوگا۔ خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کو کامیاب کرے گا۔ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ خدا تعالیٰ پر افترا کرنا ایسی بات نہیں کہ اس سے صرف نظر کیا جائے۔ خدا خود اس امر کی حفاظت کرتا ہے کہ اس پر افترا نہ کیا جائے اور سچے کلام کو خاص امتیاز عطا فرماتا ہے۔ اس کی قبولیت کے سامان پیدا کر دیتا ہے اور جو اسے قبول کرتے ہیں انہیں ادنیٰ حالت سے اٹھا کر کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ پس اب بھی یہی مقدر ہے اگر مخالف پروا نہیں کرتے تو نہ کریں۔ تو اس خزانہ کو

تقسیم کرتا چلا جا اور جو اسے قبول نہیں کرتے انہیں سمجھاتا چلا جا اور خدا سے دعائیں کر۔

یوں تو مخالفین پر حجت تمام کرنے کے لیے قرآن کریم نے اپنے الہی کلام ہونے کے بہت سے دلائل بیان کیے ہیں لیکن اس بیہودہ تمسخر کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الہی کلام ہونے کی ایک ایسی دلیل بیان فرمائی جو اس دور کے منکرین کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ جو لوگ کہتے تھے کہ تمہارا تو یہ حال کہ ہم تمہیں اسی بستی میں کچل دیں گے ان کو لکارا کہ تم کچلنے کی بات کرتے ہو لیکن ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ اس کلام کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ (الحجر: 10)

یعنی یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

تم نے اسلام کو کیا کچلنا ہے، اسلام کے پیغام میں ادنیٰ سا تغیر و تبدل بھی نہیں کر سکو گے۔ تمہاری یہ خوش فہمی تمہارے دیکھتے دیکھتے حسرت میں بدل جائے گی اور تم اپنی ان کوششوں میں اور حسرتوں میں ناکام و نامراد رہو گے اور اسی نامرادی میں مرو گے۔ تمہارے نقش قدم پر چلنے والی تمہاری نسلیں بھی انہی حسرتوں کو سینوں میں لیے اس دُنیا سے کوچ کر جائیں گی پھر ان کی نسلیں اور پھر ان کی نسلیں اور نسل بعد نسل اسلام اور اسلام کے پیغام کو نابود کرنے کی کوششیں کرنے والے اپنے نامراد انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے قیامت تک انہی حسرتوں کی آگ میں جلتے اور مرتے چلے جائیں گے مگر کسی دشمن کو کسی زمانہ میں بھی اپنی مراد برآتی دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی ^{المصلح} الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

یہ ایک نہایت ہی زبردست آیت ہے اور ایسی عجیب ہے کہ اکیلی ہی قرآن مجید کی صداقت کا بین ثبوت ہے۔ اس میں کتنی تاکیدیں کی گئی ہیں۔ پہلے ان لایا گیا ہے پھر ناکا کی تاکید نَحْنُ سے کی گئی ہے اور پھر آگے چل کر ایک اور ان اور لام لایا گیا ہے۔ گویا تاکید پر تاکید کی گئی ہے۔ کفار نے اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ کے جملہ میں دوہری تاکید سے کام لے کر تمسخر کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ تاکید کے چار ذرائع استعمال کرتا ہے اور فرماتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ (الحجر: 10) سنو! ہم نے ہاں یقیناً ہم نے ہی اس شرف و عزت والے کلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے اور ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ اللہ اللہ کتنا زور ہے اور کس قدر حتمی وعدہ ہے۔

(تفسیر کبیر جلد سوم زیر تفسیر الحجر آیت 10 صفحہ 50)

اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ قرآن شریف آج تک محفوظ ہے؟ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ

اتفاق نہیں بلکہ اس کی ظاہری حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے دو بنیادی انتظامات فرمائے جن کا ذکر اس سورت کے شروع ہی میں کیا گیا ہے۔ ابتدائے نزول ہی سے اس کی آیات لکھی جانے لگیں اور اس کی حفاظت کا سامان کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں اسے ایسے عشاق عطا کیے جو اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرتے اور رات دن خود پڑھتے اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کسی نہ کسی حصے کا نمازوں میں پڑھنا فرض مقرر کر دیا اور شرط لگا دی کہ کتاب میں سے دیکھ کر نہیں بلکہ حفظ کر کے پڑھا جائے۔

ایسے آدمیوں کا مہیا کرنا جو اسے حفظ کرتے اور نمازوں میں پڑھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور آپ کے اختیار سے باہر تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ کہ ایسے لوگ ہم پیدا کرتے رہیں گے جو اسے حفظ کریں گے۔ آج اس اعلان پر پندرہ سو سال ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کے کروڑوں حافظ گزر چکے ہیں اور آج بھی بے شمار حافظ ملتے ہیں جنہیں اچھی طرح سے قرآن کریم یاد ہے۔

ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ مقرر فرمایا کہ ایسے سامان کر دیے کہ قرآن مجید اپنے نزول کے معاً بعد تمام دنیا میں پھیل گیا اور یوں اس میں تغیر و تبدل کا امکان ہی نہیں رہا۔

ایک ذریعہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ تھا کہ اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی جس سے اس کی ہر حرکت و سکون محفوظ ہو گئے۔ مثلاً نحو پیدا ہوئی تو قرآن مجید کی خدمت کے لئے۔ پھر مسلمانوں نے علم تاریخ ایجاد کیا تو قرآن مجید کی خدمت کی غرض سے کیونکہ قرآن مجید میں مختلف اقوام کے بیان شدہ حالات آئے تھے ان کی تحقیق کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے حالات بھی جمع کر دیے۔ پھر علم حدیث شروع ہوا تو قرآن مجید کی خدمت کے لیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کیا معنی بیان فرمائے ہیں۔

پھر اہل فلسفہ کے قرآن مجید پر اعتراضات کے دفعیہ کے لیے مسلمانوں نے علوم فلسفہ کی تجدید کی اور علم منطق کے لیے نئی اور زیادہ محقق راہ نکالی۔ پھر مسلمانوں میں طب کی بنیاد بھی قرآن مجید کے توجہ دلانے پر ہی قائم ہوئی۔ اسی طرح نحو میں مثالیں دیتے تو قرآن مجید کی آیات کی اور ادب میں بھی بہترین مجموعہ قرآن مجید کی آیات کو قرار دیا گیا۔ غرض ہر علم میں آیات قرآنی کو بطور حوالہ نقل کیا جاتا۔ مسلمانوں میں قرآن کریم کے خدمت کے لیے دیگر علوم کی طرف رجوع کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوا کہ پہلی کتابوں سے تو دنیوی علما کا طبقہ سخت بے زار تھا لیکن مسلمانوں میں سے ان علوم کے ماہر ہمیشہ قرآن مجید کے خادم رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سچے علوم کا دشمن نہیں بلکہ مؤید ہے۔

مشہور مستشرق فلپ کے حتیٰ اس بارہ میں رقم طراز ہیں:

”قرآن صرف ایک مذہب کا دل اور آسمانی بادشاہت کا رستہ دکھانے والا نہیں بلکہ وہ علوم و

فنون اور سائنس و حکمت کا نچوڑ اور ایسی تاریخی دستاویز ہے جس میں ارضی بادشاہت کے قوانین بھی پیش کیے گئے ہیں۔“

(تاریخ عرب از فلپ کے حتی، ناشر: آصف جاوید برائے نگارشات، باب 5 صفحہ 35)

پھر لکھتے ہیں:

”مسلمانوں کے نزدیک دینیات، فقہ اور سائنس دراصل ایک ہی شمع کی کرنیں ہیں۔ لہذا تعلیم و تربیت کے لیے قرآن سائنس کے رہنما اور ایک درسی کتاب کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ دُنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی جامعۃ الازہر جیسے ادارے میں اس کتاب کو اب بھی سارے نصاب کی اساس قرار دیا جاتا ہے۔“ (حوالہ مذکورہ صفحہ 37)

قرآن کریم کی زبان نے دُنیا بھر کے مسلمانوں کو یکجا کیا اور انہیں ایک زبان __ قرآن کی زبان پر جمع کیا۔ ہر مسلمان جو قرآن کریم سیکھتا ہے اس زبان سے واقف ہوتا ہے۔ چنانچہ فلپ کے حتی لکھتے ہیں:

”شام، عرب اور مصر کی طرح عراق اور مراکش میں ہر جگہ وہی کلاسیکل عربی زبان رائج ہے جس کی تشکیل قرآن نے کی۔“

(حوالہ مذکورہ صفحہ 37)

دوسرے مذاہب کی کتب اپنے پیروکاروں کو یکجا کیا کرتیں وہ تو خود اپنی زبانوں کو بھی زندہ نہ رکھ سکیں۔ مثلاً وید کے بارہ میں اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ لفظاً محفوظ ہیں تو بھی وہ کتاب کامل ہونے کے لحاظ سے محفوظ نہیں کیونکہ جس زبان میں وہ نازل ہوئے وہ محفوظ نہیں رہی اس لیے اس کے معانی بالکل مشتبہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان ظاہری سامانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ایسا ذریعہ بھی مقرر کیا جو غیر اللہ کے دخل سے بگلی پاک ہے اور وہ ہے الہام کا ذریعہ۔ یعنی قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے لیے امت محمدیہ میں مجتہدین اور مامورین کی بعثت ہوتی رہے گی۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلِيًّا رَأْسَ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

(سنن ابی داؤد کتاب الملاحم باب ما جاء فی قرن المائة)

یعنی اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے مبعوث کرتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے الہام سے تائید یافتہ بندے قرآن کریم کی صحیح تعلیم سے دُنیا کو فیضیاب کرتے رہے۔ چودہویں صدی کے سر پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا:
یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کیلئے غیور ہے۔ اس نے سچ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا
لَهٗ لَخٰفِضُوْنَ (الحجر: 10) اس نے اس وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے موافق کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے اس نے مجھے
صدی چہار دہم کا مجدد کیا جس کا نام کاسر الصلیب بھی رکھا ہے۔..... ہم اس سے تائیدیں پاتے
ہیں اور اس کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں۔

(ملفوظات جلد دوم صفحہ 371-370)

اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن کریم کی پیروی سے وصال الہی کا مرتبہ پانے والے لوگ پیدا ہوتے
رہیں گے اور جب تک قرآن کریم کی پیروی کی برکت سے مجدد اور مامور اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے یہ
ثابت ہوتا رہے گا کہ قرآن کریم محفوظ ہے کیونکہ ذکر کے ایک معنی شرف اور نصیحت کے بھی ہیں۔ قرآن کریم
کا نام ذکر اس لیے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے اس کے ماننے والوں کو شرف اور تقویٰ حاصل ہوگا۔ پس اِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَخٰفِضُوْنَ میں اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف بھی اشارہ فرماتا ہے کہ یہ کلام جس سے
ماننے والوں کو شرف اور عزت اور تقویٰ ملے گا ہمارا ہی نازل کردہ ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یعنی ان دعووں
اور وعدوں کو عملاً پورا کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ اگر اس کی یہ صفات ظاہر نہ ہوں تو گویا اس کی تعلیم ضائع ہوگئی مگر ہم
ایسا نہیں ہونے دیں گے۔

آغازِ وحی سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی قرآن کریم تحریری طور پر محفوظ کیا جانے لگا۔
یوں ابتدا سے ہی اس کا ایک مخصوص متن تھا جو ایک تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ ہر دور میں اس امر کی عقلی، نقلی اور
اجتماعی گواہی موجود رہی ہے کہ جو متن قرآن کریم کا آج ہمارے پاس موجود ہے وہ بعینہ وہی ہے جو آپ نے دنیا
کو دیا تھا۔ آپ پر جو بھی وحی نازل ہوتی آپ اسے اسی وقت لکھوا لیتے تھے۔ پھر ہر طرح تسلی کرنے کے بعد
چنیدہ صحابہ کو حفظ کروادیتے جو حفظ کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے دیگر صحابہ کو حفظ کراتے۔ علاوہ ازیں جب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کر صحابہ کو حفظ کرا دیتے تو پھر مختلف صحابہ اس نئی وحی کی نقول اپنے لیے بھی تیار
کر لیتے۔ یہ حفظ اور تحریرات گاہے گاہے آپ کی خدمت میں پیش کر کے مستند بنالی جاتیں۔ اس درجہ احتیاط اور
اخلاص کے ساتھ ساتھ بہت کثرت سے ہر تازہ وحی کو حفظ اور تحریری صورت میں محفوظ کیا جاتا کہ اس میں کسی قسم
کی تحریف کا راہ پا جانا ممکن نہیں رہتا تھا۔ پھر آپ وقتاً فوقتاً صحابہ کے پاس محفوظ قرآن کریم کو چیک کرتے رہتے۔
اس کے ساتھ ساتھ تعلیم القرآن کا باقاعدہ ایک انتظام کے ساتھ سلسلہ جاری تھا جس کے نگران اعلیٰ آپ صلی

اللہ علیہ والہ وسلم خود تھے۔ علاوہ ازیں صحابہ خود بھی عشقِ قرآن میں سرشار ہونے کی وجہ سے کثرت سے اس کی تلاوت کرتے۔ گھروں میں، سفر و حضر میں، نمازوں میں، مجالس وغیرہ میں کثرت سے تلاوت ہوتی۔ غرض اُترنے والی نئی وحی کی احتیاط کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس طرح حفاظت، اشاعت اور پھر بار بار دہرائی ہوتی کہ اس کا بدلنا یا بھولنا ناممکن ہو جاتا۔ صحابہ اُس یقین کامل سے لبریز تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام، کلامِ الہی ہے اور اس میں ان کے لیے نجات کا سامان ہے۔ چنانچہ وہ وہاں نہ محبت کے ساتھ اس کی حفاظت اور تعلیم و تدریس میں منہمک رہتے اور نازل ہونے والی ہر آیت کو نزول کے ساتھ ساتھ فوراً حفظ کرتے جاتے۔ صحابہ اپنا اپنا حفظ کیا ہوا قرآن کریم کا حصہ ایک دوسرے کو بھی سنایا کرتے اور اس بات کی کڑی نگرانی رکھتے کہ کلامِ الہی میں ادنیٰ سی کمی بیشی بھی نہ ہو۔ اگر کبھی ادنیٰ سا بھی شک ہوتا تو معاملہ فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ سے رہنمائی لی جاتی۔

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہونے والا یہ کلام آپ کی نگرانی میں تحریری طور پر صرف انصارِ مدینہ میں سے کم از کم پانچ صحابہ کے پاس پانچ نسخوں کی صورت میں ایک معین متن کی شکل میں جمع کیا جا چکا تھا۔ پھر دیگر صحابہ کے تیار شدہ ذاتی نسخوں کے علاوہ آپ پر نازل ہونے والی وحی کی بے شمار متفرق تحریرات موجود تھیں جو براہ راست آپ کے حضور پیش کر کے مستند بنائی گئی تھیں جن پر آپ نے مہر تصدیق ثبت فرمائی تھی۔ پھر بلا مبالغہ ہزاروں ہزار حفاظ موجود تھے جنہوں نے آپ کی وساطت سے اتری ہوئی خدائی راہنمائی کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حضور تلاوت کر کے اس کی درستگی کی تصدیق کروالی تھی۔

یہ امر عام فہم ہے کہ کسی بھی شخص کے مزاج اور طبیعت کا اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ کسی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاشرت، سوچنے کا انداز ان سب کا ان نتیجوں سے تعلق ہوتا ہے جو وہ اپنے ماحول اور مختلف امور کے مطالعہ سے اخذ کرتا ہے۔ مستشرقین اور محققین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔

ہر مطالعہ کرنے والے پر یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ ہر شخص کے طبعی رجحان اور ذہنی میلان کی سمت کا اس کے اعمال پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا مزاج نسبتاً سخت ہوتا ہے وہ بعض اوقات اصلاح معاشرہ کے لیے نسبتاً سخت رویہ اپنانے والے کو پسند کرتے ہیں جبکہ نرم دل لوگ وعظ و نصیحت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک عام فہم اور مسلمہ حقیقت ہے چنانچہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ طبائع کے اس اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات قطع نظر اس کے کہ متوازن اور بہترین طریق کیا ہے ایک طرز عمل ایک شخص کے دل کو بھاتا ہے اور کسی دوسرے کے دل کو نہیں بھاتا اور اس کے نزدیک مزید بہتر صورت موجود ہوتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت

ہے کہ بعض دفعہ ایک محقق بعض حقائق کو بیان کرنے پر اس طرح مجبور ہو جاتا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سوچ کے مطابق نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا اور واضح طور پر اعتراف کرتا ہے کہ حقائق کا مجموعی مطالعہ ہمیں فلاں نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ نتیجہ اخذ کر کے یا اس حقیقت کا اعتراف کر کے دلی طور پر خوش تو نہیں لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔

مغربی محققین اور مستشرقین کے ہاں اسلام کے بارہ میں تحقیق میں بالعموم تعصب اور اسلام دشمنی کا عنصر بہت حد تک کارفرما دکھائی دیتا ہے۔ ایک خاص طرز فکر، بنیادی اسلامی مآخذ سے ناآشنائی، عربی سے عدم واقفیت اور مخالفانہ اور متعصب اٹھان کی وجہ سے مستشرقین کی تحقیقات میں بارہا یہ نظر آتا ہے کہ واضح حقائق کو عمداً نظر انداز کیا جا رہا ہے اور بلاوجہ تنقید کی جا رہی ہے جو اکثر اوقات تحقیق کے اپنے مسلمہ اصولوں کے بھی خلاف ہوتی ہے لیکن اس رویہ کے باوجود تحقیق کے کچھ میدان ایسے ہیں جہاں بسا اوقات تمام تر حقائق پر نظر ڈالنے کے بعد وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے خلاف اور درست نتیجہ نکالیں۔ گویا ایسے موقعوں پر الفاظ میں تعصب تو وہی جھلک رہا ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے لیکن کوئی بس نہیں چلتا۔ چنانچہ محافظتِ قرآن شریف کے میدان میں کچھ ایسا ہی نظارہ نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے بارہ میں حقائق ایسے روشن اور واضح ہیں کہ جن کا مطالعہ کرنے والا ہر دیانت دار محقق باوجود نظریاتی اختلاف اور مخالفت کے اس بات کا کھلم کھلا اظہار کرتا ہے کہ قرآن کریم بلاشبہ محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پیش لفظ میں ولیم میور اور نولڈ کی مثال گزر چکی ہے۔ لیکن دشمنی اور تعصب میں حد سے گزرنے والے کچھ سر پھرے ایسے بھی ہیں جن کی عقلیں اس درجہ موٹی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے روشن کیے ہوئے اس چراغ کو اپنے مومنوں کی پھونکوں سے بجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں ان کے عمائدین کو شاید پورا پورا موقع نہیں ملا اس لیے نامرادی کے داغ چہروں پر سجائے گزر گئے۔ ہم آج پھر زور لگائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک ”محقق“ ابن وراق نے اس بات کو پوسٹ ڈال کر کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کا خود ضامن ہے اور اس حقیقت کی صداقت کا ثبوت پندرہ صدیوں پر محیط عرصہ ہے، حفاظتِ قرآن پر ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کی جرأت کی ہے۔ لکھتا ہے:

We need to retrace the history of the Koran text to understand the problem of variant versions and variant readings, whose very existence makes nonsense of the muslim dogma about the Koran. As we shall see, there is no such thing as the Koran; there never has been a definitive text of this holy book. When a Muslim dogmatically asserts that the Koran is the word of God, we need only ask "Which Koran?" to undetermine his certainty.

After Muhammad's death in A.D. 632, there was no collection of his revelations. Consequently, many of his followers tried to gather all the known revelations and write them down in codex form. Soon we had the codiced of several scholars such as Ibn Mas'ud, Ubai b. Kab, Ali, Abu Bakr, al-Ash'ari, al Aswad, and others. As Islam spread, we eventually had what became known as the Metropolitan Codices in the centers of Mecca, Medina, Damascus, Kufa and Basra. As we saw earlier, Uthman tried to bring order to this chaotic situation by canonising with Medinan Codex, copies of which were sent to all the metropolitan centers with order to destroy all the other codices.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg 108-109)

”ہمیں مختلف versions اور مختلف قراءتوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے قرآنی متن کی تاریخ کو دوبارہ کھنگالنے کی ضرورت ہے جن کا وجود ہی قرآن کریم کے بارہ میں مسلمانوں کے عقیدہ کا بودا پین ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن نام کی کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اس مقدس کتاب کا کوئی خاص متن کبھی بھی سامنے نہیں آیا۔ جب ایک مسلمان اپنے اس عقیدہ کا اظہار کرتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو ہمیں اس کا یقین متزلزل کرنے کے لیے صرف یہی پوچھنا کافی ہوتا ہے کہ ”کون سا قرآن؟“

(حضرت) محمد (ﷺ) کی وفات 632ء کے بعد آپ پر نازل ہونے والی وحی کا کوئی مجموعہ موجود نہیں تھا۔ دریں اثناء آپ کے بہت سے صحابہ نے تمام معلوم وحی کو جمع کرنے کی کوشش شروع کر دی اور اسے متن کی صورت میں لکھ لیا۔ چنانچہ جلد ہی بہت سے علماء، جیسے ابن مسعود، اُبی بن کعب، علی، ابو بکر، الاشعری، الاسود اور دوسرے صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے مجموعے دستیاب تھے۔ اسلام کے پھیلنے ہی ہمارے پاس آخر کار چند مرکزی صحائف اکٹھے ہو گئے جو مکہ، مدینہ، دمشق، کوفہ اور بصرہ میں تھے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عثمان نے صحیفہ کی اس ناگفتہ بہ حالت کی مدنی صحیفہ کے مطابق تدوین کے ذریعہ اصلاح کی کوشش کی جس کی نقول اس حکم کے ساتھ دوسرے نئے اسلامی مراکز میں بھجوا دی گئیں کہ دیگر تمام نسخہ ہائے قرآن تلف کر دیے جائیں۔

اس چھوٹے سے بیان میں ابن وراق جتنا جھوٹ بھر سکتا تھا اس نے بھر دیا ہے۔ خصوصاً پہلے پیرے میں کیے ہوئے جھوٹے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسرے پیرے میں مزید تلبیس، جھوٹ اور فریب سے کام لیا ہے۔ حالانکہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ قرآن کریم کا کبھی بھی کوئی مخصوص اور معین متن نہیں رہا اور آپ کی وفات کے

بعد لوگوں نے جو حصہ ہائے وحی ملے انہیں لکھ لیا۔ اس اعتراض کے جواب کے لیے ہم ابن وراق کی خواہش کے مطابق تاریخی حقائق کی روشنی میں قرآن کریم کی جمع و تدوین کے مراحل پر نظر ڈالتے ہیں۔

قرآن کریم کی جمع و تدوین کا زمانہ دراصل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور تک ممتد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں قرآن کریم کو ہر طرح محفوظ کر چکے تھے اور اس کا متن اور اس کی تعلیمات آپ کے حین حیات ہی شائع ہو چکی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہؓ نے قرآن کریم کی جو گراں قدر خدمات سرانجام دیں ان میں قرآن کریم کی تحریر کو کمال احتیاط اور دیانت داری کے ساتھ ایک جلد میں ایک مستند مرکزی نسخہ کی شکل میں پیش کرنا، اختلاف قراءت کا حل اور کثرت اشاعت شامل ہے۔ ذیل کی سطور میں ہم الگ الگ فصول میں ان دونوں ادوار کا تاریخی مطالعہ کریں گے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی جمع کے وعدہ کو معجزانہ رنگ میں پورا فرمایا۔

اس بحث کے تاریخی پہلو کو بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

1۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کی جمع و تدوین اور

2۔ خلافت راشدہ کے دور مبارک میں قرآن کریم کی جمع و تدوین

عہدِ نبویؐ میں جمع و تدوین قرآن

قرآن کریم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر ساڑھے بائیس سال سے زائد عرصہ میں نازل ہوا۔ نزول کی یہ انتہائی معمولی رفتار قرآن کریم کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے بے شمار فوائد اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ حفاظت کے ذرائع کے حوالہ سے بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (بنی اسرائیل: 107)

ترجمہ: اور قرآن وہ ہے کہ ہم نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تو اسے لوگوں کے

سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور ہم نے اسے بڑی قوت اور تدریج کے ساتھ اتارا ہے

علامہ زرکشی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا زمانہ نزول بائیس سال پانچ ماہ اور چودہ دن ہے۔

(بدر الدین محمد بن عبداللہ الزرکشی: البرہان فی علوم القرآن۔ الجزء الاول صفحہ 314)

ناشر دار احیاء الکتب العربیہ، مصر)

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اپنی ایک تحقیق یہ بیان فرماتے ہیں کہ نزول کی اوسط رفتار، فی آیت روزانہ بھی نہیں بنتی کیونکہ ایام نبوت تقریباً 7970 بنتے ہیں۔ جبکہ آیات قرآنی 6236، الفاظ کی تعداد 77934 ہے۔ اس لحاظ سے فی آیت اوسطاً 12 الفاظ بنتے ہیں جبکہ نزول روزانہ اوسطاً 9 الفاظ کا ہوا۔ ہر آیت یا کسی بھی قرآنی حصہ کے نزول کے ساتھ ہی آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم فوری طور پر مقرر شدہ لوگوں میں سے کسی کا تب کو بلا کر اس نئی نازل ہونے والی وحی کو اپنی نگرانی میں تحریری شکل میں بھی محفوظ کروالیتے اور صحابہ کو حفظ بھی کروادیتے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا حافظہ اور عربوں کا حافظہ ذہن میں رکھ کر جب غور کریں کہ اس شان کے حافظہ کے ساتھ اتنی کم رفتار سے نازل ہونے والا قرآن جو نزول کے وقت ہی تحریر کے ساتھ ساتھ حفظ کی صورت میں سینوں میں بھی محفوظ ہوتا جا رہا تھا اور دن رات اس کی درس و تدریس کا ایک سلسلہ جاری رہتا جس کی نگرانی آپ کرتے تھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی لفظ بھی محفوظ ہونے سے رہ جاتا۔ نزول کی اوسط رفتار نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ قرآن کریم کے نزول کی رفتار عام طور پر اتنی کم تھی کہ اس کی حفاظت اور اشاعت کرنے کے حوالہ سے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ بلکہ انتہائی آسانی سے یہ تمام مراحل طے پا جاتے تھے اور ہنگامی بنیادوں یا جلد بازی سے کاموں میں جو سقم رہ جایا کرتے ہیں، یہ کتاب ان سے بگلی پاک تھی۔ یہ انداز نزول اپنے اندر بہت سی حکمتیں سموئے ہوئے ہے جن کا محافظت قرآن سے براہ راست تعلق

ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً۔ (الفرقان: 33)

ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اس پر قرآن ایک دفعہ کیوں نہ اتارا گیا۔ اسی طرح (اتارا جانا تھا) تاکہ ہم اس کے ذریعہ تیرے دل کو ثبات عطا کریں اور (اسی طرح) ہم نے اسے بہت مستحکم اور سلیس بنایا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نزول کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے دلوں میں راسخ کرنے اور اس کو حرز جان بنانے میں بنیادی کردار ہے۔ چنانچہ یہ کئی طرح سے ہوا: اول: اگر ایک ہی دفعہ سارا قرآن کریم نازل ہو جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استدلال کرتے رہتے تو آپ کے دل کو ایسی تقویت حاصل نہیں ہو سکتی تھی جیسے کسی امر کے متعلق فوراً کلام الہی کے نزول سے ہو سکتی ہے۔ وہ لطف اور اثبات آپ کو اجتہاد اور استدلال سے نہیں ملتا تھا جو عین ضرورت کے وقت خدا کے ہم کلام ہونے سے ملتا تھا۔

دوم: جو کتاب ساری دنیا کے لیے آئی اس کا محفوظ رکھنا اس طرح آسان ہو گیا کہ اسے نزول کے ساتھ ساتھ ہی تحریری طور پر اور حفظ کے ذریعے محفوظ کیا جاتا۔ اگر اکٹھا نازل ہوتا تو پھر وہی حفظ کر سکتا جو اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دیتا۔ مگر اس طرح نزول کا فائدہ یہ ہوا کہ سینکڑوں لوگ ساتھ ساتھ اس کے حفظ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوم: قلوب میں اسلامی تعلیم راسخ ہونے میں اس طرز نزول کا اہم کردار تھا۔ اگر اکٹھا نازل ہو جاتا تو اس وقت لوگوں پر اس کی تعلیمات کا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا گراں ہو سکتا تھا۔ مگر آج اس کی ضرورت نہیں کیوں کہ اب اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے مسلمانوں کا طرز عمل ہوتا ہے اور اسے ان تعلیمات پر عمل کرنے میں دشواری پیش نہیں آتی۔

چہارم: رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً کے الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ اس کی ترتیب بھی دو طرح سے ہونی تھی۔ ایک ابتدائی حالات کے مطابق اور ایک دائمی ترتیب جو نزول کے ساتھ ساتھ قائم کی جا رہی تھی۔ اگر ایک ہی دفعہ قرآن کریم نازل ہوتا تو اس کی ترتیب یہی ہوتی جو آج ہے۔ مگر یہ ترتیب اُس دور کے لیے مفید نہ تھی جیسا کہ اُس دور کی ترتیب آج کے لیے غیر مفید ہے۔

پنجم: ایک ہی دفعہ قرآن کریم نازل ہونے میں کئی امور جو ابتدائی زمانہ میں صحابہؓ کے ازدیاد ایمان کا موجب ہوئے، بیان نہ ہو سکتے تھے۔ مثلاً قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی طرف اشارہ نہ کر سکتی۔ مثلاً

قرآن کریم میں یہ پیشگوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغہ کے نکال کر صحیح سلامت لے جائے گا۔ اگر ایک دفعہ سارا قرآن نازل ہوتا تو یہ نہ کہا جاسکتا تھا کہ دیکھو ایسا ہی ہوا۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا جبکہ پیشگوئی والا حصہ پہلے نازل ہو چکا ہوتا اور اس کی طرف اشارہ کرنے والا حصہ بعد میں نازل ہوتا۔

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام فرماتے ہیں:

کافر کہتے کہ کیوں قرآن ایک مرتبہ ہی نازل نہ ہوا۔ ایسا ہی چاہیے تھا تا وقتاً فوقتاً ہم تیرے دل کو تسلی دیتے رہیں اور تا وہ معارف اور علوم جو وقت سے وابستہ ہیں اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوں کیونکہ قبل از وقت کسی بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے سو اس مصلحت سے خدا نے قرآن شریف کو تیس برس تک نازل کیا تا اس مدت تک موعود نشان بھی ظاہر ہو جائیں۔
(حقیقۃ الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 357)

ششم: اگر ایک ہی بار یہ کتاب دے دی جاتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ کسی نے یہ کتاب بنا کر دے دی ہے۔ مگر اس طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اگر مکہ میں کوئی بنا کر دیتا تھا تو مدینہ میں کون دیتا تھا؟ پھر سفر و حضر میں قرآنی آیات نازل ہوئیں مجالس میں نازل ہوئیں اور علیحدگی میں بھی نازل ہوئیں۔ دن کے اوقات میں بھی نازل ہوئیں اور رات کی تاریکیوں میں بھی نازل ہوئیں۔ اس طرح یہ شک نابود ہو گیا کہ کوئی شخص یہ کلام بنا کر دے رہا ہے۔ جب ہر موقع اور محل کے مطابق آیات نازل ہو رہیں تھیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہر موقع پر کوئی آپ کو کلام بنا کر دے دیتا ہے۔

ہفتم: قرآن کریم کا یہ انداز نزول کتب سابقہ میں درج پیشگوئیوں کے عین مطابق ہے۔

ایک طرف عربوں کا مشہور زمانہ حیرت انگیز حافظہ اور دوسری جانب نزول کی رفتار اتنی کم۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم قرآن کی حفاظت کے ان ظاہری ذرائع کو دیکھتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی راہنمائی کے مطابق اختیار کیے۔ مثلاً کتابت قرآن، حفظ قرآن، تلاوت قرآن، تعلیم القرآن، وغیرہ۔ ذیل میں ان ذرائع کی کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے تاکہ قاری کو اندازہ ہو سکے کہ کس درجہ جانفشانی اور عشق و محبت اور اخلاص و وفا کے ساتھ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا گیا اور جن لوگوں نے یہ انتظام کیا، انہوں نے قرآن کریم میں رد و بدل نہ کرنے کی ہر قیمت چکائی۔

ابتداء نزول سے ہی کتابت و وحی قرآن کا اہتمام

ابن وراق کو یہ خبر جانے کہاں سے پہنچی ہے کہ قرآن کریم کا کبھی کوئی مخصوص متن نہیں رہا۔ اس بات کے قطعی ثبوت ملتے ہیں کہ تحریری طور پر جمع قرآن کا کام ابتداء سے ہی شروع ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ابتدائی ایام نبوت سے ہی وحی قرآن تحریر کروانا شروع کر دی تھی۔ اس حقیقت کو محققین تسلیم کرتے ہیں۔ مشہور مستشرق اور رومن کیتھولک ن کیمر آرمسٹرانگ لکھتی ہیں:

جب بھی کوئی آیت پیغمبر اسلام پر نازل ہوتی، آپ اسے بلند آواز میں صحابہ کرام کو سناتے جو اسے یاد کر لیتے اور جو لکھنا جانتے تھے، اسے لکھ لیتے۔

(محمد: باب دوم، صفحہ 61 پبلشرز: علی پلازہ 3 مزنگ روڈ لاہور)

اس سلسلہ میں بہت سے دلائل ملتے ہیں جنہیں مختلف انواع میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ذیل میں چند ایک دلائل درج کیے جاتے ہیں۔

قرآن کریم سے ثبوت

ایک بہت بڑی گواہی اس بات کی کہ نزول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم تحریر کیا جا رہا تھا، قرآن کریم سے یہ ملتی ہے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق: 2)

یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے

یہ پہلی وحی ہے اس لیے ظاہر ہے کہ جب یہ نازل ہوئی اس وقت وحی قرآن کی کوئی تحریری صورت نہ تھی اس لیے اِقْرَأْ الْكِتَابِ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ نہیں کہا گیا۔ مگر اس کے بعد باقاعدہ کتاب کے لفظ کا استعمال قرآن کریم نے شروع کر دیا۔ گویا پہلی وحی کے بعد اسے تحریری شکل میں محفوظ کرتے ہی قرآن کریم کا ایک تحریری وجود تشکیل پانے لگا جس پر لفظ کتاب کا اطلاق ہوتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ضرور مخالفین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے کہ کتاب کا ذکر تو کرتے ہیں مگر کتاب نظر نہیں آتی۔ چنانچہ بار بار یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور ابتدائی دور میں کسی دوست یا دشمن نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم تو تحریری شکل میں موجود ہے ہی نہیں پھر کیوں کر اسے کتاب کہا جا رہا ہے؟ سورۃ الفرقان میں کفار کا قول محفوظ کیا گیا ہے کہ اُن کو علم تھا کہ قرآن کریم کی تحریر کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الفرقان: 6)

اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے لکھوا لیے ہیں اور دن رات اس

کے سامنے ان کی املا کروائی جاتی ہے۔

سورۃ الفرقان سورۃ مریم سے قبل نازل ہوئی تھی۔ (البرہان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 193) اور سورۃ مریم چار نبوی کے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے جو پہلی ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہو چکی تھی کیونکہ

در بارہ نجاتی میں اس کے ابتدائی حصہ کی تلاوت کی گئی تھی۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جزء اول صفحہ 360) اس لحاظ سے سورۃ الفرقان کا زمانہ نزول نبوت کا دوسرا یا تیسرا سال بنتا ہے۔ مشہور متعصب مستشرق ریونڈ وھیری بھی یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ سورت بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔

The most that can be said of the date of revelation of this chapter is that they belong to an early period in Muhammad's ministry of Makkah.

(A comprehensive commentary of the Quran by Rev. E.M. Wherry vol. 3 Page 207)

یعنی اس سورت کے متن کی وحی کے بارہ میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ محمد (ﷺ) کی دعوت کے ابتدائی ہی دور کی ہے۔

پس بالکل ابتدائی زمانہ نبوت میں نازل ہونے والی سورۃ الفرقان میں کفار ہی کا قول محفوظ کیا گیا ہے جس کے مطابق قرآن نہ صرف یہ کہ لکھا جاتا تھا بلکہ اس کثرت سے لکھا جاتا کہ گویا رات دن اس کی املاء کروائی جا رہی تھی۔ پس ابتدائی زمانہ نبوت سے ہی قرآن کریم کی تحریر کا کام اس انداز میں ہو رہا تھا کہ مخالفین کو بھی علم تھا۔ ذیل میں چند مزید مثالیں درج کی جاتی ہیں:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ (الجمعة: 3)

یعنی وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی حکمت سکھاتا ہے۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي (الزمر: 24)

اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بیان ایک دوسرے سے ملتے جلتے مضامین بیان کرنے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ لَكِتَابًا عَزِيزًا۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلًا مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ (حم السجدة: 42، 43)

ترجمہ: یقیناً وہ لوگ (سزا پائیں گے) جنہوں نے ذکر کا، جب وہ ان کے پاس آیا، انکار کر دیا حالانکہ وہ ایک بڑی غالب اور مکرم کتاب کی صورت میں تھا۔ جھوٹ اُس تک نہ سامنے سے پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ بہت صاحبِ حکمت، بہت صاحبِ تعریف کی طرف

سے اس کا اتارا جانا ہے۔

اور بھی بہت سی آیات ایسی ملتی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم تحریری صورت میں موجود تھا۔ سارے زمانہ نزول میں قرآن کریم اپنے لیے لفظ ”کتاب“ استعمال کرتا چلا جاتا ہے جو دراصل ایک دعویٰ ہے کہ قرآن کریم ابتداء نزول سے لکھا جاتا رہا ہے اور مخالفین کی نہ صرف اس دعویٰ پر خاموشی بلکہ مختلف مقامات پر اس حقیقت کا واضح الفاظ میں اعتراف کرنا اس دعویٰ کی صداقت پر علاوہ دوسرے دلائل کے ایک بڑی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں بہت سی مستند تاریخی شہادتیں بھی اس حقیقت کی مؤید ہیں۔

احادیث اور تاریخ سے ثبوت

امّ خالد بنت خالد بن سعید بن العاص کی روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے والد (خالد بن سعید) نے لکھی تھی اور خالد بن سعید باختلاف روایات تیسرے یا چوتھے یا پانچویں نمبر پر ایمان لانے والے ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ایمان لائے اور السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ میں سے تھے۔

(الاصابه فی تمییز الصحابه الجزء الاول صفحہ 406)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے قبل بعض مقتدر صحابہ مثلاً حضرت علی و حضرت عثمان و حضرت ابو بکر وغیرہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) ایمان لا چکے تھے۔ نیز اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ وحی حضرت خالد بن سعید کے ایمان لانے سے قبل لکھی جا رہی تھی اور اگر بسم اللہ کا نزول پہلی مرتبہ ان کے ایمان لانے سے متصل نہیں ہوا تھا تو بسم اللہ بھی لکھی جا چکی ہوگی۔ خصوصاً اس صورت حال میں کہ جب ایمان لانے والے اپنے آپ کو مخفی رکھتے تھے اور کئی مومن ایک دوسرے سے واقف بھی نہیں تھے۔ اس لیے روایات میں اس بارہ میں اختلاف ہے کہ کون کس نمبر پر ایمان لایا۔ حضرت خالد بن سعید کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخہ قرآن کا ذکر کتاب المصاحف میں ملتا ہے کہ یہ نسخہ حرف بحرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔

(کتاب المصاحف لابن ابی داؤد الجزء الثالث: ص 104 اختلاف خطوط المصاحف)

حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل ابتداء میں ایمان قبول کرنے والوں میں سے ہیں اور یہ سب لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور کاتبین وحی میں بھی شامل تھے یعنی آنحضور نے ان صحابہ کی کتابت وحی پر باقاعدہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ اس لیے غالب امکان ہے کہ پہلا کاتب وحی بھی انہی میں سے کوئی ہوگا۔ چنانچہ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت جب بد بخت قاتل نے آپ پر تلوار کا وار کیا تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ وار ہاتھ پر پڑا اور آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ تھا جس نے سب سے پہلے قرآن مجید تحریر کیا تھا۔

کتابت وحی کا ایک زبردست تاریخی ثبوت جو تاریخ اسلام کا ایک اہم ورق بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو (نعوذ باللہ) قتل کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکلے اور راستہ میں معلوم ہوا کہ خود اپنی بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں تو غصہ میں ان کے گھر کی طرف چلے گئے۔ وہاں آپ کے بہنوئی حضرت خباب بن الارت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آہٹ پا کر حضرت عمر کی بہن فاطمہؓ نے خباب رضی اللہ عنہ کو اور ان اور اراق کو جن پر قرآن لکھا ہوا تھا چھپا دیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر نے ان سے وہ اوراق لے کر پڑھے۔ یہ واقعہ سنہ 5 یا 6 نبوی کا ہے۔ (شرح القسطلانی الجزء الاول صفحہ 272) اور اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ قرآن کریم ابتدائی زمانہ سے جبکہ اسلام اپنی کمزور حالت میں تھا لکھا جاتا تھا۔ اس مشہور روایت میں واضح طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں صحابہؓ کے پاس تحریری شکل میں قرآن کریم موجود تھا۔

پھر حضرت رافع بن مالکؓ ایک انصاری صحابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت سورۃ یوسف کا مسودہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے عطا فرمایا تھا۔ بعد میں بھی حضرت رافعؓ کچھ عرصہ کے لیے رسول کریمؐ کی خدمت میں رہے۔ اس اثناء میں سورۃ طہ نازل ہوئی اور اس کا مسودہ بھی ساتھ لے کر مدینہ منورہ گئے۔ (اسد الغابہ زیر حالات حضرت رافع بن مالک بن عجلان)

پھر ہجرت کا مشہور واقعہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وحی کے ممکنہ نزول کے پیش نظر سفر و حضر میں بھی سامان تحریر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ ہجرت جیسے موقع پر جبکہ جان کو خطرہ تھا اور دشمنوں کے زنگے سے نکل کر مدینہ پہنچنا بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامان تحریر ساتھ لے کر چلے۔ چنانچہ جب سراقہ بن مالک تعاقب کرتا ہوا آپ کے قریب آپہنچا اور الہی تائید آپ کے شامل حال دیکھ کر آپ سے امان کا طالب ہوا اور درخواست کی:

ان یکتب لی کتاب امن فامر عامر بن فہیرہ فکتب فی رقعة من ادیم
(بخاری کتاب المناقب باب ہجرة النبی و اصحابہ الی المدینة)

کہ مجھے پروانہ امن دے دیا جائے۔ اس پر آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے

چمڑے کے ایک ورق پر مجھے پروانہ امن لکھ دیا

پس سراقہ بن مالک کی درخواست پر یکا یک اس صحرائے لقا و دق میں سامان تحریر مہیا ہو جانا اس بات کا کس قدر واضح اور بڑا ثبوت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطرناک سے خطرناک حالات میں بھی وحی الہی کی کتابت کے خیال سے غافل نہ ہوتے تھے۔ اس واقعہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مخالفین میں بھی یہ بات مشہور و معروف تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامان تحریر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تبھی تو سراقہ نے درخواست کی۔

ان سب واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ سے ہی قرآن کریم تحریری صورت میں محفوظ کیا جاتا رہا تھا اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہوتے وہاں وہاں علاوہ درس و تدریس کے وحی الہی کی تحریری صورت میں اشاعت ہوتی تھی۔ اس بات کے دلائل تو بہت ہیں کہ بعد کے زمانہ میں جب کہ اسلام کمزوری کی حالت سے نکلا تو اس وقت قرآن کریم کے بہت سے نسخے جات موجود تھے۔ نیز یہ کہ کتابت قرآن کا یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی ہوتا تھا۔ ذیل میں چند روایات بطور نمونہ درج کی جاتی ہیں۔

... لما نزلت لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادع الی زید او لیجعی باللوح و القلم و الکتف او الکتف و الدواة ثم قال اکتب لا یستوی
(بخاری کتاب التفسیر باب قوله تعالی لا یستوی القاعدون)

یعنی جب آیت ”لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اُولی الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (النساء: 96) نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے زید کو بلا بھیجا اور وہ لوح اور قلم اور (اونٹ کے) شانہ کی ہڈی کے ساتھ یا راوی کا خیال ہے کہ شانہ کی ہڈی یادوات کے ساتھ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لکھو ”لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اُولی الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ فلا یمس القرآن انسان الا و هو طاهر یعنی پاک آدمی کے سوا قرآن کو کوئی بھی نہ چھوئے۔ اسی طرح روایت ملتی ہے کہ:

عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله ﷺ ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو
(مسلم کتاب الامارة باب النهی ان یسافر بالفصحف الی ارض الکفار....)

حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اپنے ساتھ نسخہ قرآن لے کر دشمن کی سر زمین میں سفر کیا جائے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو اس بات کا شوق تھا کہ سفر و حضر میں ان کے پاس خدا کا کلام لکھا ہوا موجود ہو جسے وہ پڑھتے رہیں اور ہر وقت حتی کہ حالت جنگ میں بھی نسخہ قرآن اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ کتابت قرآن کا مزید ثبوت کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ کی اس روایت سے ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

عن زید بن ثابت قال كنا عند النبي ﷺ نؤلف القرآن من الرقاع
(ترمذی کتاب المناقب عن رسول الله باب فی فضل الشام و الیمن)
(الاتقان: الجزء الاول؛ النوع الثامن عشر؛ جمع القرآن و ترتیبه، صفحہ: 58)
(تفسیر روح المعانی جزء اول صفحہ 21 مکتبہ امدادیہ ملتان)

ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی کپڑے یا چٹڑے کے ٹکڑوں پر قرآن کریم تحریر کیا کرتے تھے۔

پھر بخاری میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو بکرؓ حضرت زید بن ثابتؓ سے فرماتے ہیں:
..... نیز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ ہی یہ کام کریں کہ مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے حصہ ہائے قرآن کو تلاش کریں اور سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں۔... اس پر حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے مسلسل اتنا اصرار کیا کہ آخر خدا نے مجھے بھی اس معاملہ میں شرح صدر عطا فرمایا جس بارہ میں حضرت ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) کو شرح صدر عطا فرمایا تھا۔ تب میں نے مختلف جگہوں اور چیزوں سے قرآن کی آیات جمع کیں جو کھجور کی ٹہنی کی ڈٹھل اور پتھر کی باریک سلوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھیں۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)

اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتابت قرآن کریم کا خاص اہتمام فرماتے اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ کاتبین مقرر تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سارا قرآن کریم تحریری صورت میں محفوظ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ ملتا ہے:

لا تکتبوا عنی شیئا سوی القرآن

(مسند احمد بن حنبل؛ الباقي مسند المکثرین : مسند ابی سعید الخدری)

یعنی مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو۔

اسی طرح فرمایا:

لا تکتبوا عنی و من کتب غیر القرآن فلیمحه

(مسلم کتاب الذهد باب التثبت فی الحدیث و حکم کتابة العلم)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوالہ سے کوئی چیز نہ لکھا کرو اور اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو اس کو مٹا دے۔

یہ روایت بھی جہاں کتابت وحی قرآن کو بیان کرتی ہے وہاں وحی قرآن کو ہر دوسری چیز سے جدا، ممتاز اور پاک رکھنے کی مساعی پر بھی خوب روشنی ڈالتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ میں قرآن کریم تحریر کرنے کا عام رواج تھا اور اس خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات قرآن کریم کی آیات کے ساتھ مل جمل نہ جائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ چنانچہ صحابہؓ نے اس نصیحت پر بھی لبیک کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

(صحیح بخاری کتاب الجزیة باب اثم من عاهد ثم غدر)

”ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے قرآن کے اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے،

اور کچھ نہیں لکھا“

اسی طرح فرماتے ہیں

مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقَرُوهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

(صحیح بخاری کتاب الفرائض باب اثم من تبرأ موالیہ)

ہمارے پاس پڑھنے کے لیے سوائے صحیفہ خداوندی اور اس کتاب کے اور کوئی کتاب نہ تھی

اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ:

جو شخص پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ

قرآن مجید ”مُصْحَف“ سے دیکھ کر پڑھے۔

(الاتقان فی علوم القرآن الجزء الاول صفحہ 110)

حضرت اوس ثقفی سے یہ حدیث مروی ہے کہ:

زبانی قرآن پڑھنے کا ایک ہزار درجے ثواب ہے اور دیکھ کر پڑھنے کا ثواب اس سے

دو ہزار درجے تک زیادہ ہے۔ (البرہان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 462)

مندرجہ بالا تمام احادیث بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر بیان کر رہی ہیں کہ ابتداء اسلام سے ہی قرآن مجید تحریر کیا جاتا تھا اور بہت سے صحابہ کرامؓ کے پاس قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ تحریری صورت میں ضرور موجود رہتا تھا جو کتابت وحی قرآن کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اس کا ایک ثبوت تعلیم القرآن کے باب میں قاری کو ملے گا کہ کس طرح وسیع پیمانے پر تعلیم القرآن کی باقاعدہ کلاسز ہوا کرتی تھیں اور قرآن کریم کے کافی نسخہ جات نہ ہوں تو اس طرح وسیع پیمانہ پر یہ کلاسز منعقد کرنا ناممکن تھا۔

کاتبین وحی

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص چند صحابہ کو کتابت وحی قرآن کے لیے مقرر فرمایا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں درج حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دو روایات کے مطابق ان میں سے انصار صحابہ کی تعداد پانچ تک بیان ہوئی ہے۔ یعنی حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابو زیدؓ اور حضرت ابودرداءؓ۔ دوسری روایت میں حضرت ابودرداءؓ کی جگہ حضرت اُبی بن کعبؓ کا نام ملتا ہے۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبی ﷺ)

اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی صحابہ قرآن کریم کی وحی کو نزول کے ساتھ ساتھ تحریر کیا کرتے تھے۔ بلکہ اور بھی بہت سے صحابہ تھے جن کا تاریخ اسلام نے بطور خاص کتابتِ وحی قرآن کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ مشہور کاتبین میں خلفاء راشدین، حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت شرجیل بن حسنہؓ، حضرت عبداللہ بن رواحہؓ، حضرت اُبی بن کعبؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ شامل ہیں۔ ان میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب وحی تھے۔ لیکن ان کے ساتھ اور کاتبین کی بھی آنحضورؐ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ روایت ہے:

إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب

(مسند احمد بن حنبل؛ مسند عشرة المبشرين بالجنة مسند عثمان بن عفان)

یعنی جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کو بلا لیتے

جو لکھنے پر مامور تھے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے صحابہؓ ذاتی طور پر قرآن کریم تحریر کیا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے اپنے نسخہ کے مستند ہونے کو یقینی بناتے۔

عمدة القاری میں ہے:

پہلے کاتب وحی عبداللہ بن ابی سرح تھے۔ یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور قرآن کے کاتبین میں خلفاء اربعہ کے علاوہ زبیر بن عوام، سعید بن عاص بن امیہ کے دو بیٹے خالد اور ابان، حنظلہ بن ربیع الاسدی، معقیب بن ابی فاطمہ، عبداللہ بن ارقم زہری، شرجیل بن حسنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ اور مدینہ میں جن لوگوں نے وحی قرآن کو لکھنے کا کام کیا ان میں اُبی بن کعبؓ اور اس سے پہلے کے کاتب وحی زید بن ثابتؓ شامل ہیں اور بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں۔

(عمدة القاری شرح بخاری جلد 20 کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن صفحہ 19)

تاریخی حقائق کی روشنی میں عبداللہ بن ابی سرح کو پہلا کاتب وحی لکھنا درست نہیں۔ کیونکہ یہ ابتدائی مومنین میں سے نہیں ہیں بلکہ ان سے قبل کئی کبار صحابہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ایمان لائے تھے۔ ان میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت علیؓ، اور حضرت عثمانؓ وغیرہ شامل ہیں۔ پس پہلا کاتب وحی ان ابتدائی مومنین میں سے ہی کوئی ہے۔

اس روایت میں پندرہ معین اصحاب کا ذکر ہے۔ تاریخ طبری میں دس اصحاب کے نام دیئے گئے ہیں جن میں سے آٹھ مندرجہ بالا فہرست میں سے ہیں اور بقیہ دو حضرت علاء بن حضرمی اور معاویہ بن ابی سفیان کے نام ہیں۔

(تاریخ الامم والملوک (تاریخ طبری) جزء ثانی صفحہ 421)

پھر ”عرض الانوار“ میں تاریخ طبری، صحاح ستہ اور طبقات ابن سعد کے حوالہ سے کاتبین وحی کی ایک لمبی

فہرست دی گئی ہے جس میں مندرجہ بالا سترہ (17) اصحاب کے علاوہ مزید گیارہ (11) اصحاب حضرت عبداللہ بن سعد، خالد بن ولید، محمد بن مسلمہ، عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن العاص، جہم بن صلت، ثابت بن قیس بن شماس، حذیفہ بن یمان، عامر بن فہیرہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کے نام شامل ہیں۔
(عرض الانوار صفحہ 41، 42، 43 از قاضی عبدالصمد سیوہاروی مطبوعہ حمید برقی پریس دہلی۔ سن اشاعت 1359ھ طبع اول)

اس طرح صرف ان تین روایات کو جمع کیا جائے تو کل 28 ایسے معین اصحاب کے نام ثابت ہوتے ہیں جن کو بطور خاص کتابتِ وحی کی سعادت نصیب ہوئی۔ محققین خاص طور پر قرآن کریم کی کتابت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد چالیس تک بیان کی ہے۔ عام طور پر تو بہت سے صحابہ ذاتی طور پر قرآن کریم کے نسخہ تحریر کیا کرتے تھے۔

کاتبین کی تعداد کا اختلاف کوئی ایسا تاریخی اختلاف نہیں کہ جس میں ایک محقق ایک صحابی کے کاتبِ وحی ہونے کا قائل ہے اور دوسرا محقق اس صحابی کے کاتبِ وحی ہونے کا قائل نہیں۔ بلکہ جس محقق کو تحقیق کے بعد جتنے کاتبین صحابہ کا علم ہوا اس نے ان کے نام درج کر دیے اور جن صحابہ کا اُسے علم نہ ہوا ان کے نام دوسرے محققین نے درج کر دیے۔ اُس دور میں رابطہ کی ایسی سہولیات تو میسر نہیں تھیں جیسی آج ہیں کہ ہر محقق کو ہر کاتب کا علم ہو سکتا اور پھر فاصلے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک محقق دوسرے محققین اور علماء کی تحقیقات سے اس طرح فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا جس طرح آج کے دور میں اٹھایا جاتا ہے۔

ان صحابہ کے علاوہ بہت سے دیگر صحابہ کے مصاحف مشہور ہیں اور عام طور پر صحابہ کے پاس قرآن کریم کے نسخہ جات بہت عام تھے۔ کسی کے پاس کچھ سورتیں لکھی ہوتیں اور کسی کے پاس کچھ۔ صحابہ اپنی اپنی ضرورت، علمیت اور شوق و اخلاص کے مطابق بھی قرآن جمع کرتے مثلاً حضرت عائشہؓ (بخاری فضائل القرآن باب تالیف القرآن)۔ بعض صحابہ اپنے صحائف میں وہ سورتیں درج نہ کرتے جو انکو حفظ ہوتیں اور وہ سورتیں درج کرتے جو حفظ نہ ہوتیں۔ اس طرح ایک کی لکھی ہوئی سورتیں دوسرے صحابی کے نسخہ میں موجود نہ ہوتیں بلکہ اس صحابی کے پاس اس کے علم اور ضرورت کے مطابق دوسری چند سورتیں ہوتیں (بخاری کتاب فضائل القرآن باب تعلیم الصبیان القرآن)۔ پھر بعض صحابہ نے بعض آیات کی تفسیر میں آنحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے کچھ سنا ہوتا تو انہیں بطور حاشیہ اپنے صحیفہ میں درج کر لیتے اور یہ علم ہوتا کہ یہ حصہ متن قرآن نہیں ہے بلکہ حاشیہ ہے اور عام علم میں بھی یہ بات ہوتی کیونکہ اکثر لوگوں کو قرآن حفظ تھا اور خلط ملط ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی آنحضور نے حفاظت قرآن کے ضمن میں کمال احتیاط کا نمونہ دکھاتے ہوئے اپنے فرمودات لکھنے سے منع فرمادیا تاکہ خلط ہونے کا شائبہ بھی ختم ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ کبار صحابہ کے پاس ذاتی طور پر تحریر کیے

ہوئے قرآن کے نسخہ جات موجود تھے، اور بے شمار صحابہؓ کے پاس اپنے اپنے نسخہ جات موجود تھے جو فی ذلہ تو نامکمل تھے مگر مجموعی طور پر ان میں سارا قرآن لکھا ہوا تھا۔

عہد نبوی میں کتابت قرآن کا طریقہ اور ذرائع

عہد نبوی میں عرب میں کاغذ بہت کم دستیاب تھا اور عام طور پر دسترس سے بھی باہر تھا۔ اس لیے قرآن کی وحی کاغذ پر بہت کم لکھی گئی۔ اکثر حصہ عربوں کے دستور کے مطابق اس مقصد کے لیے مروج مختلف چیزوں پر لکھا گیا۔ ان اشیاء کے نام کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ملتے۔ بخاری، الاقان، کتاب المصاحف، عمدۃ القاری اور دیگر کتب میں جو روایات جمع کی گئی ہیں ان سے مندرجہ ذیل نام ملتے ہیں۔

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ۱۔ کجور کی شاخ کے ڈنھل | ۲۔ باریک سفید پتھر کی سلیں۔ |
| ۳۔ اونٹ کے شانہ کی ہڈیاں | ۴۔ اونٹ کی پسلی کی ہڈیاں |
| ۵۔ اونٹ کی کاٹھی کی لکڑیاں | ۶۔ لکڑی کی تختیاں |
| ۷۔ چڑے کے ٹکڑے | ۸۔ کھال |
| ۹۔ پتلی جھلی۔ | ۱۰۔ کاغذ |

گزشتہ صفحات میں روایات درج کی جا چکی ہیں جن سے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں کہ جو نبی کوئی آیت نازل ہوتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فوری طور پر کسی کا تب کو بلا کر لکھوادیتے۔ کاتبین وحی جب آیت لکھ لیتے تو آپ پہلے پڑھوا کے سنتے چنانچہ زید بن ثابتؓ کا بیان ہے کہ ”فان کان فیہ سقط اقامہ“ یعنی اگر کوئی غلطی ہوتی تو اس کی تصحیح کروادیتے اور حفظ پر مقرر صحابہ کو فوراً اپنی نگرانی میں حفظ کروادیتے جو آگے دیگر صحابہ کو حفظ کرواتے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ فوری طور پر نئی آنے والی وحی کو حفظ کر لیتے اور اپنے اپنے ذاتی صحائف میں درج کر لیتے اور پھر اپنا حفظ اور اپنی تحریرات رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے ان کی درستگی کی سند حاصل کرتے اور پھر صحابہ کثرت تلاوت سے اور گاہے گاہے ایک دوسرے کے سامنے اپنا حفظ پیش کر کے اپنے اور دوسرے صحابہؓ کے حفظ کی حفاظت کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً صحابہ سے قرآن کریم سنتے رہتے۔

عہد نبوی میں قرآن کریم مکمل طور پر تحریری صورت میں جمع ہو چکا تھا

یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کتابت قرآن پر مقرر صحابہؓ نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے نزول کے ساتھ ساتھ تحریر کرتے ہوئے مکمل قرآن مجید کے نسخہ جات تیار کر لیے تھے جو اپنی جگہ جمع قرآن کا ایک اہم باب

ہے۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انسؓ انصار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِي بَنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ

”قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالکؓ سے ان لوگوں کے بارہ میں پوچھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی میں قرآن کریم کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا۔ چار آدمی ہیں جو کہ سارے انصاری ہیں۔ اُبی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ اور ابو زیدؓ۔ پھر اس سے اگلی روایت میں ہے کہ:

حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ قَالَ وَنَحْنُ وَرِثَانُهُ

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبي ﷺ)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے وقت تک چار

اشخاص نے قرآن کریم کو جمع کیا تھا۔ ابودرداءؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ اور ابو زیدؓ۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ان دونوں روایتوں میں تین نام حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت ابو زیدؓ مشترک ہیں اور ایک روایت میں حضرت ابودرداءؓ اور دوسری روایت میں حضرت اُبی بن کعبؓ کا نام ہے۔ اس طرح صرف ان دو روایتوں کو جمع کرنے سے انصار میں سے صرف حضرت انسؓ کے قبیلہ سے ہی پانچ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایسے ثابت ہوتے ہیں جنہوں نے پورا پورا قرآن مجید جمع کیا ہوا تھا۔ علامہ ذہبی نے طبقات القراء میں لکھا ہے:

علامہ ابن سعد نے بھی طبقات قسم ثانی جلد 2 ص 112 میں بعض ایسے صحابہؓ کے نام شمار کیے

ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پورا قرآن جمع کیا تھا۔

(بحوالہ جمع و تدوین قرآن از سید صدیق حسن صاحب مطبع معارف لکھنؤ 1964 صفحہ 13)

پھر صحابہؓ کے متفرق نسخے موجود تھے جن میں مجموعی طور پر مکمل قرآن کریم موجود تھا جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی بہت سی سورتیں ترتیب نزولی کے مطابق جمع کی تھیں۔ (بخاری فضائل القرآن باب تالیف القرآن) حضرت ابن عباسؓ نے بھی قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھا تھا جس میں چند سورتیں

تھیں (بخاری کتاب فضائل القرآن باب تعلیم الصبیان القرآن)۔ حضرت عائشہؓ نے قرآن کریم کا ایک نسخہ جمع کیا ہوا تھا (بخاری فضائل القرآن باب تالیف القرآن) کتاب المصاحف میں دیگر امہات المؤمنین کے صحائف کا بھی ذکر ہے۔

مشہور شیعہ تفسیر مجمع البیان میں علامہ طبری حفاظت قرآن کا ذکر کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم یعنی محفوظ ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور وہی تحریر ایک تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اور اپنی تائید میں ایک حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

و كذلك القول في كتاب المزننى ان القرآن كان على عهد

رسول الله (ص) مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الان

(ابو الفضل بن الحسن الطبرسى: مجمع البيان الجزء الاول: الفن الخامس صفحه 15)

الناشر مكتبه علميه الاسلاميه ملتان)

یعنی یہی بات علامہ مزننی بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں.... کہ قرآن رسول کریم کے دور میں

ہی جمع ہو گیا تھا اور اسی طرح تالیف ہو گیا تھا جیسا کہ آج کے دور میں ہے۔

نامی گرامی مستشرق بھی کھلے دل سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہی مکمل طور پر تحریری صورت میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ آج تک یہ غیر مبدل اور غیر محرف ہے اور محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا ہے اور بالفاظ میور، ”ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے، اندرونی شہادت کی بھی اور بیرونی کی بھی کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے، وہی ہے جو خود محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور اسے استعمال کیا کرتے تھے۔“ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے محققین ہر دور میں یہ گواہیاں دیتے چلے آئے ہیں۔ جن کا ذکر اپنے مقام پر قاری کو ملے گا۔ آج حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا تحریر کردہ کوئی بھی مکمل نسخہ قرآن موجود نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ حضرت عثمانؓ کا حفاظت قرآن کے حوالہ سے کیا گیا ایک اہم فیصلہ ہے۔ آپؐ نے اپنے دور میں تمام سابقہ نسخوں کو تلف کر کے اجماع امت سے جمع کیے ہوئے قرآن پر امت کو اکٹھا کر دیا تھا۔

اب ذرا غور کیجیے کہ ابن وراق کا یہ کہنا کہ ”محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی وفات 632ء کے بعد آپ کی وحی کا کوئی مجموعہ موجود نہیں تھا۔“ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ تاریخ مذاہب میں قرآن کریم ہی وہ واحد اور اکلوتی کتاب ہے کہ جس کے بارہ میں ثابت ہے کہ جس نبی پر نازل ہوئی، اسی نبی کی موجودگی میں، اسی نبی کی نگرانی میں، حفاظت کے تمام تر تقاضے پورے کرتے ہوئے تحریر اور حفظ کے ذریعہ محفوظ کی گئی اور کثرت سے اس کی اشاعت بھی کی گئی۔

سوال یہ ہے کہ جب بنیاد ہی جھوٹی ہے تو پھر اس کے سہارے قرآن کریم کے غیر محفوظ ثابت کرنے کی جو

مذموم کوشش ابن وراق کر رہا ہے، اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ جھوٹی بنیاد اور غلط نتیجہ۔۔۔ بہر حال اس جھوٹ کے ثابت ہونے کے بعد بھی ہم ابن وراق کی اس خواہش کو کہ قرآن کریم کی تاریخ کو دوبارہ کھنگالنے کی ضرورت ہے، پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

حفظ قرآن کریم

حفاظت قرآن کے باب میں ایک بے نظیر اور اہم طریقہ حفظ قرآن کریم ہے جو امت مسلمہ میں پہلی آیت کے نزول سے لے کر آج تک رائج ہے۔ یہ طریقہ بظاہر تو انسانی ذرائع میں سے ایک معلوم ہوتا ہے مگر ادنیٰ سے تدبر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حفظ قرآن بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو حفاظت قرآن کے باب میں ایک بے نظیر الہی عطا ہے۔ اگر یہ انسانی طاقت میں ہوتا تو دوسرے مذاہب اپنی اپنی کتب کو محفوظ رکھنے کے لیے ضرور اس طریقہ کو استعمال کرتے۔ مگر صرف قرآن کریم کو یہ خصوصیت حاصل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کے لیے یہ خدا تعالیٰ نے اپنی جناب سے یہ خاص انتظام فرمایا تھا۔ اگر ایسا انتظام انسانی طاقت میں ہوتا تو لازماً اور بھی مثالیں ملتی۔

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”یہ بھی یاد رہے کہ ایسے آدمیوں کا میسر آ جانا جو اسے حفظ کرتے اور نمازوں میں پڑھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت میں نہ تھا۔ ان کا مہیا کرنا آپ کے اختیار سے باہر تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ۔ (الحجر: 10) کہ ایسے لوگ ہم پیدا کرتے رہیں گے جو اسے حفظ کریں گے۔ آج اس اعلان پر تیرہ سو سال ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کے کروڑوں حافظ گزر چکے ہیں۔“

(تفسیر کبیر جلد چہارم زیر تفسیر الحجر آیت 10 صفحہ 15)

پس قرآن کریم کی کامل حفاظت کے لیے حفظ قرآن کا بے مثل وسیلہ خالصۃً الہی عطا ہے۔ ابتدا سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی تحریر کروانے کے بعد سنتے اور پھر تسلی کرنے کے بعد آپ صحابہ کو حفظ کراتے اور پھر اسکی اشاعت ہوتی۔ آپ نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جن کا کام تھا کہ وہ پہلے خود آنحضرت سے قرآن کریم حفظ کر لیں اور پھر دیگر صحابہ کو حفظ کروائیں۔ چنانچہ روایات میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سالم حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جنبل رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے کبار صحابہ کے نام ملتے ہیں۔ (بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن) یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ بہت سے جاٹار صحابہ فوری طور پر قرآن کریم کی تازہ بہ تازہ نازل ہونے والی وحی کو بلا توقف حفظ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی

اللہ علیہ والہ وسلم بھی حفظ قرآن کی فضیلت پر بہت زور دیتے تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کی ایسی جماعت عطا فرمائی تھی جو آپ کے ہر اشارہ پر عمل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے تھے اور جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آپ کی اس تحریک اور خواہش کی تکمیل کے لیے صحابہؓ نے حیرت انگیز نمونہ دکھایا۔ قرآن کریم بکثرت حفظ کیا جانے لگا۔ صحابہؓ نے اس وارفتگی اور اس شان سے اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حفاظ صحابہ کی اتنی کثیر تعداد تیار ہوگئی کہ بلا مبالغہ ہزاروں تک ان کی تعداد جا پہنچتی ہے۔ کیا بچے کیا جوان اور کیا بوڑھے، کیا عورتیں اور کیا مرد، سب حفظ قرآن کے میدان میں بڑھ چڑھ کر عشق و محبت اور اخلاص و فدائیت کے بے نظیر جذبات کے ساتھ معرکے سر کرنے لگے۔ حفاظ صحابہ کی کثرت کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ غزوہ احد کے بعد قبیلہ رعل، ذکوان، عصبیہ اور بنو لحيان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایسا نمونہ دکھایا کہ سمجھا گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور صرف انصار مدینہ میں سے ستر (70) حفاظ و قراء کا ایک بڑا گروہ روانہ کر دیا تاکہ ان کے قبیلوں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروائیں۔ یہ حفاظ مدینہ میں ”قراء“ کے نام سے مشہور تھے۔ ان لوگوں نے راستہ میں دھوکہ دے کر ان حفاظ کو شہید کر دیا (بخاری کتاب الجہاد و السیر باب العون بالمدد) صرف انصار مدینہ میں سے ستر (70) حفاظ کا بھیجنا بتاتا ہے کہ کثرت سے حفاظ موجود تھے اور تعلیم قرآن کے سلسلہ میں کثرت سے اساتذہ مختلف قبائل میں جا کر رہا کرتے اور تعلیم و تدریس کے فرائض سرانجام دیتے تھے۔ چنانچہ اس واقعہ کے علاوہ اور بھی واقعات ملتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم مختلف قبائل میں دس دس پندرہ پندرہ قراء صحابہؓ کے وفود تعلیم قرآن کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے وقت حفاظ کی کثرت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک جنگ یعنی جنگ یمامہ میں شہداء میں صرف حفاظ شہداء کی تعداد سات سو (700) اور بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تھی۔ چنانچہ بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن میں درج اس واقعہ کے بارہ میں بخاری کی ایک معروف شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے:

ربیع الاول ۱۱ ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی آپ نے وفات سے قبل تمام قرآن لکھوا دیا تھا مگر وہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا مختلف اصحاب کے پاس بکھرا ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا انتخاب بطور خلیفہ اول ہوا اور ابتداء میں ہی آپ کو پے در پے مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں

سے ایک زبردست فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کی شورش و بغاوت کا تھا۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا معرکہ مسیلہ کذاب سے یمامہ کے مقام پر ہوا۔ اس معرکہ میں دونوں لشکروں کا بھاری نقصان ہوا۔ شہید ہونے والے مسلمانوں میں سات سو قراء و حفاظ تھے اور بعض کے نزدیک ان کی تعداد اس سے بھی زائد تھی۔

(عمدة القاری جلد 20 کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن صفحہ 16)

حفظ کی یہ مبارک عادت امت میں آج تک پورے اہتمام کے ساتھ جاری ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

کسی مضمون کی حفاظت کبھی مکمل طور پر نہیں ہو سکتی جب تک وہ تحریر اور حفظ دونوں ذریعہ سے محفوظ نہ کیا جائے۔ انسانی حافظہ بھی غلطی کر جاتا ہے اور کاتب بھی بھول چوک جاتا ہے لیکن یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی غلطی کو نکال دیتے ہیں اور ان دو سامانوں کے جمع ہونے کے بعد غلطی کا امکان باقی نہیں رہ سکتا۔ قرآن کریم کو یہ دونوں حفاظتیں حاصل ہیں۔ یعنی وہ کتاب بھی ہے۔ رسول کریم صلعم کی زندگی سے ہی اس کے الفاظ تحریر کر کے ضبط میں لائے جاتے رہے ہیں اور وہ قرآن بھی ہے۔ یعنی نزول کے وقت سے آج تک ہزاروں لوگ اسے حفظ کرتے اور اس کی تلاوت کرتے چلے آئے ہیں۔

(تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 5 زیر تفسیر سورۃ الحج: 2)

ایک محقق لکھتا ہے:

Thus, if the Qur'an had been transmitted only orally for the first century, sizeable variations between texts such as are seen in the hadith and pre-Islamic poetry would be found, and if it had been transmitted only in writing, sizeable variations such as in the different transmissions of the original document of the constitution of Medina would be found. But neither is the case with the Qur'an. There must have been a parallel written transmission limiting variation in the oral transmission to the graphic form, side by side with a parallel oral transmission preserving the written transmission from corruption.

(Andrew Rippin (Ed), Approaches Of The History of Interpretation Of The Qur'an, 1988, Clarendon Press, Oxford, p. 44.)

اگر قرآن کریم صرف حفظ کے ذریعے آگے منتقل ہوتا تو اس میں ایسی تبدیلیاں ہو سکتی تھیں جیسی احادیث اور دور جاہلی کی شاعری میں ہیں۔ اگر قرآن کریم صرف تحریری طور پر آگے منتقل ہوتا تو پھر

میں باقی مدینہ کے نسخہ کی طرح اس کے بھی باہمی مختلف نسخے ہوتے۔ لیکن موجودہ صورت میں ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہوا۔ حفظ کے متوازی متن کی تحریری صورت نے حفظ کی حفاظت کی اور اس میں تبدیلی نہیں ہونے دی اور تحریر کے متوازی حفظ نے تحریر کی حفاظت کی اور اس میں تبدیلی نہیں ہونے دی۔

ایک طرف یہ حقیقت ہے اور دوسری طرف ایک حقیقت یہ ہے کہ عربوں کا حافظہ ایک مثالی حافظہ تھا۔ وہ لوگ اپنے نسب نامے یاد رکھتے اور ہزاروں ہزار شعر یاد رکھتے۔ تحریر کا رواج عام نہ ہونے کی وجہ سے حافظہ کی طاقت کس قدر غیر معمولی طور پر بڑھ چکی تھی اس کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے کہ رسول کریمؐ کے ارشاد لا تکتبوا عنی سوی القرآن (مسند احمد بن حنبل الباقی مسند المکثرین مسند ابی سعید الخدری) تعمیل میں آپؐ کے اقوال اور احادیث زیادہ تر حافظہ کی بنیاد پر یاد رکھی جاتی تھیں اور ان کے حفظ کا باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔ صحابہ عشق رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے آپؐ کے اقوال اور احادیث مختلف مواقع پر گھروں میں، مجالس میں سفر وغیرہ پر ایک دوسرے کو سنتے سنتے اور اس طرح سینہ بسینہ آپؐ کے فرمودات ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے رہے اور آپؐ کی وفات کے سو ڈیڑھ سو سال بعد تحقیق کر کے تحریری صورت میں جمع کر لیے گئے۔ جبکہ قرآن کریم ناصرف ساتھ ساتھ تحریر میں محفوظ کیا جاتا رہا بلکہ اس کے حفظ کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم خود اس کی نگرانی فرماتے تھے۔ اب اس واقعہ پر نظر ڈالیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے شاہ مصر مقوقس کے نام ایک خط لکھوایا تھا۔ خط تو بادشاہ کی خدمت میں بھجوادیا گیا مگر صحابہؓ نے اس کو بھی اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور اس طرح یہ سینہ بسینہ روایات کی صورت میں نسلاً بعد نسل آگے منتقل ہوتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات سے سو، ڈیڑھ سو سال کے بعد جب احادیث اکٹھی کی گئیں تو اس خط کے بارہ میں روایات پر تحقیق کر کے راویوں کے سینوں میں محفوظ اس خط کے الفاظ کتب حدیث میں درج کر لیے گئے۔ قریباً ایک سو سال قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا لکھوایا ہوا اصل خط دریافت ہو چکا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں خط، یعنی دریافت شدہ اور کتب حدیث میں بزبان رواۃ محفوظ خط حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے کے عین مطابق ہیں۔ (حضرت مرزا بشیر احمد صاحب: سیرۃ خاتم النبیین صفحہ 822) ایک خط کا سینہ بسینہ آگے منتقل ہونے والی روایات میں ذکر ہونا اور پھر سو دو سو سال کے بعد ان روایات کا تحریری شکل میں آنا اور جب خط کی اصل تحریر دریافت ہوئی تو الفاظ تک میں مطابقت ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ عربوں کا حافظہ کتنا مثالی اور غیر معمولی تھا اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کس درجہ امانت دار تھی وہ قوم کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وہ الفاظ جو کہ وحی الہی نہیں تھے اس حفاظت کے ساتھ یاد رکھے۔ تو سوچیے کہ وہ قوم وحی الہی کو کس حفاظت سے رکھتی ہوگی۔ عربوں کے حافظہ کے غیر معمولی ہونے کا تمام محققین بہت واضح

انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ عربوں کا نسب نامے یاد رکھنا، ایک ایک شخص کو ہزاروں ہزار شعر یاد ہونا، شعر و سخن کی مجالس میں شعر سنانا وغیرہ بہت معروف پہلو ہیں۔ پس اس شان کے حافظہ کے ساتھ اس درجہ امانت دار لوگ قرآن کو ایسی حالت میں حفظ کر رہے ہیں کہ عام نسب ناموں اور شعر و شاعری سے کہیں زیادہ قرآن کریم کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اور محبت کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے ایک ایک لفظ کو اپنی نجات کا سامان اور الہی امانت سمجھتے ہیں جسے آگے منتقل کرنا اپنی اولین ذمہ داری گردانتے ہیں۔ پھر قرآن کریم تحریری صورت میں بھی موجود ہے۔ تو کوئی بھی غلطی یا دانستہ تحریف کس طرح راہ پاسکتی ہے؟ پھر یہ بھی دیکھئے کہ روایات تو اس کثرت سے سنائی نہ جاتی تھیں جس کثرت سے قرآن کریم کی درس و تدریس اور تلاوت ہوتی تھی۔ پس قرآن کریم کسی بھی صورت میں بھلا دیا جائے یہ ناممکن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ایک ایسے تو اتر کے ساتھ حفاظ آئندہ نسل کو قرآن کریم حفظ کراتے چلے آئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور پھر قرآن کریم کی تحریر سے اپنے حفظ کو مستند بناتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ اس تو اتر کے باقاعدہ اہتمام کا ذکر صحابہؓ کے دور سے ملتا ہے۔ کثرت سے اس بارہ میں روایات ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم حفاظ صحابہؓ سے قرآن کریم سنتے رہتے تھے۔ مثلاً:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ قُلْتُ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب من احب ان يسمع القرآن من غيره)

حضرت ابن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید سناؤ۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں! حالانکہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ دوسرے سے قرآن سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔

روایات کے مطابق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے حفظ کی نگرانی بھی کرتے رہتے۔ مثلاً:

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرَأَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ كَذَبْتُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأْنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ أَقْوَدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقَرَّنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلُهُ أَقْرَأُ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أُنَزَّلَتْ ثُمَّ قَالَ أَقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أُنَزَّلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنَزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَءُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن علی سبعة حرف)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی ہشام بن حکیم بن حزامؓ کو سورۃ الفرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی ایسے انداز میں پڑھ رہے ہیں جس انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں پڑھایا۔ پس میں ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا اور مجھے ان کی نماز کے اختتام تک بہت صبر سے بیٹھنا پڑا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کو ان کی چادر سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ جو سورۃ میں نے ابھی تجھ سے سنی ہے یہ تجھے کس نے پڑھائی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم غلط کہتے ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پڑھائی ہے اور وہ اس طرح نہیں ہے۔ پس میں انہیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے انہیں قرآن کریم اس انداز میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپؐ نے مجھے نہیں پڑھایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور کہا اے ہشام پڑھو! انہوں نے تلاوت کی۔ پھر آپؐ نے مجھے پڑھنے کا ارشاد فرمایا پس میں نے اسی طرح تلاوت کی جس طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سیکھی تھی۔ اس پر رسول کریمؐ نے فرمایا کہ (یہ سورت) اس طرح بھی نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ قرآن کریم سات حروف میں نازل ہوا ہے پس جیسے آسانی محسوس کرو، پڑھ لیا کرو۔

ذیل میں نمونہ کے طور پر چند روایات درج کی جا رہی ہیں۔ جن سے علم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کس درجہ تاکید کے ساتھ صحابہ کو حفظ قرآن کی تلقین کیا کرتے تھے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ
لصَّاحِبِ الْقُرْآنِ إِقْرَاءٌ وَارْتَقَى وَرَتَّلَ كَمَا كُنْتَ تُرْتَلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ
مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا-

(سنن ابی داود کتاب الوتر باب استحباب الترتیل فی القراءة)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور درجات میں ترقی کرتا جا اور عمدگی سے
پڑھ جیسے دنیا میں عمدگی سے پڑھتا تھا۔ تیرا مقام وہ ہے جس آیت پڑھو قراءت کو ختم کرے گا۔
حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ
لصَّاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِقْرَأُ وَأُصْعَدُ- فَيَقْرَأُ وَيُصْعَدُ- بِكُلِّ آيَةٍ
دَرَجَةٌ حَتَّى يَقْرَأَ الْآخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ-

(سنن ابن ماجہ کتاب الادب باب ثواب القرآن من اختلاف الرواة)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ حافظ قرآن کو جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور
بلندی کی طرف چڑھتے جاؤ۔ پس وہ قرآن کریم پڑھتا جائے گا اور بلندی کی منازل طے کرتا
جائے گا کیونکہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ ہوگا یہاں تک کہ آخری آیت
کے پڑھنے تک جو اسے یاد ہوگی وہ بلندی کی طرف چڑھتا جائے گا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ
الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ-

(سنن الدارمی کتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن)

حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص
جس نے قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی حفظ نہیں کیا وہ ویران گھر کی طرح ہے۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ قرآن کو حفاظت قرآن کے باب میں بھی خبردار کیا کہ:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ التَّقْفِيِّ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ

دَرَجَةٍ وَقِرَاءَةٌ فِي الْمُصْحَفِ تَضَعْفُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَلْفِي دَرَجَةٍ -
(مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن الفصل الثالث)

عبداللہ بن اوس ثقفی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا زبانی قرآن کریم پڑھنا ایک ہزار درجہ کے برابر ہے اور قرآن کریم کو مصحف سے دیکھ کر پڑھنا اسے دو ہزار درجہ تک بڑھاتا ہے۔

یہاں حافظ قرآن کو یہ نصیحت بھی فرمادی کہ ہمیشہ اپنے حافظہ پر ہی انحصار نہ کرے بلکہ وقتاً فوقتاً کتاب الہی سے تلاوت کر کے اپنے حفظ کی درستگی یقینی بناتا رہے۔

پھر حافظ قرآن کو باقاعدگی سے تلاوت قرآن کریم کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ -“

(بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورة عبس)

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کا حافظہ ہے وہ ایسے لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا جو بہت معزز اور بڑے نیک ہیں اور وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات پر شدت سے کار بند ہوتا ہے اس کے لیے دو اجر ہیں۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ مثل القرآن مثلاً الابل المعلقة ان تعاهد صاحبها بعقلها امسكها عليه وان اطلق عقلها ذهبت
(ابن ماجه كتاب الادب باب ثواب القرآن)

یعنی قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ جب تک اس کا مالک اس کی رسی

تھامے رکھے گا وہ اس کے پاس رہے گا اور اگر چھوڑ دے گا تو وہ چلا جائے گا۔

اور اس میں شبہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ایسے عشاق جانثار عطا کیے تھے جو رضائے الہی کو رضائے رسول سے وابستہ سمجھتے اور آنحضرتؐ کی اطاعت کو دنیا جہان کی فلاح اور کامیابی اور نجات کا سامان سمجھتے تھے اس لیے آپ کے فرمودات اور ارشادات پر لبیک کہتے ہوئے پر کثرت کے ساتھ صحابہؓ نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا۔

ابتدائی مومنین کا قرآن کریم سے عشق و محبت کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی حفظ کرنے لگے جن

کی علمی حالت ایسی تھی کہ قرآنی مضامین کی گہرائی میں جا کر ان کو سمجھ پاتے۔ باوجود معنی نہ جاننے کے مسلمانوں کا قرآن کریم کو یاد کرتے چلے جانا یقیناً محافظتِ قرآن کے الہی وعدہ کے پورا ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ روایت ہے:

عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل الى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله انى اقرأ القرآن فلا اجد قلبى يعقل عليه
(مسند احمد؛ مسند المكشورين من الصحابة؛ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)

یعنی عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن کریم تو پڑھتا ہوں مگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی ہوتی۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی ^{کامل} الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے قرآن کریم کے پیر و قرآن کریم کو بے معنی ہی پڑھتے رہتے ہیں اس کے معنی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بھی اس آیت (اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ . الحجر: 10) میں مذکور وعدہ کی تصدیق ہے۔ مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن کریم کی محبت ڈال دی ہے کہ معنی آئیں یا نہ آئیں وہ اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں یقیناً ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن کریم کو بامعنی پڑھے اور اس طرف سے تغافل بڑی تباہی کا موجب ہوا ہے۔

(تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 18 کالم 2 زیر تفسیر سورۃ الحجر: 10)

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے صحابہ بھی قرآن کریم کی درس و تدریس اور اسکی تعلیمات کی اشاعت کے لیے کوشاں رہتے حضرت ابو سعیدؓ ابو نضرؓ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

احفظوا عنا كما حفظنا عن رسول الله ﷺ
(مقدمہ سنن الدارمی باب من لم یر کتابۃ الحدیث)

یعنی ہمارے زیر نگرانی اسی طرح قرآن شریف حفظ کر لو جس طرح ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں حفظ کیا تھا۔

اس روایت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑی کی قرآن کریم ایک تو اتر کے ساتھ حفظ کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک حفاظ کے سینوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے اور حفظ قرآن کی مبارک عادت امت محمدیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر بغیر کسی وقفہ کے اب تک جاری ہے۔ ساری

دُنیا میں مسلمانوں کی بستیوں میں حافظ قرآن موجود ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کر بلاشبہ اور بلابالغہ ہر دور میں ہزاروں ہزار حافظ موجود رہے ہیں۔

حفظ قرآن کے بارہ میں امت مسلمہ کی ایک غیر معمولی عادت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ایک ترکیب مسلمانوں نے حفاظت کی یہ اختیار کی ہوئی ہے اور اس پر صدیوں سے عمل ہوتا چلا آیا ہے کہ جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں انہیں قرآن کریم حفظ کروادیتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ نابینا کوئی دنیوی کام تو کر نہیں سکتا۔ کم سے کم وہ قرآن کی خدمت ہی کرے گا۔ یہ رواج اتنا غالب ہے کہ لاکھوں مسلمان نابینوں کو بغیر پوچھے اور بغیر دریافت کیے ایک ہندوستانی ملتے ہی حافظ صاحب کے نام سے یاد کریگا یعنی وہ جس نے سارا قرآن یاد کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نابینوں میں سے اتنے حافظ قرآن ہوتے ہیں کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نابینا ہو اور قرآن کا حافظ نہ ہو۔“

(دیباچہ تفسیر القرآن ضیاء الاسلام پریس ربوہ صفحہ 277)

مزید فرماتے ہیں:

ہر رمضان میں ساری دنیا کی ہر بڑی مسجد میں سارا قرآن کریم حافظ لوگ حفظ سے بلند آواز کے ساتھ ختم کرتے ہیں ایک حافظ امامت کراتا ہے اور دوسرا حافظ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تا اگر کسی جگہ پر وہ بھول جائے تو اُسکو یاد کرائے۔ اس طرح (اس ایک ماہ میں ہی) ساری دنیا میں لاکھوں جگہ پر قرآن کریم صرف حافظ سے دہرایا جاتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے یورپ کے دشمنوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے لیکر آج تک محفوظ چلا آتا ہے اور یہ کہ یقینی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس شکل میں قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا اسی شکل میں آج موجود ہے۔

(دیباچہ تفسیر القرآن ضیاء الاسلام پریس ربوہ صفحہ 277)

پس رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے لے کر آج تک ہر دور میں ہزاروں ہزار ایسے حافظ ہر وقت موجود رہے ہیں جو قرآن کریم کو مکمل طور پر زبانی یاد رکھتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں اور اپنی نگرانی میں مزید حفاظت تیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان حفاظ کی تعداد کسی دور میں بھی پہلے سے کم نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ بڑھی ہے۔ یہ سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے لے کر اب تک جاری ہے۔

الْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ

Dr. Maurice Bucaille مذہبی لحاظ سے عیسائی، ایک فرانسیسی سرجن، اور مذہب اور سائنس کی دنیا کی ایک نامور شخصیت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں غرق ہونے والے فرعون "Meneptah" پر آپ کو تحقیق کے لیے پٹنا گیا۔ آپ اپنی مشہور کتاب "The Bible The Qur'an and Science" میں لکھتے ہیں:

It (Quranic Revelation) spanned a period of some twenty years and, as soon as it was transmitted to Muhammad by Archangel Gabriel, believers learned it by heart. It was also written down during Muhammad's life.

(The bible The Qura'n and Science (translation from French by Alastair D. Pannel and The Ahtor) Under Heading Conclusions Pg 250-251)

یعنی قرآنی وحی کا دورانیہ لگ بھگ 20 سال پر محیط ہے۔ جونہی یہ (وحی) جبرائیل کے ذریعہ محمد (ﷺ) تک پہنچائی جاتی، مومنین فوراً اسے حفظ کر لیتے۔ یہ محمد (ﷺ) کی زندگی میں ہی لکھ بھی لی گئی تھی۔

قرآن کریم کے حفظ کے غیر معمولی تواتر کے بارہ میں ممتاز مستشرق Kenneth Cragg رقم طراز ہیں:

"...this phenomenon of Qur'anic recital means that the text has traversed the centuries in an unbroken living sequence of devotion. It cannot, therefore, be handled as an antiquarian thing, nor as a historical document out of a distant past. The fact of hifz (Qur'anic memorization) has made the Qur'an a present possession through all the lapse of Muslim time and given it a human currency in every generation, never allowing its relegation to a bare authority for reference alone."

(Kenneth Cragg, The Mind of the Qur'an, London: George Allen & Unwin, 1973, p.26)

قرآن کریم کے حفظ کا اعجاز یہ ہے کہ متن قرآن کریم صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے انتہائی محبت اور خلوص اور وقف کی روح کے ساتھ ایک تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ نہ تو کسی قدیم چیز جیسا سلوک روا رکھنا چاہیے اور نہ ہی اسے محض تاریخی دستاویز سمجھنا درست ہے۔ درحقیقت حفظ کی خوبی نے اس کتاب کو مسلم تاریخ کے مختلف ادوار میں زندہ و جاوید رکھا ہے اور بنی نوع کے ہاتھ میں نسلاً بعد نسل ایک معتبر متاع تھما دی اور کبھی بھی محض غیر اہم کتابی صورت میں نہیں چھوڑا۔

ویلم گراہم لکھتے ہیں:

The Qur'an is perhaps the only book, religious or secular, that has been memorized completely by millions of people.

(William Graham, Beyond the Written Word, UK: Cambridge University Press, 1993, p.80)

یعنی قرآن کریم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں میں شاید واحد کتاب ہے جو کہ لاکھوں لاکھ لوگوں کے ذریعے مکمل طور پر حفظ کی جاتی رہی۔ مشہور مستشرق اور رومن کیتھولک ن کیمرم آرمسٹرانگ لکھتی ہیں: جب بھی کوئی آیت پیغمبر اسلام پر نازل ہوتی، آپ اسے بلند آواز میں صحابہ کرام کو سناتے جو اسے یاد کر لیتے اور جو لکھنا جانتے تھے، اسے لکھ لیتے۔

(محمد: باب دوم، صفحہ 61 پبلشرز: علی پلازہ 3 مزنگ روڈ لاہور)

اور بھی بہت سے نامی گرامی مستشرق ایسے ہیں جو بعد تحقیق اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں ہی تحریری صورت میں اور حفظ کے ذریعہ محفوظ کیا جا چکا تھا اور آج بھی یعنی محفوظ ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔

مختصر یہ کہ قرآن کریم مذہبی کتب میں واحد کتاب ہے جو کہ نزول کے ساتھ ساتھ صاحبِ وحی کے زیر نگرانی ایک سے زیادہ نسخوں میں تحریری شکل میں محفوظ ہو رہی تھی۔ واحد مذہبی کتاب ہے جو کہ نزول کے ساتھ ساتھ صاحبِ وحی کے زیر نگرانی حفظ ہو رہی تھی اور آج تک اسی تو اتر کے ساتھ لکھی اور حفظ کی جاتی ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المسیح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

آج اگر بائبل کے سارے نسخے جلادیے جائیں تو بائبل کے پیرواس کا بیسواں حصہ بھی دوبارہ جمع نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن مجید کو یہ فخر حاصل ہے کہ اگر سارے نسخے قرآن مجید کے دنیا سے مفقود کر دیے جائیں۔ تب بھی دو تین دن کے اندر مکمل قرآن مجید موجود ہو سکتا ہے اور بڑے شہر تو الگ رہے۔ ہم قادیان جیسی چھوٹی بستی میں اسے فوراً حرف بحرف لکھوا سکتے ہیں۔

(تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 18 کالم 2 زینت تفسیر سورۃ الحج: 10)

تلاوت قرآن کریم

پھر قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ کثرت سے اس کی تلاوت کرنا بھی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تلاوت قرآن پر بھی بہت زور دیتے اور کثرت سے تلاوت کرنے کی تاکید فرماتے۔ چنانچہ اس نصیحت پر امت آج بھی پوری طرح کار بند ہے۔ حفاظت کے ضمن میں کثرت تلاوت بہت اہم کردار ادا کرتی

ہے۔ کثرت سے تلاوت کرنے والا حافظ نہ سہی مگر ایک نیم حافظ ضرور بن جاتا ہے اور قرآن کریم کے متن سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے تلاوت کی جائے تو غلطی کی صورت میں فوراً درستی کرا دیتا ہے۔ گو زبانی اسے مکمل قرآن نہ بھی یاد ہو، وہ چھوٹی سی غلطی پر بھی فوراً مطلع ہو جاتا ہے اور اصلاح کروا دیتا ہے۔ تلاوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ امت کے دلوں میں اس کی اہمیت جاگزیں کرنے کا بیڑا بھی اللہ تعالیٰ خود اٹھاتا ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت میں تھا ہی نہیں کہ دلوں میں اتنی محبت پیدا کر دیں جو آئندہ زمانوں پر بھی محیط ہو اور کسی دور میں بھی امت کلام اللہ کی تلاوت کے فریضہ سے غافل نہ ہو۔ بہت بھی ہوتا تو یہی کہ آپ کی خوشنودی کی خاطر لوگ آپ کے سامنے تو تلاوت کر لیا کرتے مگر جب آپ سامنے نہ ہوتے یا جب آپ کی وفات ہو جاتی تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے تلاوت قرآن کو زندہ رکھنا اپنی ذمہ داری قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (القيامة: 18)

یعنی اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے۔

اس آیت سے تلاوت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کے ساتھ اس کو رکھا ہے۔ قرآن کریم باقاعدہ تلاوت کے آداب سکھاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ تلاوت کرنے سے قبل ظاہری اور باطنی پاکیزگی شرط ہے۔ فرمایا:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: 80)

ترجمہ: کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے۔

پھر یہ کہ تلاوت سے قبل خدا تعالیٰ سے شیطانی وساوس سے بچنے کی دعا کر لیا کرو:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (النحل: 99)

ترجمہ: پس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام استعاذہ کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اعلم يا طالب العرفان انه من احل نفسه محل تلاوة الفاتحة و الفرقان فعليه ان يستعيد من الشيطان كما جاء في القران فان الشيطان قديدخل حمى الحضرة كالسارقين- ويدخل الحرم العاصم للمعصومين- فارادالله ان ينجى عباده من صول الخناس عند قراءة الفاتحة و كلام رب الناس- ويدفعه بحربته منه و يضع الفاس في الراس

ويخلص الغافلين من النعاس- فعلم كلمته منه لطرده الشيطان المدحور الى يوم النشور- (اعجاز المسيح روحاني خزائن جلد 18 صفحہ 81-82)
 ترجمہ: اے طالب معرفت جان لے کہ جب کوئی شخص سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشيطان پڑھے جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے۔ کیونکہ کبھی شیطان خدا تعالیٰ کی رکھ میں چوروں کی طرح داخل ہو جاتا ہے اور اس حرم کے اندر آ جاتا ہے جو معصومین کا محافظ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورت فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنے بندوں کو شیطان کے حملہ سے بچائے، اسے اپنے حربہ سے پسپا کرے، اس کے سر پر تبر رکھے اور غافلوں کو غفلت سے نجات دے۔ پس اس نے شیطان کو دھتکارنے کے لیے جو قیامت تک راندہ درگاہ ہے اپنے ہاں سے بندوں کو ایک بات سکھائی۔
 پھر یہ ادب سکھلایا کہ جب تلاوت کی جارہی ہو تو خاموشی سے سنی جائے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الاعراف: 205)
 ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
 قرآن کریم کی ان تعلیمات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو غور سے تلاوت سننے کی بھی بہت تاکید فرماتے تھے۔ روایت ہے:

إِنَّ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَهُ أَجْرٌ وَإِنَّ الَّذِي يَسْتَمِعُ لَهُ أَجْرَانِ
 (الدارمی؛ فضائل القرآن؛ فضل من استمع إلى القرآن)

”جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک اجر ہے اور جو غور سے سنتا ہے اس کے

لیے دہرا اجر ہے“

آداب تلاوت کے ضمن میں یہاں تک راہنمائی فرمائی کہ ایسے مبارک اوقات بھی بتادیے کہ دن اور رات کی کن گھڑیوں میں تلاوت قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان میں سے ایک وقت فجر کا ہے جب کہ انسانی ذہن مکمل طور پر پرسکون، تازہ دم اور ہشاش بشاش ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی السرائیل: 79)

ترجمہ: سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے۔ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اُس کی گواہی دی جاتی ہے۔

ذیل میں بطور نمونہ چند ایک احادیث درج کی جاتی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تلاوت کی اہمیت، آداب تلاوت اور فضائل تلاوت کا ذکر فرمایا ہے۔

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ مَحْمَدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا- لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ-

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرا حرفا من القرآن ...)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی سے دس اور نیکیاں ملیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔“

اسی ارشاد کی تعمیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی زندگی کا شغل ہی قرآن کریم پڑھنا پڑھانا بنا لیا تھا۔

أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اقْرَأْ وَالْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ- اقْرَأْ وَالزُّهْرَاوَيْنِ: الْبَقْرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ- فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ- تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا إِقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقْرَةَ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ-

(مسلم کتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا زہراوین یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو یہ قیامت کے روز اس طرح آئیں گی گویا دو بدلیاں ہوں یا ایسے کہ گویا صف آراء پرندوں کے دو غول ہوں جو اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہوں گے۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنا برکت کا موجب ہے اور اس کو ترک کر دینا حسرت کا موجب ہوگا جھوٹے شعبدہ باز اس پر غالب نہیں آسکتے۔“

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ

كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِيرِ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِيرِ بِالصَّدَقَةِ-

(سنن ابی داود کتاب التطوع باب فی رفع الصوت بالقراءة فی صلاة اللیل)

عُقبہ بن عامر جُھنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”اوپنی آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے لوگوں کے سامنے خیرات کرنے والا اور
آہستہ آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چپکے سے خیرات کرنے والا۔“

عَنْ عُبَيْدَةَ الْمَلِيكِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوهُ وَتَغْنُوهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

(رواه البيهقي في شعب الايمان بحواله مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن)

حضرت عُبيدہ مُلکی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل قرآن! قرآن پڑھے بغیر نہ سویا کرو اور اس کی تلاوت رات کو اور دن کے وقت اس انداز میں کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوش الحانی سے پڑھا کرو اور اس کے مضامین پر غور کیا کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام فرماتے ہیں:

قرآن شریف کو بھی خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے۔ بلکہ اس قدر تاکید ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خود اس میں ایک اثر ہے۔ عمدہ تقریر خوش الحانی سے کی جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وہی تقریر اثر و لبیدہ زبانی سے کی جائے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس شے میں خدا تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اس کو اسلام کی طرف کھینچنے کا آلہ بنایا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ 524)

ایک دوسری جگہ فرمایا:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش الحانی سے قرآن سنا تھا اور آپ اس پر روئے بھی تھے۔ جب یہ آیت وجئنا بک علیٰ ہؤلاء شہیداً (النساء: 42) آپ روئے اور فرمایا بس کر میں آگے نہیں سن سکتا۔ آپ کو اپنے گواہ گذرنے پر خیال گذرا ہوگا۔ ہمیں خود خواہش رہتی ہے کہ کوئی خوش الحان حافظ ہو تو قرآن سنیں۔

(ملفوظات جلد سوم صفحہ 161, 162)

قرآن شریف تدبر و تفکر و غور سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے رَبُّ قَارٍ
يَلْعَنُهُ الْقُرْآنُ۔ یعنی بہت ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا
ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے۔ تلاوت
کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی
جاوے اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے
آگے پناہ کی درخواست کی جاوے اور تدبر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔
(ملفوظات جلد پنجم صفحہ 157)

روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور خود کس انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا۔
(سنن ابی داود کتاب الوتر باب استحباب الترتیل فی القراءة)

حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انسؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت
کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی ﷺ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ قِرَاءَةَ تَهْ يَقُولُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ ثُمَّ يَقِفُ
(رواه الترمذی بحوالہ مشکاة المصابیح کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر ۲۲۰۵)

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت اُمِّ سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتے تھے آپ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھ
کر توقف فرماتے پھر الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھتے اور توقف فرماتے۔

عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُوكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَاهِي تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسِّرَةً حَرْفًا حَرْفًا۔
(رواه الترمذی و ابوداؤد والنسائی بحوالہ مشکاة المصابیح کتاب فضائل القرآن)

يَعْلَى بْنُ مَمْلُوكٍ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت اُمِّ سلمہ رضی اللہ عنہا
سے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کے بارہ میں دریافت کیا تو انہوں نے
کہا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت، قراءت مفسرہ ہوتی تھی یعنی ایک ایک حرف کے
پڑھنے کی سننے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی۔

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ۔
(سنن ابی داود کتاب الوتر باب استحباب الترتیل فی القراءة)

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ

قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔

پھر یہ بھی احادیث ملتی ہیں کہ قرآن کریم کے حکم کی تعمیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بہت تاکید کرتے تھے کہ تلاوت توجہ سے سنی جائے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب فضائل القرآن میں قرآن کریم غور سے سننے کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نصائح اور اسوہ کے بارہ میں روایات کا ایک باب باندھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں کس قدر تاکید فرماتے تھے اور صرف صحیح بخاری ہی نہیں بلکہ قریباً تمام کتب حدیث میں ملتے جلتے مضامین کی احادیث کثرت سے ملتی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ان نصائح پر صحابہؓ نے اپنی فطری اطاعت کی عادت کے مطابق والہانہ لبیک کہا۔ تعلیم القرآن کے موضوع کے تحت اس بارہ میں روایات درج کی جا چکی ہیں کہ کس طرح بہت سے صحابہؓ نے قرآن کریم کی تعلیم و تدریس کو ہی اپنا شغل بنا لیا اور دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے:

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْحٰسِرُونَ (البقرة: 122)

وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو (درحقیقت) اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے پس وہی ہیں جو گھٹا پانے والے ہیں

چنانچہ روایات میں ہے کہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنی دیر میں قرآن کریم کا مکمل دور کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ایک رات میں۔ آپ نے فرمایا:

إِقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ - قُلْتُ إِنِّي أَجِدُّ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَيَّ
ذَٰلِكَ

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب فی کم یقرا القرآن)

ایک مہینہ میں قرآن کریم کا دور مکمل کیا کرو میں نے عرض کی کہ مجھے اس سے زیادہ کی توفیق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایک ہفتہ میں مکمل کر لیا کرو لیکن اس سے جلدی نہیں۔

اس روایت سے ایک تو یہ علم ہوتا ہے کہ صحابہ کو قرآن کریم سے کس درجہ عشق تھا اور وہ کس طرح دن رات اس کی تلاوت کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب حفاظت قرآن کے حوالہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کس قدر گہری نظر سے حفاظت قرآن کا اہتمام فرماتے۔ اس طرح تیزی سے پڑھنے سے معانی کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح تلاوت کرنی چاہیے کہ معانی بھی سمجھ آ رہے ہوں۔

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام آداب تلاوت کے ضمن میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح یونہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے۔ نہ خود سمجھتا ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ دو چار سپارے پڑھ لئے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر لگا کر پڑھ لیا اور ق اور ع کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش الحانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے۔ مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے۔

(ملفوظات جلد اول صفحہ 284، 285)

اسی طرح تلاوت قرآن کریم کا ایک اور ادب یہ سکھلایا:

اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تعریف میں فرماتا ہے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ: 3) قرآن بھی ان لوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہالت اور حسد اور بخل سے قرآن شریف کو نہ دیکھیں بلکہ نور قلب کا تقویٰ ساتھ لے کر صدق نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں۔

(ملفوظات جلد اول صفحہ 536)

اسلامی عبادات کے ساتھ خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کو بہت مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہے۔ نماز دس برس کی عمر سے ہر مسلمان پر دن میں پانچ مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور ہر نماز میں قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہی پڑتا ہے اور امام کی تلاوت پیچھے صفوں میں کھڑے نمازی غور سے سنتے اور کسی بھی غلطی کی صورت میں اصلاح کرواتے ہیں۔ نیز اس طرح بار بار تلاوت اور بار بار سننے سے مختلف لوگوں کو قرآن کریم کے مختلف حصے ازبر ہو جاتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں قرآن کریم کی لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے نماز تہجد میں قرآن شریف کی پہلی پانچ سورتوں کی بالترتیب تلاوت فرمائی جو مجموعی طور پر قرآن کریم کے پانچویں حصہ کے برابر ہیں۔ (ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب ما یقول الرجل فی رکوعہ) اسی طرح بخاری میں ذکر ملتا ہے کہ لمبے لمبے قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں متورم

ہو جایا کرتے تھے۔ (بخاری کتاب الصلاة باب قیام النبی ﷺ ان ترم قدماء.....)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ
أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ
أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ

(مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن الفصل الثالث)

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا افضل ہے اس پڑھنے سے جو نماز کے علاوہ پڑھا گیا ہو اور نماز کے علاوہ قرآن کریم پڑھنا خدا تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنے سے زیادہ افضل ہے۔

اسی طرح سال میں ایک مرتبہ ایک رمضان المبارک میں قرآن کریم کا کم از کم ایک دور کرنے کی عادت بہت مبارک ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آپ کے زمانہ سے چلی آرہی ہے، اس کے علاوہ نفل نماز میں قرآن کریم کا ایک دور ہے۔ یہ مبارک عادت حضرت عمرؓ کے دور سے نماز تراویح کی شکل میں باقاعدہ جاری ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ہر رمضان میں ساری دنیا کی ہر بڑی مسجد میں سارا قرآن کریم حافظ لوگ حفظ سے بلند آواز کے ساتھ ختم کرتے ہیں ایک حافظ امامت کراتا ہے اور دوسرا حافظ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تا اگر کسی جگہ پر وہ بھول جائے تو اُس کو یاد کرائے۔ اس طرح (اس ایک ماہ میں ہی) ساری دنیا میں لاکھوں جگہ پر قرآن کریم صرف حافظ سے دہرایا جاتا ہے۔

(دیباچہ تفسیر القرآن ضیاء الاسلام پریس ربوہ صفحہ 277)

امت مسلمہ نے صرف تلاوت کی کثرت کی حد تک ہی بلیک نہیں کہا بلکہ کمال اطاعت کا ایک بے مثل نمونہ اس طرح بھی قائم کیا کہ تلاوت قرآن کو باقاعدہ ایک سائنس کی شکل دی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہدایات اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں، قرآن کریم کی تلاوت کے ضمن بھی امت مسلمہ نے بہت سے نئے علوم کی بنیاد ڈالی۔ کسی اور زبان میں دیکھ کر پڑھنے کے بارہ میں ایسی تحقیق اور تفصیل سے اصول وضع نہیں کیے گئے جیسا کہ قرآن کی خدمت کی خاطر امت مسلمہ میں عربی زبان میں وضع کیے گئے۔ مسلمانوں میں کس کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کرنے کے آداب اور علوم کو کس درجہ اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ترتیل اور تجوید کا فن جو کہ تلاوت قرآن کے آداب و قواعد اور انداز کے بارہ میں باقاعدہ ایک سائنس کی شکل اختیار کر چکا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں بہت مقبول اور اس کا سیکھنا

باعث عزت و تکریم سمجھا جاتا ہے۔ آج ساری دُنیا میں بڑی مساجد میں نماز تراویح میں اُن قراء کا اہتمام کیا جاتا ہے جو فن تجوید کے اصولوں سے واقف ہوں اور تلاوت کے آداب جانتے ہوں۔ ساری دُنیا میں حسن قراءت کے مقابلہ جات منعقد ہوتے ہیں نیز تمام بڑی مجالس کا آغاز صحت تلفظ اور آداب فن تجوید کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور سے ہی قرآن کریم دُنیا کی تمام کتب میں سب سے زیادہ زبانی اور دیکھ کر پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آج تک دنیا کی کسی کتاب کے بارہ میں ایسے قوانین اور سائنس کی بنیاد بھی نہیں ڈالی گئی جیسا کہ قرآن کریم کے صرف پڑھنے اور تلاوت کرنے کے لیے صدیوں سے رائج ہیں۔ مشہور مستشرق فلپ کے حتی لکھتے ہیں:

دُنیا میں نصرانیوں کی تعداد مسلمانوں سے قریباً دو گنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ دُنیا کی تمام کتابوں کے مقابلے میں صرف قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادتوں میں استعمال ہونے کے سوا یہ ایک ایسی کتاب بھی ہے جس کے ذریعہ ہر نوجوان مسلمان عربی سیکھتا ہے۔

(تاریخ عرب از فلپ کے حتی، ناشر: آصف جاوید برائے نگارشات، باب 5 صفحہ 35)

رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور صحابہ کا حفاظت قرآن کے ضمن میں بہت واضح اور حساس طرز عمل تھا کہ مسلمان کسی بھی قیمت پر قرآن کریم کی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ گزشتہ سطور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس درجہ احتیاط سے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جمع و تدوین قرآن کی ذمہ داری پورے صدق و صفا اور دیانت داری کے ساتھ حفاظت کے تمام ظاہری تقاضے پورے کرتے ہوئے نبھائی اور ساتھ ساتھ ہر لحاظ سے اس کی اشاعت بھی فرمائی۔ قرآن کریم کی عام تلاوت سے لے کر اس کے گہرے مضامین تک کی تعلیم و تدریس کا فریضہ خود بھی ادا کرتے رہے اور صحابہ کو بھی ناصرف تاکید فرماتے رہے بلکہ بھرپور نگرانی فرماتے ہوئے حفاظت کے تمام ممکنہ دُنیاوی تقاضے پورے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو وحی الہی کی حفاظت کا کس قدر خیال تھا اور آپ اس ذمہ داری کا کتنا احساس کرتے تھے اس کا اندازہ قرآن کریم کی اس گواہی سے ہوتا ہے کہ آپ نزول کے وقت وحی الہی کو نزول کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دی کہ اس قدر بوجھ لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کلام کی حفاظت اور اشاعت کا خدا تعالیٰ خود ذمہ دار ہے۔ پھر جو نبی وحی کا نزول ختم ہوتا اسے لکھوا لیتے۔ لکھوا کر سنتے اور تسلی کے بعد اشاعت کی اجازت دیتے۔ خود تعلیم و تدریس کا فریضہ انجام دیتے اور بار بار حفاظت صحابہ سے سنتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ساری امت کو گواہ بنایا کہ آپ نے پیغام الہی کو ان تک مکمل صورت میں پہنچا دیا ہے اور اس الہی امانت کو کمال دیانت داری کے ساتھ حفاظت کے تمام ممکنہ تقاضے پورے کرتے ہوئے بنی نوع کے سپرد کر دیا ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا اور آپ کو بھی اور حضرت

ابوبکرؓ کو بھی اس کا علم ہو گیا تو اس درجہ احساس ذمہ داری اور اہتمام سے حفاظت قرآن کی خدمت سرانجام دینے کے بعد اب آپ مکمل طور پر مطمئن تھے کہ قرآن کریم محفوظ ہو چکا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ نے اپنے وصال کے قرب کی خبر دی (بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی ووفاته) تو اس کے بعد آپ قریباً چھ ماہ اور زندہ رہے ہیں۔ اگر ایک ذرہ بھی خیال ہوتا کہ ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے تو ان چھ ماہ میں ہنگامی بنیادوں پر آپ کو وہ کسر پوری کرنی تھی۔ مگر اس عرصہ میں آپ کے طرز عمل میں کوئی بے چینی یا فکر یا عجلت دکھائی نہیں دیتی۔ آپ مکمل طور پر مطمئن تھے کہ آپ نے اپنے سپرد اس ذمہ داری کو بہترین رنگ میں سرانجام دے دیا ہے۔ ایک معمولی سوجھ بوجھ کے انسان کو اگر احساس ہو جائے کہ اس کا آخری وقت نزدیک ہے تو وہ اپنی زندگی بھر کی کمائی کی حفاظت کے خیال سے اس کے بارہ میں وصیتیں کرواتا ہے۔ اسکی تقسیم کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کے بعد اس کی محنت ضائع نہ ہو جائے بلکہ درست ہاتھوں میں جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بے انتہاء فہم و فراست سے بعید تھا کہ ابھی حفاظت قرآن کے ضمن میں کوئی کمی رہ گئی ہو اور آپ نے اُس کمی کو پورا کرنے کا اہتمام نہ فرمایا ہو۔ ہاں ایک ذکر ملتا ہے کہ اپنے آخری ایام میں امت کے لیے آخری نصیحت کے طور پر کچھ وصیت کرنے کے لیے آپ نے کاغذ قلم منگوا لیا۔ حضرت عمرؓ کے یہ کہنے پر کہ ”حسبنا کتاب اللہ“ (بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی ووفاته) یعنی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ نے اطمینان کا اظہار فرما دیا۔ گویا یہی آخری وصیت تھی آپ کی۔ اب اگر کتاب اللہ کی حفاظت میں کوئی کسر رہ گئی تھی تو رسول کریمؐ اس موقع پر ضرور اس کی بھی نصیحت کرتے۔

پس جب قرآن کریم ایک ایسی واحد مذہبی کتاب ہے جو نزول کے ساتھ ساتھ ضبطِ تحریر میں لائی جاتی رہی ہے۔ ہر دور میں تو اتر کے ساتھ تحریری صورت میں موجود رہی ہے۔ پھر قرآن ہی وہ واحد مذہبی کتاب ہے جو کہ مکمل طور پر حفظ کی جاتی ہے۔ ہر دور میں کثیر تعداد میں اس کے حفاظ موجود رہے ہیں۔ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ دُنیا بھر میں سب کتابوں سے زیادہ سیکھی جاتی ہے اور سب کتابوں سے زیادہ اس کی تلاوت جاتی ہے، تو اس کی حفاظت میں کیا کسر رہ سکتی ہے؟ جس کتاب کی حفاظت کے لیے تحریر اور حفظ کے ساتھ ساتھ اتنے بہت سے ذرائع بھی تمام تر دیانت داری کے ساتھ بروئے کار لائے جا رہے ہوں، اس کی حفاظت میں کس طرح کوئی ادنیٰ سا بھی شک ہو سکتا ہے؟

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام فرماتے ہیں:

انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ مسلمان جس پاک اور کامل کتاب پر ایمان لائے ہیں کس قدر اس مقدس کتاب کو انہوں نے اپنے ضبط میں کر لیا ہے عموماً تمام مسلمان ایک حصہ کثیر قرآن شریف کا حفظ رکھتے ہیں جس کو پنج وقت مساجد میں نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ ابھی بچہ

پانچ یا چھ برس کا ہوا جو قرآن شریف اس کے آگے رکھا گیا۔ لاکھوں آدمی ایسے پاؤ گے جن کو سارا قرآن شریف اول سے آخر تک حفظ ہے اگر ایک حرف بھی کسی جگہ سے پوچھو تو اگلی پچھلی عبارتیں سب پڑھ کر سنادیں اور مردوں پر کیا موقوف ہے ہزاروں عورتیں سارا قرآن شریف حفظ رکھتی ہیں۔ کسی شہر میں جا کر مساجد و مدارس اسلامیہ میں دیکھو صد ہاڑکوں اور لڑکیوں کو پاؤ گے کہ قرآن شریف آگے رکھے ہیں اور با ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں اب سچ سچ کہو کہ اس کے مقابل پر وید کا کیا حال ہے اور خود ایماناً اپنے ہی کاشنسنس سے پوچھ کر دیکھو کہ وید کی حالت کو اس سے کیا نسبت ہے سو اس سے ہی تم سمجھ سکتے ہو کہ کس کتاب کے شامل حال نصرت الہی ہے اور کونسی کتاب اپنی تعلیموں میں شہرت تام پا چکی ہے یوں تو متعصبوں کا تعصب خدا ہی مٹاؤے تو مٹ سکتا ہے لیکن غور کرنے والی طبیعتیں سمجھ سکتی ہیں۔

(شخصہ حق روحانی خزائن جلد دوم صفحہ 333، 334)

تعلیم القرآن

حفاظت قرآن کے ضمن میں امت محمدیہ میں قرآن کریم کی تعلیم رائج ہونے اور جاری و ساری رہنے کا بھی بہت اہم حصہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جس کتاب کے لفظ تو محفوظ ہوں لیکن معنوں کی حفاظت نہ ہو وہ محفوظ کتاب نہیں کہلا سکتی۔ لیکن جس کتاب کی تعلیم ہر دور میں کسی قوم کے چھوٹے بڑے افراد میں عام ہو، ممکن ہی نہیں کہ وہ کتاب کسی بھی زمانہ میں ضائع ہو جائے۔ یہ بہت واضح امر ہے کہ جو تعلیم دلوں میں راسخ ہو جائے اور روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے وہ مٹائی نہیں جاسکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم کی جمع کا ذمہ لیا وہاں اس کی تعلیم اور اس کے معانی کی تفہیم کا ذمہ بھی اپنے سر ہی لیا۔ قرآن کریم کی حفاظت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جو مساعی فرمائیں ان میں تعلیم القرآن کے حوالہ سے بہت اہم اور بنیادی اقدامات کیے۔ چنانچہ آپؐ قرآن کریم کا علم حاصل کرتے رہنے کی بہت تاکید فرماتے تھے اور نہ صرف علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے بلکہ صحابہ کو قرآن کریم سکھانے اور اسکی تعلیم کی اشاعت کی طرف توجہ دلاتے۔ سب سے پہلے معلم قرآن خود آپؐ تھے اور معلمین قرآن کے لیے اسوہ حسنہ بھی۔ چنانچہ آپؐ کی والہانہ اطاعت کرنے والے جانثار صحابہؓ نے اس میدان میں بھی غیر معمولی اخلاص کے ساتھ بے نظیر نمونہ دکھایا۔ تاریخ کے اوراق ان بے شمار مثالوں سے پُر ہیں کہ صحابہ کس شوق اور ولولہ سے اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور اس کی اس خواہش کی تکمیل میں اور حفاظت قرآن کے باب میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس میدان میں آگے آئے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی اندرونی گواہی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سب سے پہلے

معلم القرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ (الجمعة: 3)

یعنی وہی خدا ہے جس نے اُمی لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور الکتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی حکمت سکھاتا ہے۔ چنانچہ کثرت سے روایات ملتی ہیں جن سے علم ہوتا ہے کہ آنحضرت کس شوق اور تڑپ کے ساتھ صحابہ کو قرآن کریم کی تعلیمات اور ان کی حکمت سے آگاہ کرتے اور تعلیم و تدریس کا فریضہ سرانجام دیا کیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم القرآن کے سلسلہ میں نصائح اور اس راہ میں آپ کی عملی اور علمی سعی اور رہنمائی کا مختصر بیان کرنے کے لیے نمونہ کے طور پر چند روایات درج کی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

كان رسول الله ﷺ يعلمنا القرآن

(مسند احمد بن حنبل جلد 2 مسند عبد الله بن عمر صفحہ 157)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔

کثرت سے ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ گواہی ملتی ہے کہ بہت سے صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم پڑھا تھا مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ:

والله لقد اخذت من في رسول الله ﷺ بضعا و سبعين سورة

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبي ﷺ)

خدا کی قسم میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بہتر سے زائد سورتیں سیکھیں۔

اسی طرح ذکر ملتا ہے کہ:

ابی عمران سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک

میں جبکہ ابھی ہم کھیلنے کودنے کی عمر کے بچے تھے، آپ (ﷺ) ہمیں پہلے ابتدائی ایمان کی

باتیں سکھاتے پھر قرآن کریم کی تعلیم دیتے جس سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا۔

(مقدمہ سنن ابن ماجہ باب فی الایمان)

حضرت عمر اور حضرت حکیم بن ہشام رضی اللہ عنہما کے واقعہ کا ذکر گزشتہ میں بھی ہو چکا ہے جس اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ کس طرح صحابہ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے ایک دوسرے کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے یہ حقیقت بھی روشن ہوتی ہے کہ صحابہ براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے:

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک صحابی ہشام بن حکیم بن حزام (رضی اللہ عنہ) کو سورۃ الفرقان کی تلاوت کرتے سنا۔ میں نے غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی ایسے انداز میں پڑھ رہے ہیں جس انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں پڑھایا۔ پس میں ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا اور مجھے ان کی نماز کے اختتام تک بہت صبر سے بیٹھنا پڑا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کو ان کی چادر سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ جو سورۃ میں نے ابھی تجھ سے سنی ہے یہ تجھے کس نے پڑھائی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم غلط کہتے ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پڑھائی ہے اور وہ اس طرح نہیں ہے۔ پس میں انہیں لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے انہیں قرآن کریم اس انداز میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپؐ نے مجھے نہیں پڑھایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور کہا اے ہشام پڑھو۔ پھر مجھے پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ پس میں نے اسی طرح تلاوت کی جس طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ اس پر رسول کریمؐ نے فرمایا کہ (یہ سورۃ) اس طرح بھی نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ قرآن کریم سات حروف میں نازل ہوا ہے پس جیسے آسانی محسوس کرو، پڑھ لیا کرو۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن علی سبعة حروف)

اس روایت کے مطابق دونوں صحابہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا تھا۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ ایک انصاری صحابیہ حضرت ام ہشامؓ فرماتی ہیں:

أَخَذْتُ قَوْلَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (ق: 2) عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(مسند القبائل حدیث ام ہشام بن حارثہ النعمان)

یعنی میں نے سورۃ ق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیکھی تھی۔

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ - قَالَ: اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ نَعَمْ - فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ -

(متفق علیہ بحوالہ مشکاة المصابیح کتاب فضائل القرآن)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا "کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر

سناؤں۔ حضرت اُبَی بن کَعْبؓ نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو یہ حکم دیا ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہاں اُبَی بن کَعْبؓ نے عرض کی، یا رسول اللہ! کیا آپ نے رب العالمین کے حضور میرا ذکر کیا تھا؟ اس پر آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا جواب سن کر اُبَی بن کَعْب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی قرآن کریم کی درس و تدریس میں مشغول رہنے والوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ تاریخ میں اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ صحابہؓ کے دو گروہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ عبادات اور دعاؤں وغیرہ میں مصروف ہے اور دوسرے گروہ میں قرآن کریم کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے اور پھر آپ قرآن کریم کی تعلیم و تدریس میں مشغول گروہ میں رونق افروز ہو گئے۔

(مقدمہ سنن ابن ماجہ باب فضل العلماء و الحث علی طلب العلم)

پھر صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے چار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارہ میں یہ حکم فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ چنانچہ روایات میں ذکر ملتا ہے:

النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من اربعة من عبد الله بن مسعود و سالم و معاذ بن جبل و ابي بن كعب

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبي ﷺ)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ چار افراد سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیا کرو۔

عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل اور اُبَی بن کعب (رضوان اللہ علیہم اجمعین)

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی اعلیٰٰ حضرت الموعود رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اساتذہ میں سے دو مہاجرین میں سے تھے اور دو انصار میں سے۔ دور و سائیں سے تھے اور ایک مزدور اور ایک تاجر تھے۔ گویا ہر طبقے کے لیے معلم کا انتظام کر دیا۔

(دیباچہ تفسیر القرآن ضیاء الاسلام پر پریس ربوہ صفحہ 271)

صرف انصار مدینہ میں سے ستر حفاظ کی شہادت کے واقعہ کا ذکر (صفحہ 28 پر) گزرا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم مختلف قبائل میں دس دس، پندرہ پندرہ قراء صحابہؓ کے وفود تعلیم القرآن کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ مہاجرین اور انصار دونوں میں حفاظ کی کثیر تعداد موجود تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے اور پھر وفود کی صورت میں عرب کے مختلف

علاقوں میں جا کر رہتے اور دیگر مسلمانوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی مدینہ منورہ کے مرکزی نظام کے تحت براہ راست سارے مسلم عرب کی تعلیم القرآن کی ضروریات پوری کی جا رہی تھیں۔

صحاح ستہ میں نیز دیگر حدیث اور تاریخ کی کتب میں باقاعدہ تعلیم القرآن اور تفسیر القرآن کے ابواب ہیں۔ جن میں تعلیم القرآن کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساعی کا ذکر اور قرآن کریم سے محبت اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے آپ کی نصائح درج ہیں۔

تعلیم قرآن کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر باریک بینی سے انتظام فرماتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خیال رہتا تھا کہ صرف آپ کی خوشنودی کی خاطر ہی صحابہ تعلیم القرآن میں مصروف نہ رہیں بلکہ خدا کی رضا اور قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت کی خاطر اس میدان میں آگے قدم ماریں۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ سامنے نہ ہوں تو تعلیم القرآن کا سلسلہ سستی یا کمزوری کا شکار ہو جائے۔ مثلاً روایت ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ۔
(سنن ابی داود کتاب الوتر باب فی ثواب قراءة القرآن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم قرآن کریم پڑھنے کے لیے اور ایک دوسرے کو پڑھانے کے لیے خدا تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں۔

اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مساجد میں بھی تعلیم القرآن کی باقاعدہ کلاسز منعقد ہوا کرتی تھیں۔

اسی طرح تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کے علاوہ صحابہ کے گھروں میں بھی تعلیم القرآن کلاسز کا باقاعدہ انعقاد ہوا کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکی نگرانی بھی فرمایا کرتے اور حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ کے گھر پر جاری تعلیم القرآن کلاس کے معائنہ کی خواہش کا اظہار فرمایا کہ کیا ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ میں وہاں جا کر بیٹھوں اور کسی کو میری موجودگی کا علم نہ ہو؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے اندھیرے کونے میں اس طرح بٹھادیا گیا کہ آپ تو سب کو دیکھ سکتے تھے مگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے کلاس کا جائزہ لیا اور اگلے روز اپنی

خوشنودی کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے فرمایا:

لورأيتني وانا استمع لقرائتك البارحة لقد اوتيت زممارا من زماميرال داؤد
(مسلم کتاب صلاة المسافرين قصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن)

یعنی آپ نے تو مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے گزشتہ رات آپ کی تلاوت سنی۔ آپ کو تو آل داؤد
جیسا خوبصورت لحن دیا گیا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ایسا مومن
جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے سنگترے کی طرح ہے۔ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا
ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور ایسا مومن جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل پیرا ہوتا
ہے وہ کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو لذیذ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اور قرآن
پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان (نیازبو) کی طرح ہوتی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے
لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال حنظل یعنی تمہ کی طرح
ہوتی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بھی ناگوار ہوتی ہے۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب اثم من رای بقراءة القرآن او تاكل به او فخر به)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو نصائح بھی فرمائیں۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ”مَا مِنْ امْرِئٍ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ
يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْدَمًا۔“

(سنن ابی داؤد کتاب الوتر باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه)

سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

”جو آدمی قرآن کریم پڑھ کر بھول جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور اس

حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کی صورت بگڑی ہوئی ہوگی۔“

عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْبَسَ وَالِدَاهُ تَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءٌ
أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ
بِالَّذِي عَمِلَ بِهِذَا۔

(سنن ابی داؤد کتاب الوتر باب ثواب قراءة القرآن)

سہل بن معاذ جہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو دو تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی جو ان کے دنیا کے گھروں میں ہوتی تھی پھر جب اس کے والدین کا یہ درجہ ہے تو خیال کرو کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم قرآن کریم کا زیادہ علم رکھنے والے کو دوسرے اصحاب پر فضیلت دیتے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم امامت اور قیادت کی سپردگی کے وقت یہ خاص خیال رکھتے تھے کہ قرآن کریم کا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ اسی طرح جب جنگ احد میں شہدا کی تدفین کا مرحلہ آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان صحابہ کو دفن کرو جو قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتے تھے۔ گویا وفات کے بعد بھی عالم قرآن کی عزت قائم رکھی گئی ہے۔

(بخاری کتاب الجنائز باب الصلاة علی الشہید)

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب : خیر کم من تعلم القرآن وعلمه)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھتا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب : خیر کم من تعلم القرآن وعلمه)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے افضل وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَا هَرَبَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ-

(ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ماجاء فی فضل قارئ القرآن)

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں عبور رکھتا ہے وہ فرمانبردار اور معزز سفر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔

حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ - فَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي - فَقَالَ نَافِعٌ - : اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنُ أَبِي - فَقَالَ عُمَرُ وَمَنْ ابْنُ أَبِي؟ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لِقَارِي لِكِتَابِ اللَّهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ - إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ -

(الدارمی کتاب فضائل القرآن باب ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع آخريين)

راوی کہتے ہیں کہ عامر بن واثلہ نے بیان کیا کہ نافع بن عبدالحارث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عسفان میں ملے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں اہل مکہ کا والی مقرر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ نے مکہ میں اپنا قائم مقام کس کو مقرر کیا؟ نافع نے کہا۔ میں نے ابن اَبِی کو اپنے قائم مقام کے طور پر مقرر کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے دریافت فرمایا۔ ابن اَبِی کون ہے؟ نافع نے عرض کی۔ اے امیر المؤمنین! وہ حافظ قرآن اور علم الفرائض کے ماہر ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے طفیل بعض لوگوں کا مقام و مرتبہ بڑھائے گا اور بعض کو مقام و مرتبہ میں گرا دے گا۔

اسی طرح ایک دوسرے مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والوں کا مرتبہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ راوی کہتا ہے اس پر آپؐ سے دریافت کیا گیا۔ یا رسول اللہ! اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ قرآن والے اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔

(مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 128 مطبوعہ بیروت)

رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آپؐ کے جانشین صحابہؓ کے اس سوہ پر چلتے ہوئے اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر اب تک امت محمدیہ کا نمونہ تو دنیا کے سامنے ہے ہی کہ کس طرح بچے کو چھوٹی عمر سے قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جاری کردہ سنت کے عین مطابق آج تک تواتر کے ساتھ تعلیم القرآن اور حفظ کا سلسلہ جاری ہے۔ تعلیم القرآن اور حفظ قرآن کے مدرسے شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں قائم ہیں۔ دیہات، قصبات اور شہروں میں چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے علاوہ سکولوں کالجوں اور بڑی بڑی اسلامی اور

غیر اسلامی یونیورسٹیوں میں بھی قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کا متن محفوظ تھا اور تمام صحابہ کی پہنچ میں تھا اس کی ایک قومی گواہی حجۃ الوداع کے موقع پر ساری امت نے دی جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ لاکھوں کے اس مجمع نے یک زبان ہو کر اس حقیقت کا اعتراف کیا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی۔ اگر قرآن کریم تحریری صورت میں اور حفظ کی صورت میں محفوظ نہ ہوتا اور تعلیم القرآن کا مکافہ اہتمام نہ ہوتا تو اُس وقت ضرور یہ سوال اٹھتا کہ یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ پیغام قوم تک پہنچ گیا جب کہ وحی الہی نہ تحریری صورت میں موجود ہے اور نہ ہی امت میں عام طور پر اس کی تعلیمات رائج ہیں؟ لاکھوں کا وہ مجمع بھی گواہی دے سکتا تھا جب ان میں سے ہر ایک کو علم ہوتا کہ قرآن کریم اس کی پہنچ میں ہے۔ اب اُس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا ان کی صوابدید پر ہے۔

اب ایک طرف تدوین قرآن کے ضمن میں کی جانے والی ان مساعی کو دیکھیں اور دوسری طرف اعتراض کو دیکھیں جو اٹھایا جا رہا ہے کہ:

The Prophet himself may have forgotten some verses, the companions` memory may have equally failed them, and the copyists may also have mislaid some verses. We also have the case of the Satanic Verses, which clearly shows that Muhammad himself suppressed some verses.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg112)

یعنی ہو سکتا ہے نبی (ﷺ) خود کچھ آیات بھول گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے حفظ کرنے والے کچھ آیات بھول گئے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاتبین نے کچھ آیات غلط طور پر لکھ دی ہوں پھر ہمارے پاس شیطانی آیات کا قصہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ محمد (ﷺ) نے کچھ آیات خود بھی چھپالی ہیں۔

یہاں ابن وراق نے قاری کے دل میں یہ شک ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح تمام مذاہب کی تاریخ شکوک و شبہات سے پُر ہے یہی حال اسلامی تاریخ کا بھی ہے۔ کچھ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ کیا ہوا ہوگا۔ بہت سے امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے فلاں حادثہ ہو گیا ہو یا فلاں حادثہ ہو گیا ہو۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ گزشتہ سطور میں حفاظت قرآن کے حوالہ سے تو ہم دیکھ آئے ہیں کہ اسلامی تاریخ تو چمکتے سورج کی طرح روشن اور واضح ہے اور اس میں ہر چیز ایسی واضح ہے جیسے دن کی روشنی میں۔ چنانچہ محققین اس کا کھل کر اعتراف کرتے ہیں۔ باسور تھ سمٹھ دوسرے مذاہب کا تاریخی لحاظ سے غیر مستند اور کمزور ہونا بیان کرنے کے بعد اسلام کے بارہ میں لکھتے ہیں:

But in Mohammedanism every thing is different here, instead of the shadowy and mysterious, we have his story.

We know as much of Mohammed as we do even of Luther and Milton. The mythical, the legendary, the supernatural is almost wanting in the original Arab authorities, or at all events can easily be distinguished from what is historical. Nobody here is the dupe of himself or of others; there is the full light of day upon all that light can ever reach at all.

(Basworth Smith "Mohammad and Mohammadanism" London 1874, p. 41,42)

محمدن ازم میں معاملہ (دوسرے مذاہب سے) بالکل مختلف ہے۔ یہاں ہمارے پاس اندھیروں کی بجائے تاریخ کی روشنی ہے۔ ہم آپ کے بارہ میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ لوتھر اور ملٹن کے بارہ میں۔ یہاں حقائق ہیں نہ کہ خیالات اور قیاسات اور ظنون اور طلسماتی کہانیاں۔ ہم باسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ان معاملات میں نہ تو کوئی شخص خود کو دجل اور فریب میں مبتلا کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کو۔ یہاں ہر چیز دن کی پوری روشنی میں جگمگا رہی ہے۔

اسی طرح فلپ کے حتی بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی اہم بات شک و شبہ کا شکار نہیں ہے بلکہ ظاہر و باہر ہے:

(تاریخ عرب از فلپ کے حتی، ناشر: آصف جاوید برائے نگارشات، باب 4 صفحہ 21)

مشہور رومن کیتھولک نن اور مشرقی علوم کی ماہر کیم آرم سٹرانگ اسلامی تاریخ کے ابتدائی ماخذ اور مشہور مسلمان مؤرخین ابن اسحاق، ابن سعد، طبری اور واقدی کے بارہ میں لکھتی ہیں:

یہ چاروں بہت معتبر مؤرخ اور سوانح نگار ہیں۔..... ان سوانح نگاروں کے ہاں آپ کو محض ان کے خیالات اور معتقدات ہی نہیں ملتے بلکہ حقائق کو تلاش کرنے کی محققانہ کاوش بھی دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً انہوں نے تمام ابتدائی اور بنیادی دستاویزات کو پڑھا، سینہ بسینہ چلی آرہی روایات و حکایات کو سنا اور اس کے باوجود کہ وہ سچے مسلمان تھے اور نبی کریم (ﷺ) کی ذات مبارک سے گہری عقیدت رکھتے تھے، تاریخ لکھتے ہوئے کم ہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی معاملہ میں جانب دار ہوئے ہوں۔..... ان سوانح عمریوں کی درستگی پر اعتبار کرتے ہوئے ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ہم نبی (ﷺ) کی حیات مبارکہ کا ایک زیادہ حقیقت پسندانہ اور سچا خاکہ حاصل کر سکتے ہیں۔

ان مؤرخین کے انداز تحقیق و تحریر سے ظاہر ہے کہ وہ اس موضوع پر کام کرنے والے دیگر جدید مغربی مؤرخین سے بے حد مختلف ہیں۔..... اپنی کتب میں انہوں نے بہت سے غیر معمولی اور کافی حد تک ایسے ناقابل یقین واقعات بھی شامل کیے ہیں جنہیں ہم آج بہت مختلف انداز میں بیان کریں

گے۔ لیکن وہ معاملات کی پیچیدگی اور سچائی کی باریک اور مبہم نوعیت سے کما حقہ آگاہ تھے۔..... وہ کسی ایک نظریے کی بنیاد پر کسی دوسرے نظریے کو ثابت یا واقعہ کی وضاحت نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات وہ مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی روایت کی ایک سے زیادہ معروف صورتیں پیش کر دیتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی درستگی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتے اور نہ اس ضمن میں قارئین کی رائے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔..... یہ اور بات ہے کہ ہم آج انہیں کن معیارات پر پرکھیں۔ اُس دور میں جس حد تک ان سے ممکن تھا انہوں نے ہر ایک واقعہ کو انتہائی تفصیل اور ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تاہم بہت سے موقعوں پر وہ اس بات کو واضح بھی کرتے ہیں کہ وہ خود بھی پیش کردہ واقعے یا ثبوت سے متفق نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس کے باوجود کہ ان مؤرخین کی پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ سے گہری عقیدت تھی، انہوں نے آپ کی زندگی کی تفصیلات کو ممکنہ حد تک درست اور ٹھوس دلائل اور شواہد کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

(محمد ﷺ) باب دوم، صفحہ 58، 59 پبلشرز: علی پلازہ 3 مزنگ روڈ لاہور

پھر بذاتِ خود اعتراض کا بھونڈا پن بھی ظاہر ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے ذکر میں تاریخی ثبوتوں اور ناقابل تردید دلائل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ حفاظت کا ایسا غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے کہ تاریخ انسانی میں اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس شان اور اہتمام کے ساتھ کسی بھی چیز کی حفاظت کی گئی ہو اور اعتراض کیا ہے؟! ”ہوسکتا ہے“ گویا کوئی طفل مکتب یا ناواقف انسان ہے، جسے قرآن کریم کی تاریخ سے ادنیٰ سا بھی مس نہیں اور جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کے بارہ میں نہیں بلکہ کسی عام سی کتاب کے بارہ میں بات ہو رہی ہے۔ پس اس سوال کا اتنا جواب ہی کافی ہے کہ یہ دراصل تمہاری حسرتیں ہیں نہ کہ حقیقت۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ثبوت کے ساتھ پیش کرو۔

پس یہ کیسا محقق ہے جو اتنے دلائل اور ثبوتوں کو دیکھ کر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہوسکتا ہے یہ ہو گیا ہو اور وہ ہو گیا ہو؟ لگتا ہے تاریخ اسلام میں حفاظت قرآن کے سلسلہ میں روشن ثبوتوں کی آب و تاب سے اسکی آنکھیں چندھیا گئی ہیں اور ایک ہی طریقہ بچا ہے اعتراض کو آگے بڑھانے کا کہ روز روشن میں اندھے کی طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ بات کی جائے کہ ”ہوسکتا ہے“ آخر اعتراض کرنے کی جلدی کیا تھی؟ کون سی گاڑی چھوٹ رہی تھی؟ تھوڑی سی تحقیق کر لیتے پھر اگر اعتراض کا کوئی پہلو نظر آتا تو بیان کرتے اور اگر جاہلانہ روش ہی اختیار کرنی تھی تو پھر علمی میدان میں آئے ہی کیوں۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کسی معزز محفل میں کوئی دیوانہ چلا نا شروع کر دے۔ جہاں واضح حقائق نظر آ رہے ہوں وہاں جان بوجھ کر اندھے پن کا ثبوت دینا اور یہ کہنا ایک دیانت دار محقق کو زیب نہیں دیتا کہ ہوسکتا ہے یہ ہو گیا ہو۔ ہوسکتا ہے وہ ہو گیا ہو۔

قرآن کریم حافظہ سے محو نہ ہونے دینا خدا تعالیٰ کی ذمہ داری تھی

اب تک تو یہ بات ہو رہی تھی کہ تاریخی شہادتیں اور مستند ثبوت سب اسی بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعینہ ویسے ہی ہم تک پہنچایا ہے جیسا کہ آپ کے سپرد کیا گیا اور ان حالات میں کسی بشری کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حصہ ضائع ہونا ناممکن تھا۔ لیکن اس بحث کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب خدا نے بنی نوع کی ہدایت کا سامان فرمانا ہی تھا تو پھر لازماً پورا سامان فرمانا تھا نہ کہ ادھورا چھوڑ دینا اور اپنے فعل کو اپنی نگاہوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھتا۔ جب ہدایت کا بیڑا اٹھایا تھا تو پھر لامحالہ ایسے سامان بھی بہم پہنچانے تھے کہ اس کا پیغام بلا کم کاست اور بلا شک و شبہ بنی نوع تک پہنچتا۔ ناممکن تھا کہ اپنے ایک بابرکت سلسلہ کو مقصد پورا کیے بغیر اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتے دیکھتا اور خاموش رہتا۔ خاص کر اس صورت میں کہ اس سلسلہ کی حفاظت کا وعدہ بھی لے رکھا تھا اور پھر اس حفاظت پر پوری طرح قادر بھی تھا۔

یہ امر بھی واضح ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک کام کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا تھا تو پھر اپنے ارادہ کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازماً ایسے قوی اور صلاحیتیں بھی دینی تھیں۔ جب دنیا تک اپنا کلام پہنچانے کے لیے آپ کو چنا تھا تو لازماً آپ کو وہ تمام صلاحیتیں تمام و کمال عطا کرنی تھیں جو قرآن کریم کو بعینہ آگے منتقل کرنے کے لیے ضروری تھیں۔ عقلی لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ خدا تعالیٰ جو اتنا عظیم الشان سلسلہ انبیاء قائم کرتا ہے اور ایک انقلاب ان کے ذریعے پیدا کرتا ہے تو یہ سب تبھی ممکن ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی تعلیم بلا کم و کاست اس کی مخلوق تک پہنچے۔ پس کیونکر ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ایک کا انتخاب کرے اور وہ منتخب انسان اس قابل ہی نہ ہو کہ اس پیغام کو آگے پہنچا سکے اور پھر اس منتخب انسان پر اپنا کلام نازل کرے مگر اس کو ایسے قوی ہی نہ دے کہ وہ خدا کا مامور اسے دنیا تک پہنچا سکے۔ پس ضرور خدا تعالیٰ اس کلام کی حفاظت کا انتظام فرماتا ہے اور عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے لاکھوں، کروڑوں انسانوں میں سے کسی ایک کو ساری دنیا کی اصلاح کے لیے چنے اور پھر اُسے ایسے کمزور قوی عطا کرے کہ وہ ہر بات بھول جائے اور خود ہی شبہات کا شکار رہے اور خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کے شروع میں ہی خاموشی سے اسکی بربادی کا تماشا دیکھتا رہے۔ وہ قادرِ مطلق اور ہادی خدا تو حفاظت کی خاطر ایسے ایسے انتظامات فرماتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حاملِ وحی کو وہ ذہن رسا اور عظیم قوی عطا کرتا ہے جو اس کلام کا بوجھ سہارنے کے ساتھ ساتھ اسکی محافظت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

Again the person deemed fit by God to represent Him

is always of this trust because of his absolute adherence to truth. As such it is impossible for him to commit injustice either in relation to God or His message or in relation to mankind. But this only happens when the faculty of such a person have been cultivated by God to reach a stage of perfect proportion and poise; and then is he considered fit by God to act as His messenger. God thereby, places His trust in him and this trust is never betrayed.

(Absolute Justice Part 1, Under Heading No.8 "The Role of the Three Creative Principles in the Shaping of Religion Page:117-118)

خدا تعالیٰ کی نمائندگی کا استحقاق اسی کو ہوتا ہے جو سچائی کے ساتھ کامل وابستگی کی بدولت ہمیشہ خدا تعالیٰ کا معتمد ہوتا ہے۔ چنانچہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغام کے تعلق میں بنی نوع انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نا انصافی کا مرتکب ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام صلاحیتوں کو ایک کامل تناسب اور توازن کے کمال تک پہنچانے کے بعد ہی اسے نبوت کے اعلیٰ مقام پر سرفراز کیا کرتا ہے اور اپنا کامل اعتماد اسے عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ کبھی بھی اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ چنانچہ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝
ذُو مِرَّةٍ ط فَاسْتَوَىٰ ۝ (النجم: 4 تا 7)

ترجمہ: اور وہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا۔ یہ تو خالصتاً ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے۔ اسے مضبوط طاقتوں والے نے سکھایا ہے۔ (جو) بڑی حکمت والا ہے۔ پس وہ فائز ہوا۔

ان آیات میں عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ کے الفاظ میں یہ واضح طور پر فرمادیا کہ اس حفاظت کے تعلق میں جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق کا تعلق ہے تو انہیں اس شان کے قوی جو قرآن کے محفوظ رکھنے کے لیے درکار ہیں، خدا تعالیٰ نے عطا کرنے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر معمولی قوی کے بارہ میں آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے آج بھی گواہ ہیں۔ واشنگٹن آئرونگ یہ شہادت ان الفاظ میں دیتے ہیں:

"His intellectual qualities were undoubtedly of an extraordinary kind. He had a quick apprehension, a retentive memory, a vivid imagination and an inventive genius."

(Washington Irving: Mahomet and his Successors, Printers: George Bell & Son Londons, York St., Covent Garden, 1909, p. 192)

آپ (ﷺ) کی ذہنی صلاحیتیں بلاشبہ غیر معمولی نوعیت کی تھیں۔ تیز تر فراست، بلا

کا حافظہ، غضب کی ذہانت اور تخلیقی سوچ۔

ایڈورڈ گبن رقم طراز ہیں:

"His (i.e., Muhammad's) memory was capacious and retentive, his wit easy and social, his imagination sublime, his judgment clear, rapid and decisive. He possessed the courage of both thought and action; and... the first idea which he entertained of his divine mission bears the stamp of an original and superior genius."

(Edward Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, John Murray, Albemarle St. London 1855, vol. 6, p335)

یعنی آپ کا حافظہ وسیع اور تیز، آپ کا فلسفہ عام فہم، آپ کا تصور بلند پایہ، آپ کا فیصلہ واضح، تیز اور درست، آپ کو قول اور فعل دونوں کی جرأت عطا کی گئی تھی۔.... اور اپنے الوہی مشن کے بارہ میں پہلا نظریہ جو آپ نے قائم کیا وہ ایک حقیقی اور بلند تر سوچ کی حامل ہستی کی طرف سے ہونے کا ثبوت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔

اور پھر بذات خود خدا تعالیٰ شدید القوی ہے۔ جب وہ ایک کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی دوسری طاقت یا کسی کی کمزوری خدا کے ارادہ کے پورا ہونے میں روک نہیں بن سکتی۔ پس ان بشری کمزوریوں سے قرآن کریم کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کا تمام کام اپنے ذمہ لے رکھا تھا اور آپ کو اس امانت کا اہل بنانے کے لیے تمام ضروری قوی بھی عطا کیے تھے۔ چنانچہ جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کے احساس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کو نزول کے ساتھ ساتھ تیزی سے دہراتے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تسلی دیتا ہے کہ:

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ (طہ: 115)

ترجمہ: پس اللہ سچا بادشاہ بہت رفیع الشان ہے۔ پس قرآن (کے پڑھنے) میں جلدی نہ کیا کر پیشتر اس کے کہ اُس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب! مجھے علم میں بڑھا دے۔

اسی طرح فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي
أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ الْآيَةَ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝ (الحج: 53)

ترجمہ: اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی مگر جب بھی اُس نے (کوئی) تمنا کی (نفس کے) شیطان نے اس کی تمنا میں (بطور ملاوٹ کچھ) ڈال دیا۔ تب اللہ اُسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے۔ پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے اور اللہ دائمی علم رکھنے والا (اور) بہت حکمت والا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم یاد رکھوانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی اور دوسری جانب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ظاہری لحاظ سے بھی تمام تر احتیاط برتتے تھے پھر قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے: ”سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“ (الاعلیٰ: 7، 8) یعنی ہم تجھے پڑھائیں گے، پس تو نہیں بھولے گا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ضرور ایسا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بھول گئے ہوں گے۔

اگر بغیر غور دیکھا جائے تو یہ تو حفاظت قرآن کا ایک اور واضح اور انتہائی تسلی بخش اعلان ہے نہ کہ جائے اعتراض۔ ذرا غور کریں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ”ہم تجھے پڑھائیں گے پس تو نہیں بھولے گا مگر جو اللہ چاہے“ اور دوسری جگہ بتا دیا کہ اللہ قرآن کریم کی حفاظت چاہتا ہے۔ پس اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ سے یہ مراد ہے اگر اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے کچھ بھولا تو اس وجہ سے قرآن کریم میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ حفاظت قرآن کا بیڑا اٹھانے والا تیرا خدا تجھے یاد کروائے گا۔ جہاں تک تیری بشریت کا تعلق ہے تو حفاظت قرآن کے معاملہ میں تو الوہیت کی چادر میں لپٹا ہوا ہے اور اس معاملہ میں تیری بشریت کبھی آڑے نہیں آئے گی۔ تیری بشریت خدا تعالیٰ کے علم میں ہے اس لیے وہ خود اپنے کلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حفاظت کے تمام تر تقاضے پورے کرنا اور آئندہ زمانوں میں بھی حفاظت کرنا ایک انسان کے بس کا کام نہیں۔ پس جہاں تک تیری بشری کمزوری کا سوال ہے تو وہ شدید القوی خدا سے اپنے کلام کی حفاظت کی راہ میں حائل نہیں ہونے دے گا اور تجھے ایسے قوی عطا فرمائے گا کہ تو اس الہی امانت کا بوجھ اٹھا سکے اور آئندہ زمانوں میں مومنین کو بھی توفیق دیتا چلا جائے گا اور اُن کا نگران بھی خود ہی ہوگا۔ چنانچہ فرمایا:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ (يونس: 62)

اور تو کبھی کسی خاص کیفیت میں نہیں ہوتا اور اس کیفیت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اسی طرح تم (اے مومنو!) کوئی (اچھا) عمل نہیں کرتے مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مستغرق ہوتے ہو۔

گزشتہ صفحات میں ہم یہی حقیقت تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھتے آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حفاظت کے اس وعدہ کو کس شان سے پورا کیا اور اپنے شدید القویٰ ہونے کا کیسا عظیم الشان ثبوت دیا۔

پس یہ شبہ **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** کے عربی محاورہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** اور **إِلَّا قَلِيلٌ** دو محاورے ہیں جن کا مطلب یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے یا یہ کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اب جب خدا تعالیٰ نے ایک معاملہ براہ راست اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو لازماً اس محاورہ کا یہی مطلب اخذ کیا جائے گا کہ اس میں ادنیٰ سی کوتاہی بھی محال ہے۔ یہ مطلب کیوں کر لیا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کا جمع اور محفوظ کرنا اور اسے تیری یادداشت سے محو نہ ہونے دینا یہ خدا کا کام ہے اور خدا تعالیٰ یہ ذمہ داری نبھائے گا ہاں اگر کوئی کوتاہی ہوگئی تو کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ یہ تو ایک غیر منطقی نتیجہ ہے کیونکہ حفاظت قرآن کا معاملہ خدا تعالیٰ کے زیر نگرانی انجام پایا ہے اور خدا کی طرف سے کسی غلطی یا کوتاہی یا کمزوری سرزد ہونا۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوتاہی سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری کمزوری لی جائے تو پھر بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ وحی الہی میں سے کچھ نہیں بھولیں گے کیونکہ خدا کا ارادہ وحی کو محفوظ کرنے کا ہے اور کوئی ادنیٰ بشری کمزوری خدا کے راستے میں روک نہیں بن سکتی۔ پس یا تو آپ کلام الہی میں سے کچھ بھی نہیں بھولیں گے۔ یا اگر آپ بتقاضائے بشریت کبھی کچھ بھولیں گے تو آپ کی بھول خدا کے ارادہ حفاظت کی راہ میں روک نہیں بن سکے گی۔ پس وہ ضرور آپ کو یاد کروادے گا۔ پس اس کے معنی یہ ہونگے کہ قرآن کریم کا جمع اور محفوظ کرنا اور اسے تیری یادداشت سے محو نہ ہونے دینا یہ خدا کا کام ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ممکن نہیں۔ چنانچہ مفسرین نے کثرت سے یہ معنی بیان کیے ہیں۔ مشہور اور اہم شیعہ تفسیر 'بحار الانوار' میں لکھا ہے:

”اما قوله **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ**“ ففيه احتمالان - احدهما ان يقال هذه الاستثناء

غير حاصل في الحقيقة و أنه لم ينس بعد نزول

(علامہ مجلسی: بحار الانوار جزء ۱۷ صفحہ ۹۷ باب ۱۶ سہوہ و نومہ عن

الصلوة ایڈیشن ۴ مکتبہ مؤسسة الوفاء بیروت لبنان ۱۴۰۴ ہ بمطابق 1983)

یعنی جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس قول **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** کا تعلق ہے تو اس میں دو احتمال

پائے جاسکتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ درحقیقت استثناء غیر حاصل ہے۔ یعنی ایسا استثناء

کیا گیا ہے جو کبھی حقیقت میں ہوا ہی نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے

بعد کبھی متن قرآن میں سے کچھ نہیں بھولے اور تاریخ کی گواہی بھی اسی کے حق میں ہے۔

ایک دوسری جگہ علامہ مجلسی علامہ بیضاوی کا موقف بھی اپنے موقف کی تائید میں بیان کرتے ہیں:

وقيل المراد به القلة أو نفى النسيان رأساً

(علامہ مجلسی: بحار الانوار جزء ۱۸ صفحہ ۱۷۴ باب ۱: المبعث و اظهار الدعوه
و مالقی ... ایڈیشن ۴ مکتبہ مؤسسۃ الوفاء بیروت لبنان ۱۴۰۴ ہ بمطابق 1983)

یعنی اس سے مراد قلت یا بھولنے کے بارہ میں ہر قسم کی نفی ہے۔

صاحب کشف علامہ زختر می نے اس آیت کی تفسیر میں یہی مضمون بیان فرماتے ہیں۔ حضرت امام رازی آیت سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

یہ تو ایک بشارت الہی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ خدا تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ اے محمد! میں تجھے ایسے حال میں رکھوں گا کہ تو اس قرآن کو بھول ہی نہ سکے گا۔

(تفسیر کبیر لامام رازی الجزء 31 تفسیر سورة الاعلیٰ: 7,8)

پس سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (الاعلیٰ: 7,8) سے مراد ہے کہ اللہ تجھے پڑھائے گا اور اس کے نتیجے میں تو ہرگز نہیں بھولے گا اور یہ خیال کہ بشری کمزوری کی وجہ سے انسان بھول سکتا ہے، بجا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ جب کوئی کام خدا تعالیٰ کے زیر نگرانی اور اس کے ارادہ کے مطابق ہو رہا ہو تو پھر وہ بشری کمزوریوں کو اپنے ارادہ کے پورا کرنے کی راہ میں روک نہیں بنے دیتا۔

اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ قراءتیں جو قرآن کریم کی اشاعت اور معارف و معانی کے سمجھنے کے لیے وقتی طور پر ضروری ہیں وہ ضرورت پورا کرنے کے بعد بھلا دی جائیں گی۔ (حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب) اس میں بھلا اعتراض کی گنجائش کہاں سے آگئی؟ متن تو وہی رہے گا جو ہے اور جس کی محافظت قیامت تک کے لیے ایک فیصلہ کن امر ہے۔

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ”ہاں یہ ایسے ہوگا جیسے کہ اللہ چاہتا ہے۔“ اور یہ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت چاہتا ہے اور یہ کام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ - (الحجر: 10)

یعنی یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ وعدہ بھی قرآن کریم میں ہی درج ہے کہ:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (القیامۃ: 18)

یعنی اس کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کے مطابق دنیاوی لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت قرآن

کے لیے تمام ضروری سامان پورے کمال کے ساتھ مہیا کر دیے تھے اور صحابہ کی ایک ایسی جماعت عطا فرمائی تھی جنہوں نے حفاظت قرآن اور اشاعت قرآن اپنی زندگیوں کا مقصد بنا رکھا تھا۔ جو قرآن کریم کی حفاظت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے اپنی جناب سے بھی براہ راست حفاظت قرآن کی غرض سے حیرت انگیز سامان فرمائے جو کہ انسانی طاقت اور قوت سے باہر تھے۔ مثلاً ہر رمضان میں جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کی دہرائی اور آخری رمضان میں دو مرتبہ دہرائی (بخاری کتاب فضائل القرآن باب کان جبریل يعرض القرآن على النبي ﷺ) حفظ قرآن کا بے نظیر نظام اور ابتداء سے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کریم کا والہانہ عشق اور محبت اور پھر حفاظت کا ایک یہ انتظام فرمایا کہ قرآن کریم کی زبان کو زندہ رکھا اور سنسکرت، عبرانی وغیرہ کی طرح مردہ نہیں ہونے دیا۔

آنحضور ﷺ کی سعی مبارک

ایک طرف تو خدا تعالیٰ کی عدیم المثال حفاظت کے حصار میں قرآن کریم کی جمع کا کام ہو رہا تھا اور پھر ظاہری طور پر اس شان کے قوی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب الہی سے عطا کیے گئے تھے۔ پھر نزول کی غیر معمولی طور پر انتہائی کم رفتار، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کے دیگر غیر معمولی ذرائع اختیار کرنے کے باوجود آپ اپنی ذات میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کس قدر کوشاں رہتے تھے اس کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ (طہ: 115)

ترجمہ: پس اللہ! مالکِ حقیقی بہت رفیع الشان ہے۔ پس قرآن (کے پڑھنے) میں جلدی نہ کیا کر پیشتر اس کے کہ اُس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب! مجھے علم میں بڑھا دے۔

چنانچہ روایات اور تاریخ میں اس بات کا کثرت سے ذکر ملتا ہے کہ جب آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ اسے یاد کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ وحی الہی کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا حکم نازل فرمایا۔

پھر رسول کریم خود بھی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی قرآن کریم سکھاتے تھے۔ چنانچہ اس بارہ میں بھی قرآن کریم کی اندرونی گواہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - (الجمعة: 3)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اُمی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔

روایات میں بھی اس کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ تلاوت قرآن اور تعلیم القرآن کے عناوین کے تحت کافی تاریخی شواہد درج کیے جا چکے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ ذیل میں آپ کی تلاوت کے بارہ میں کچھ روایات درج کی جاتی ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَذَنَ اللَّهُ لَشَيْءٍ مَا أَذَنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ -
(سنن ابی داود کتاب الوتر باب استحباب الترتیل فی القراءة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی چیز کو ایسی توجہ سے نہیں سنتا جس طرح قرآن کریم کو سنتا ہے جب کوئی پیغمبر اس کو خوش الحانی سے بلند آواز سے پڑھے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيُخْفِضُ طَوْرًا -
(سنن ابی داود کتاب التطوع باب فی رفع الصوت بالقراءة فی صلاة اللیل)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔

عَنِ الْعَرَبِاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْمَسْبُوحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ يَقُولُ: إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ
(الترمذی و ابو داود بحوالہ مشکاة المصابیح کتاب فضائل القرآن)

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سونے سے قبل ”سُورَةُ الْمَسْبُوحَاتِ“ (سورة بنی اسرائیل، سورة حدید، سورة حشر، سورة صف، سورة جمعة، سورة تغابن اور سورة اعلیٰ) کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو (اپنے مضامین کے اعتبار سے) ہزار آیات سے بڑھ کر ہے۔

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى

يَقْرَأُ آلَمَ تَنْزِيلٍ وَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔

(احمد و الترمذی و الدارمی بحوالہ مشکاة المصابیح کتاب فضائل القرآن)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سورۃ سجدہ اور

سورۃ ملک کی تلاوت کرنے سے پہلے نہ سوتے تھے۔

اور بھی بہت کثرت ایسی روایات ملتی ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ناصر یہ کہ خود کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے بلکہ صحابہؓ سے بھی سنتے رہتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ رسول کریمؐ خود قرآن کریم کی درس و تدریس میں مشغول رہا کرتے تھے۔ پھر یہ ذکر بھی گزر چکا ہے کہ تمام صحابہؓ اپنا حفظ اور اپنی تحریر آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے اسے مستند بنایا کرتے تھے۔ پس جس شخص کا دن رات کا کام تلاوت و تعلیم قرآن ہو وہ کس طرح بھول سکتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ایک واقعہ کو کس طرح جھٹلایا جاسکتا ہے؟ جب واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کو یاد رہا اور

شب و روز نمازوں میں سُننا دیا جاتا رہا تو اس کا انکار کس طرح کیا جاسکتا ہے... محمدؐ پر تو قرآن

اُترا تھا اور آپ کے سپرد ساری دُنیا کی اصلاح کا کام کیا گیا تھا۔ آپ اسے کیوں نہ یاد

رکھتے؟... اور لاکھوں انسان موجود ہیں جنہیں سارے کا سارا قرآن یاد ہے۔ جب اتنے لوگ

اسے یاد کر سکتے تھے تو کیا وہی نہیں کر سکتا تھا جس پر قرآن نازل ہوتا تھا؟“

(فضائل القرآن؛ انوار العلوم جلد 10 صفحہ 513)

صحابہ کی گواہی

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اور جانثاری اور قرآن کریم سے ان کی محبت اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اسے حرف بحرف کلام الہی سمجھتے تھے اور اتنے لمبے ساتھ اور زندگی کے ہزاروں چھوٹے بڑے مواقع پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس بارہ میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی آیت بھول گئے اور آپ کو یاد دلانی پڑی۔ ایک اور امر جس سے علم ہوتا ہے کہ صحابہ آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو سب سے مستند اور معتبر محافظ قرآن یقین کرتے تھے یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارہ میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی، جس سے اختلاف رائے پیدا ہوتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ کی رائے کو حتمی سمجھتے۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ادنیٰ سے اختلاف پر صحابہؓ نے کتاب اللہ کی غیرت اور محبت

اور عشق میں انتہائی حساس طرز عمل دکھایا۔ یہاں تک کہ دیکھنے والے کو یقین ہو گیا کہ کلام الہی کے معاملہ میں ایک دوسرے کی کوئی پروا نہیں کریں گے۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو یکا یک ایسا محسوس ہوا کہ گویا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ صحابہ کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ ان کو پورا یقین تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑے، مستند اور معتبر محافظ قرآن ہیں اور آج بھی امت مسلمہ کا یہی طرز عمل ہے کہ کسی بھی اختلاف کی صورت میں قرآن کریم کے بعد آپ کے قول کو ہی تمام دوسرے اقوال پر حجت سمجھا جاتا ہے۔ بھولنا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آیت مکمل طور پر بھول گئے ہوں اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ پہلے ایک آیت ایک بار پڑھی اور جب دوبارہ پڑھی تو الفاظ بھول گئے اور کچھ اور پڑھ لیے۔ مگر تاریخ کے صفحات ایسے واقعہ کی نشاندہی نہیں کرتے کہ صحابہ کرام نے کبھی کوئی ایسی آیت پیش کی کہ یہ آیت پہلے پڑھی جاتی تھی مگر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ اب اسے بھول گئے ہیں۔ بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ جو روایت ملتی کہ کسی شخص کے تلاوت کرنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے یہ آیت یاد دلا دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلاں آیت حافظہ سے اُتری ہوئی تھی۔ صرف یہ مراد ہے کہ جیسے عام روزمرہ کی بول چال میں کہا جاتا ہے ”تمہاری اس بات سے مجھے فلاں بات یاد آگئی۔“ اس سے کہنے والے کی ہرگز مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ اب تک بھولا ہوا تھا۔ مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ جو بات تم کر رہے ہو اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ ”ہسپتال سے یاد آیا کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں۔ دعا کرنا۔“ اب اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ کسی کو اپنے والد صاحب ہی بھول گئے تھے یا والد صاحب کی بیماری۔ مراد صرف اتنی ہے کہ ہسپتال کا ذکر ہونے پر اسے اپنے والد صاحب کی موجودہ حالت کا خیال آ گیا۔

مخالفین کی گواہی

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ پر نازل ہونے والے کلام سے آشنا تھے۔ تبھی تو مخالفت کا بازار گرم تھا۔ اگر آپ کبھی بھولے ہوتے تو کوئی نہ کوئی ہم عصر مخالف ضرور کوئی مثال پیش کرتا کہ دیکھو پہلے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ الہام پیش کیا تھا اور اب بھول گئے ہیں یا پہلے یہ آیت اس طرح تھی اب بھول کر بدل دی گئی ہے۔ پس اگر ایسی بات ہوتی تو ان کے لیے موجب تسلی ہوتی کہ ہمیں اتنا سر ٹکرانے کی ضرورت نہیں یہ سلسلہ خود بخود ہی اپنے منبع سے دور ہوتے ہوتے اپنی اصلیت کھودے گا۔ لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔

پس جب آپ تیس سال نہیں بھولے اور تیس سال کے بعد بھی آیات کو ویسے ہی پیش کرتے تھے جیسا کہ پہلے دن پیش کی تھیں اور آپ کی قوم۔ مخالف اور موافق۔ گواہ ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ غیر معمولی حافظہ کے حامل اور الوہیت کی چادر میں لپٹے ہوئے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول کے

وقت کے معاً بعد اس الہی امانت کو بنی نوع کے سپرد کرنے کے وقت تک جو کہ انتہائی مختصر ہوتا تھا کوئی آیت بھول جاتے؟ یہ وقت تو بعض اوقات اتنا مختصر ہوتا کہ چند لمحات کا وقفہ ہوتا۔ محفل میں آیت نازل ہوئی اور اسی وقت آپ نے اس الہی امانت کو ایک قوم کے سپرد کر دیا۔ ایک ایسی قوم کے سپرد کیا جس کے غیر معمولی حافظہ کے بارہ میں کسی مؤرخ کو کلام نہیں۔ گزشتہ میں یہ ذکر بھی گزر چکا ہے کہ یہ بات ہم عصر مخالفین نے بھی نوٹ کی کہ قرآن کریم فوری طور پر تحریری شکل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر بھی کیا۔ قرآن کریم مخالفین کے اس اقرار کا ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے۔

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الفرقان: 6)

ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے لکھوا لیے ہیں اور دن

رات اس کے سامنے ان کی املا کروائی جاتی ہے۔

واضح طور پر ذکر ہے کہ مخالفین کو علم تھا کہ دن رات قرآنی وحی کی تحریر کا کام ہوا کرتا تھا اور یہ بھی علم ہوا کہ خواہ کسی بھی وقت وحی الہی نازل ہوتی تھی، رات یا دن، فوری طور پر ضبط تحریر میں لائی جاتی تھی۔ رات ہوتی تو دن کا انتظار نہ کیا جاتا اور دن ہوتا تو رات کا انتظار نہ کیا جاتا۔ پس اس مختصر سے عرصہ میں کیسے غلطی ہو سکتی تھی؟ نیز یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نزول کے وقت سے لے کر محفوظ کرنے کے وقت کے درمیان جو انتہائی کم عرصہ ہوتا تھا اس معمولی عرصہ میں بھی اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ دار وہی خدا تھا جس نے بعد کے زمانوں میں اس کی حفاظت کی۔ پس اگر بعد میں کوئی تبدیلی ثابت نہیں اور تمام ثبوت اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو پھر اس مختصر وقت میں وہ خدا کیوں حفاظت نہ کرتا جو پندرہ سو سال سے حفاظت کرتا چلا آ رہا ہے؟ پھر ابن وراق کہتا ہے کہ:

”ہو سکتا ہے کہ صحابہ قرآن کا کوئی حصہ بھول گئے ہوں“

اس سوال کا بھی اتنا جواب ہی کافی ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو ثبوت لاؤ۔ بلا ثبوت، محض اندازے کون تسلیم کرے گا۔ تمہارا شک غلط اور بے بنیاد ہے اور محض ایک حسرت ہے جو اندھے تعصب اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکا۔ قرآن کریم غیر ذمہ دار کھنڈرے بچوں کے ہاتھ میں تو نہیں تھمایا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو۔ ہو سکتا ہے وہ ہو گیا ہو۔ کلام الہی تو انتہائی ذمہ داری اور محبت کے ساتھ حفاظت کے تمام ممکنہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس طرح محفوظ کیا جا رہا تھا کہ کسی قسم کی بھول چوک اور ایسی غلطی محال تھی جو اوروں کی نظروں میں آنے سے رہ جاتی۔ پہلے کتابت ہوتی پھر حفظ کیا جاتا۔ پس اگر اس امر محال کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سینکڑوں صحابہ بیکار کوئی آیت بھول گئے تو اس سے تو شور پڑ جانا چاہیے تھا۔ پھر اگر ایسا ہوا ہوتا تو کیا تحریرات

وجی سے وہ آیت دوبارہ حفظ نہیں کی جاسکتی تھی؟

اس اعتراض کا مفصل جواب تو گذشتہ صفحات میں درج جمع و تدوین قرآن کی تاریخ ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ دنیوی مال و متاع جو انسان بہت محنت اور مشقت سے کماتا ہے اسے تو خاص حالات میں اپنی جان بچانے کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ یا بڑے چاؤ سے تعمیر کرایا ہو، کوئی محل تو ممکن ہے کہ اپنی یا اپنے کسی پیارے کی جان کو مشکل سے نکالنے کے لیے قربان کر دے۔ بہت آسانی سے جان کا صدقہ کہہ کر لوگ عمر بھر کی کمائی سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں لیکن اگر کسی چیز سے عشق کی حد تک محبت ہو جائے تو پھر اسے بڑی سے بڑی قیمت کے عوض بھی کھونا گوارا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو انسان آسانی سے اس آزمائش سے گزر جاتا ہے اور صحابہ کی ساری تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بارہا انہیں موت کی آزمائش سے گزارا گیا مگر ہمیشہ وہ کامیاب کامران ہوئے اور ہمیشہ انہوں نے جان کی قیمت دے کر اس الہی امانت کی حفاظت کی۔ حضرت عمرؓ کے قبول اسلام کا واقعہ گزر چکا ہے۔ ان کی بہن جنہیں اپنے ایمان کی خاطر تشدد سے کچھ ہی دیر ہوئی تھی اور ابھی زخموں سے خون جاری تھا، یہ کہہ کر اپنے بھائی حضرت عمر کو قرآن کریم کا مسودہ دینے سے انکار کر دیتی ہیں کہ تم اسے چھو نہیں سکتے کیوں کہ تم ناپاک ہو۔ ذرا غور کیجیے کہ جس قوم کو قرآن کریم سے اس درجہ والہانہ عشق ہو کہ اُس کی صفِ نازک بھی اپنے لہو لہو وجود کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا لیتی اور جس کو ناپاک سمجھتی اسے چھونے بھی نہیں دیتی، آنچ آنے دینا تو دُور کی بات۔ کیا وہ قوم اتنی لاپرواہی کا ثبوت دے سکتی ہے جسکا دھڑکا ابن وراق کو لگا ہوا ہے؟ پس ایک طرف عشق اور محبت، ساتھ ساتھ انتہائی اعلیٰ اخلاقی اقدار، اور دوسری طرف احتیاط کے تمام دُنیاوی تقاضے پورے کرنے کے بعد بھی اور اتنی واضح شہادتوں کے باوجود اگر تحریف ممکن ہے تو پھر دنیا کی کون سی چیز ہے جو اصل سمجھی جائے گی؟ کون سا ثبوت ہے جس کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اتنی واضح شہادتیں موجود ہیں کہ رسول کریم حفاظت قرآن کا ایسا انتظام فرماتے تھے کہ بشری بھول چوک سے قرآن کریم کا کوئی حصہ ضائع ہونا ناممکن ہے۔ ایک یاد و حافظہ نہیں تھے کہ بھول گئے اور کسی کو علم ہی نہ ہو اور کاتبین میں سے کسی نے بھی وہ آیت نہ لکھی ہو۔ کثرت سے صحابہ نزول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم حفظ کرتے جا رہے تھے۔ اور اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے رہتے تھے اور ان کی تعداد سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک پہنچ رہی تھی۔ پس قرآن کریم کی حفاظت تحریری اور حفظ دونوں طریق سے ہو رہی تھی۔ اور دونوں طریق بھی اپنی اپنی جگہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس صورت میں کیسے ممکن ہے کہ کسی وقت کوئی غلطی اتفاق سے متن میں راہ پا جائے اور وہی آیت اتفاق سے سب حفاظ کو بھی بھول جائے۔ کوئی ایک کرتا تو دوسرا اسے یاد دلا دیتا اور یہ روایات بھی گزر چکی ہیں کہ ذرا ذرا سا اختلاف اگر ہو جاتا تو فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں بات لائی جاتی۔ اتنی واضح اور قطعی شہادت ہے کہ انتہائی درجہ غمی انسان ہی اس سے منہ پھیر سکتا ہے۔ یا پھر وہ جو مدجل اور مکر میں حد سے گزر گیا ہو۔ آخر کس

طرح ممکن ہے کہ تحریر میں کوئی آیت رہ گئی ہو یا غلط لکھی گئی ہو اور رسول کریم کو علم نہ ہو؟ پھر سب حفاظ بھی اس آیت کو بھول جائیں یا جو غلطی تحریر میں ہوئی ہے وہی غلطی یک بیک اور بالاتفاق سیکڑوں ہزاروں حفاظ کی یادداشت میں بھی ہو گئی ہو؟ پھر رسول کریم کی یادداشت میں بھی وہی غلطی راہ پا گئی ہو جو حفاظ سے تلاوت سنتے رہتے تھے پھر بھی آپ کو علم بھی نہ ہو اور پھر جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کے سالانہ دور میں بھی وہ غلطی درست نہ کی جائے؟ گویا خدا تعالیٰ کی نظر سے بھی رہ گئی۔ کیا ان تمام تاریخی ثبوتوں کی موجودگی میں یہ ماننا آسان ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہے یا وہم کو بنیاد بنا کر یہ وسوسہ پالنا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ ذرا ان تاریخی حقائق کو ذہن میں دہرائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر انتہائی معمولی رفتار سے قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی نگرانی میں تحریر ہوتا جا رہا ہے اور آپ ہی کی نگرانی میں ساتھ کے ساتھ حفظ بھی ہو رہا ہے۔ نمازوں اور محافل میں اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ دن رات درس و تدریس بھی جاری ہے اور ایسے صحابہ موجود ہیں جو گویا قرآن کریم حفظ کرنے اور اس کی تعلیم و تدریس کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ہیں اور صحابہ بھی ایسے جو قرآن کریم کی حفاظت کے معاملہ میں اس درجہ غیرت مند ہیں کہ قرآن کریم کے بارہ میں کوئی ادنیٰ سی لغزش بھی برداشت نہیں کرتے یا لغزش نہ بھی ہو مگر ان کے علم کے مطابق شک و شبہ والی بات ہو تو فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جبریل کے ساتھ ہر سال رمضان میں دہرائی کرتے ہیں۔ ان حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے غور کیجیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ادھر حافظ بھولے ادھر وہی غلطی تحریر کرنے والوں سے بھی ہو گئی اور پھر رسول کریم کی نظر سے بھی یہ بات اوجھل رہی، جبرائیل بھی بھول گئے اور پھر جب حضرت ابو بکر کے زمانہ میں جمع قرآن پر امت کو گواہ بنایا گیا تب بھی ساری امت اُس غلطی پر متفق ہو گئی؟ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصالح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

”حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ..... قرآن کو ایک ہی جلد میں جمع کر دینا چاہیے..... جو کتاب گوا یک جلد میں اکٹھی نہیں کی گئی تھی لیکن بیسیوں صحابہ اسے لکھا کرتے تھے اور لکڑوں کی صورت میں وہ لکھی ہوئی ساری کی ساری موجود تھی۔ اسے ایک جلد میں جمع کرنے میں کسی کو وقت محسوس ہو سکتی تھی؟ اور پھر کیا ایسے شخص کو دقت ہو سکتی تھی جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کی کتابت پر مقرر تھا اور اس کا حافظ تھا؟ اور جب کہ قرآن روزانہ پڑھا جاتا تھا، کیا یہ ہو سکتا تھا کہ اس جلد میں کوئی غلطی ہو جاتی اور باقی حافظ اس کو پکڑ نہ لیتے؟“

(دیباچہ تفسیر القرآن صفحہ 274-275)

پھر حفاظت کے ظاہری تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت اور اس کی حفاظت

جو سب سے یقینی حفاظت ہے اس کلام کے شامل حال رہی۔ بلکہ قرآن کریم کی حفاظت کے تمام تراقدامات خود خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی تھے اور ہیں۔ اُس زمانہ کے حالات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت روشن تر ہو جاتی ہے کہ حفاظت قرآن کے یہ اسباب میسر آ جانا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس جاٹاری کے ساتھ حفاظت قرآن پر کمر بستہ ہو جانا بھی بذات خود الہی تائید کے لطیف اظہار ہیں۔ آخر کیوں یہ سب اسباب صرف حفاظت قرآن کے لیے ہی اکٹھے ہوئے اور کیوں ایک قوم اس کتاب کی محبت میں عشق کی حد تک پہنچ گئی۔ کیا رسول کریم پوری قوم اس طرح عاشق قرآن بنا سکتے تھے کہ وہ عشق پندرہ سو سال کے لمبے عرصہ پر محیط ہو جاتا اور ایک کے بعد دوسری نسل اسی عشق میں سرشار نکلتی؟ آپ تو شاندا اپنے ہم عصر لوگوں میں بھی یہ جذبہ اس شان کے ساتھ پیدا نہ کر سکتے جو کہ صدیوں سے امت محمدیہ کی زینت بنا چلا آ رہا ہے۔

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے عشاق عطا کئے جو اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرتے اور رات دن خود پڑھتے اور دوسروں کو سناتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کسی نہ کسی حصے کا نمازوں میں پڑھنا فرض مقرر کر دیا اور شرط لگا دی کہ کتاب میں سے دیکھ کر نہیں بلکہ یاد سے پڑھا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سو جھگٹی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہی بات زرتشت، موسیٰ اور وید والوں کو کیوں نہ سو جھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سو جھانے والا کوئی اور ہے.... یہ بھی یاد رہے کہ ایسے آدمیوں کا میسر آنا جو اسے حفظ کرتے اور نمازوں میں پڑھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں نہ تھا۔ ان کا مہیا کرنا آپ کے اختیار سے باہر تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ کہ ایسے لوگ ہم پیدا کرتے رہیں گے جو اسے حفظ کریں گے۔ آج اس اعلان پر تیرہ سو سال ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کے کروڑوں حافظ گذر چکے ہیں۔ بعض یورپین ناواقفیت کی وجہ سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ اتنا بڑا قرآن کس کو یاد رہتا ہوگا؟ مگر قادیان ہی میں کئی حافظ مل سکتے ہیں جنہیں اچھی طرح سے قرآن یاد ہے۔ چنانچہ میرے بڑے لڑکے ناصر احمد سلمہ اللہ تعالیٰ نے بھی گیارہ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔

(حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد: تفسیر کبیر جلد ۴ زیر تفسیر آیت الحج: 10)

پس ابن وراق ایسی معصومیت سے بات کر جاتا ہے کہ گویا کچھ علم ہے ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ نے کس شان سے حفاظت قرآن کا انتظام کیا تھا۔ اس ضمن میں یہاں مزید ایک اور حیرت انگیز ثبوت پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حفاظت قرآن کے ہی ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی تعمیل میں آپ کے اقوال اور

احادیث عام طور پر تحریر نہ کی جاتی تھیں اور نہ ہی ان کے حفظ کا باقاعدہ انتظام تھا۔ صحابہ عشق رسولؐ میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اقوال اور احادیث آپس میں سنتے سنتے۔ اس طرح آپ کے اقوال سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتے رہتے۔ قرآن کریم کے بارہ میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ نزول کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں محفوظ کیا جاتا اور اس کے حفظ کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا جس کے نگران اعلیٰ خدا تعالیٰ کے بعد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تھے اور پھر صحابہ کا کلام الہی سے عشق اور محبت اور اسکی غیرت بہت بڑے نگران تھے۔ ان حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس واقعہ پر نظر ڈالیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے شاہ مصر مقوقس کے نام ایک تبلیغی خط لکھا تھا۔ اُس خط کے الفاظ مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سُن کر یاد رکھے تھے جو کہ بعد میں تاریخ میں محفوظ کر لیے گئے۔ اب قریباً ایک سو سال قبل یہ خط اپنی اصل صورت میں دریافت ہو چکا ہے۔ یہ 1858ء میں بعض فرانسیسی سیاحوں کو مصر کی ایک خانقاہ سے ملا اور اس وقت قسطنطنیہ میں موجود ہے اور اس کا فوٹو بھی شائع ہو چکا ہے (ریویو آف ریپبلیکنز قادیان اگست 1906ء صفحہ 364) اس خط کا دریافت کرنے والا مسیو اتین برٹلمی تھا اور غالباً سب سے پہلے اس کا فوٹو مصر کے مشہور جریدہ الہلال نومبر 1904ء میں شائع ہوا تھا اور پھر پروفیسر مارگو لیتھ نے بھی اپنی کتاب محمدؐ اینڈ دی رائز آف اسلام میں اسے شائع کیا۔ اسی طرح وہ مصر کی ایک جدید تصنیف تاریخ الاسلام السیاسی مصنفہ الکتور حسن بن ابراہیم استاذ التاريخ الاسلامی جامعہ مصریہ میں بھی چھپ چکا ہے اور بہت سے غیر مسلم محققین نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ وہی اصل خط ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مقوقس شاہ مصر کو لکھا تھا۔ (حضرت مرزا بشیر احمد صاحب: سیرۃ خاتم النبیین حصہ سوم صفحہ 822) حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دریافت شدہ اصل خط اور حافظہ کے دوش پر سو سال سے زائد عرصہ کا سفر طے کر کے کتب حدیث میں جگہ پانے والا خط حیرت انگیز طور پر لفظاً لفظاً ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔

قابل غور بات یہ ہے کہ ایک خط کا زبانی روایات کی صورت میں ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہونا اور سو دو سو سال کے بعد ان روایات کا تحریری شکل میں آنا اور پھر اس خط کا اصل حالت میں دریافت ہو جانا اور تاریخ میں حافظہ کے ذریعے محفوظ کیے ہوئے خط اور دریافت ہونے والے اصل خط کی تحریر میں الفاظ تک میں مطابقت ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ عربوں کا حافظہ کتنا مثالی اور غیر معمولی تھا اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کس درجہ امانت دار تھی وہ قوم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پیغام کو جو ان کے نام بھی نہیں تھا اس احتیاط سے حفظ کرتی تھی۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ اس پیغام کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نہیں بلکہ خدا کا ہو، اور پھر ہو بھی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، نیز سب سے پہلے مخاطب بھی صحابہؓ بنے ہوں اور پھر صحابہ اس کلام کی حفاظت کرنا اور اسے بحفاظت بنی نوع کو منتقل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی حفاظت کی تاکید

فرماتے ہوں، اور پھر بھی صحابہؓ اس پیغام کی حفاظت سے غافل ہو جائیں؟ پس اس شان کے حافظہ کے ساتھ اس اعلیٰ درجہ کی امانت داری کے خلق کے حامل لوگ قرآن کو ایسی حالت میں حفظ کر رہے ہیں کہ انتہائی درجہ احساس ذمہ داری بھی ہے اور دل میں والہانہ عشق بھی، اور پھر یہ پیغام تحریری صورت میں بھی موجود ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہؓ ہمہ وقت حفاظت اور نگرانی فرما رہے ہیں، تو دانستہ یا نادانستہ تبدیلی کس طرح ممکن ہے؟ پھر یہ بھی دیکھیے کہ روایات تو اس کثرت سے سنائی نہ جاتی تھیں جس کثرت سے قرآن کریم کی درس و تدریس اور تلاوت ہوتی تھی۔ پس قرآن کریم کا کوئی بھی حرف کسی بھی صورت میں بھول جاتا، یہ بات بالکل ناممکن تھی۔

پھر اس پہلو سے بھی دیکھیے کہ مقوقس کے خط کے راوی چند ایک ہیں اور وہ خط صحابہؓ نے اپنے پاس تحریری حالت میں بھی محفوظ نہیں کیا تھا اور سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا جب یہ خط کتب احادیث میں درج کیا گیا۔ پھر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو پھر قرآن کریم جو تحریری حالت میں موجود تھا اور تمام تر صحابہؓ جس کی صحت پر گواہ تھے اور بلا مبالغہ سینکڑوں حفاظ موجود تھے اس میں کیسے کوئی بھول ہو سکتی ہے۔

اسی طرح یہ کہنا بھی جہالت کی حد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کاتبین نے کوئی آیت غلط طور پر لکھ دی ہو۔ کتابت قرآن کے بیان میں تفصیل سے درج کیا جا چکا ہے کہ کتابت کا انتظام بھی ایسا وسیع اور اعلیٰ درجہ کا تھا کہ کسی ایسی بھول چوک کی گنجائش تھی ہی نہیں جو باقی صحابہؓ کی نظروں سے اوجھل رہ جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہ ہو۔ پھر ہزاروں صحابہؓ کا حفظ کتابت پر نگران تھا دو بارہ انہی دلائل کو دہرانا تکرار بے جا اور طوالت کا باعث ہوگا۔ اختلاف مذہب کے باوجود اس بے نظیر حفاظت کے بارہ میں محققین گواہیاں دیتے آئے ہیں۔ ولیم میور بار بار مختلف الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔ کہتا ہے:

"There is probably no other book in the world which has remained twelve centuries with so pure a text"
(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Vol.1, Introduction)

(قرآن کریم کے علاوہ) شاید دنیا کے پردے پر اور کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا متن بارہ سو سال گزرنے کے باوجود اپنی اصل حالت میں قائم ہو۔

پھر لکھتا ہے:

"There is otherwise every security internal and external that we possess the text which Muhammad himself gave forth and used."
(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Pg:561)

ترجمہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے۔ اندرونی شہادت کی

بھی اور بیرونی کی بھی کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے، وہی ہے جو خود محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور اسے استعمال کیا کرتے تھے۔

Dr. Maurice Bucaille لکھتے ہیں:

They had the advantage of being checked by people who already knew the text by heart, for they had learned it at the time of the Revelation itself and had subsequently recited it constantly. Since then, we know that the text has been scrupulously preserved, It does not give rise to any problems of authenticity.

(The bible The Qura'n and Science (translation from French by Alastair D. Pannel and The Ahthor) Under Heading Conclusions Pg 250-251)

(جن لوگوں کو حضرت ابوبکرؓ نے جمع قرآن کا حکم دیا تھا) انہیں یہ زائد فائدہ بھی حاصل تھا کہ وہ (متن) اُن لوگوں سے چیک کروالیا جاتا تھا جنہوں نے وحی کے نزول کے وقت ہی اسے حفظ کر لیا تھا اور بار بار اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ اس وقت سے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا متن بلاشبہ محفوظ ہے اور اس کے استناد پر کوئی سوال نہیں اٹھتا۔

اگر ادنیٰ سا بھی شک ہوتا تو نامی گرامی محققین قرآن کریم کے بارہ میں یہ گواہی کیوں دیتے کہ روئے زمین پر قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارہ میں یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ صدیوں کی اس دھوپ چھاؤں نے اس میں کسی قسم کوئی رد و بدل نہیں دیکھا۔

قرآن کریم کا محفوظ ہونا تو آج ایک حقیقت بن چکی۔ اب مخالفوں کے سر پٹنے سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آج اگر کوئی ان کے دھوکہ میں آ بھی گیا تو سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت پر اس سے کیا اثر پڑے گا۔ اس کے بعد ابن وراق کہتا ہے: ”پھر ہمارے پاس شیطانی آیات کا قصہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے خود بھی کچھ آیات خرد برد کی ہیں۔“ اس وسوسہ کا مفصل جواب قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جواب میں درج کریں گے۔ یہاں اتنا کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس بنیاد پر تم یہ نتیجہ نکال رہے ہو اس کا جھوٹ اور دجل تو گزشتہ سطور میں ظاہر ہو گیا۔ پس جب بنیاد ہی جھوٹی ہے تو نتیجہ کیسے درست مانا جاسکتا ہے۔ مضمون کی ترتیب قائم رکھنے کے لیے جمع و تدوین قرآن کے دوسرے دور کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔

عہدِ خلافتِ راشدہ میں جمع و تدوین قرآن

گزشتہ سطور میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی صرف انصار میں سے کم از کم پانچ صحابہ تحریری طور پر مکمل قرآن کریم جمع کر چکے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن کریم ایک جلد میں کتابی صورت میں سامنے نہیں آیا تھا۔ بخاری کی اس روایت سے بھی یہ حقیقت واضح ہوتی جس میں یہ ذکر ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں جمع قرآن کی تجویز پیش کی تو حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا:

کیف تفعل شیئاً لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)

یعنی جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟

اسی طرح حضرت زید بن ثابتؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب وحی بھی تھے اور آپ کو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں جمع قرآن کے سلسلہ میں بنیادی کردار ادا کرنے کی سعادت ملی تھی، جب حضرت ابوبکرؓ نے ایک جلد میں قرآن کریم جمع کرنے کا کام ان کے سپرد کیا تو اس موقع پر انہوں نے وہی الفاظ کہے جو حضرت ابوبکرؓ نے ارشاد فرمائے تھے کہ:

کیف تفعلون شیئاً لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)

یعنی جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟

پھر انشراح صدر کے بعد پھر فرمایا کہ:

”میں نے مختلف جگہوں اور چیزوں سے قرآن کی آیات جمع کیں جو کھجور کی ٹہنی کے ڈنٹھل

اور پتھر کی باریک سلوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔“

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)

اور فتح الباری میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی یہ روایت درج ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک مکمل قرآن مجید کسی ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا۔ (فتح الباری جلد 9 صفحہ 12 کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن) مگر صحابہ حضرت زیدؓ اور بہت سے دیگر صحابہؓ کے پاس قرآن کریم مکمل طور پر تحریری صورت میں موجود تھا تو ایسی روایات جن میں یہ ذکر ہے کہ ایک جگہ جمع نہیں تھا ان میں ”ایک جگہ جمع“ کرنے سے یہی مراد ہو سکتی ہے کہ

قرآن کریم ایک جلد میں جمع نہیں تھا۔ چنانچہ روایات کا مطالعہ بھی یہی ثابت کرتا ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ میں قرآن اس طرح ایک جلد میں نہ تھا جس طرح اب ہے۔ حضرت عمرؓ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن محفوظ نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس بارہ میں حضرت ابوبکرؓ سے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ اِنِّیْ اَرٰی اَنْ تَسْمُوَ جَمْعَ الْقُرْآنِ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی کتابت کرائیں۔ پھر حضرت ابوبکرؓ نے زید کو بلا کر کہا کہ قرآن جمع کرو۔ چنانچہ فرمایا اَجْمَعُهُ اسے ایک جگہ جمع کر دو یہ نہیں کہا اسے لکھ لو۔ غرض یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس وقت قرآن کے اوراق کو ایک جلد میں اکٹھا کرنے کا سوال تھا لکھنے کا سوال نہ تھا۔

(فضائل القرآن صفحہ 25، 26 حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ)

سوال یہ ہے کہ جب اتنی جانفشانی سے حفاظت قرآن کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اس کو تحریری شکل بھی دی جاتی تھی، اس کو ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا جاتا تھا، اس کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا، نمازوں میں اور مجالس میں تلاوت بھی کی جاتی تھی، دن رات صحابہ اس کی درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، تو پھر کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جلد میں اور کتابی شکل میں جمع نہیں کیا؟

اس ضمن میں پہلے مختصر طور پر عرض ہے کہ جب تک وحی الہی مکمل نہیں ہو جاتی عملاً ایسا کرنا ناممکن تھا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بقید حیات تھے تازہ بہ تازہ وحی کا نزول متوقع تھا اور اور ہمہ وقت انتظار کی سی کیفیت ہوتی تھی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نئی آیات نازل ہوں۔ پس جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جاتا کہ قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا ہے اس وقت تک آخری حتمی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں لکھا اور جمع کیا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ اور اس بات کا یقین صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہی ہوا کہ قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا ہے کیونکہ اس کا نزول صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہی خاص تھا۔

دوسری وجہ جس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو ایک کتاب کی شکل میں پیش نہ کیا، یہ تھی کہ قرآن کریم کی نزولی ترتیب اس کی دائمی ترتیب سے مختلف تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جس ترتیب میں آیات نازل ہو رہی تھیں اسی ترتیب میں قرآن کریم میں مندرج ہوتی جا رہی تھیں۔ بلکہ بعد میں نازل ہونے والی آیات پہلے نازل ہونے والی آیات سے پہلے بھی رکھی جاتی تھیں۔ یعنی بہت سی نئی نازل ہونے والی آیات ان آیات سے پہلے بھی رکھی جاتیں جو کہ بہت پہلے نازل ہو چکی ہوتیں۔ ہر آیت کے نزول پر جبریل علیہ السلام آنحضرتؐ کو اس کی جگہ بتاتے تھے کہ

اسے فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں رکھا جائے یا یہ آیت کسی نئی سورت کی ہے جس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پس ترتیب کے اس فرق کی وجہ سے بعد میں نازل ہونے والی وحی بطور ضمیمہ یا دوسری جلد کے طور پر پیش نہیں کی جاسکتی تھی اس لیے یہ ناممکن تھا کہ جتنا ایک وقت تک نازل ہو چکا ہو اسے مجلد کتابی صورت میں پیش کیا جاسکے۔

پس یہ محال تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم کو ایک مجلد کتاب کی شکل میں دُنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جمع قرآن اور تدوین قرآن کا فریضہ جہاں تک ممکن تھا مکمل طور پر سرانجام دیا جا چکا تھا اور جو ایک جلد میں جمع نہ کرنا تھا وہ بھی کسی کوتاہی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ایک ناممکن العمل فعل تھا اس لیے نہ کیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے یہ کام خلافت کی نگرانی میں صحابہؓ کے ہاتھوں کرایا اور خلافت تو آتی ہی نبی کی خُو پُر، نبی کے ہی کام کو جاری رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے ہے۔

اب جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ وحی نبوت منقطع ہو گئی ہے اور قرآن کریم کی مزید آیات نازل نہیں ہوگی کیونکہ ان کا نزول آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہی خاص تھا اس لیے اب بہت ہی مناسب بات تھی کہ قرآن کریم کو ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا کر لیا جائے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کریم کو ایک جلد کی شکل میں اکٹھا نہ کرنے کی حکمت کے بیان کے ضمن میں ہی ایک اور بات کی مختصر وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے جو بعض علماء بلا سوچے سمجھے پیش کرتے ہیں۔ مثلاً الاتقان وغیرہ نے الخطابی کا یہ قول نقل کیا ہے۔

خطابی کا کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے قرآن کو ایک ہی جلد میں اس لیے جمع نہیں کیا کہ آپ کو اس کی بعض آیات کے احکام یا ان کی تلاوت کے نسخ کے نزول کا انتظار تھا۔ مگر جب آپ کی وفات سے قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سچے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے جو اس نے اُمتِ محمدیہ کی حفاظت کے متعلق فرمایا تھا خلفاء راشدین کو الہام کیا کہ یہ کام کیا جائے۔ چنانچہ اس کام کا آغاز حضرت عمرؓ کے مشورہ سے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھوں ہوا۔

(الاتقان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 85)

مندرجہ بالا سطور میں الخطابی کا یہ کہنا کہ بعض آیات کے نسخ نزول کا انتظار تھا، عجیب بات ہے۔ نسخ کے عقیدہ پر بحث آئندہ سطور میں کی جائے گی یہاں یہ بحث اصل مضمون سے دُور لے جائے گی۔ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نتیجہ کہاں سے نکل آیا کہ نسخ کا انتظار تھا اس لیے مجلد کتاب کی شکل میں دینا ناممکن تھا؟ یہ خیال کیسے درست

مانا جاسکتا ہے کہ جو آیت بھی نازل ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی آیت کو منسوخ ہی کرتی تھی؟ اگر یہ کہا جائے کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم حین حیات تھے، کسی ممکنہ وحی کا انتظار رہتا تھا تو کیا یہ کہنے سے بات مکمل نہیں ہو جاتی؟ نسخ اور منسوخ کی یہاں کیا سوچھی۔ اپنی طرف سے حاشیوں پر حاشیے چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنا ہی کافی ہے کہ قرآنی وحی کا نزول آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی سے مشروط تھا۔ جب تک آنحضرت زندہ تھے یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ اب قرآن کریم کی مزید وحی نہیں آئے گی۔ یہ بحث کرنا فضول ہے کہ اس وحی کی شکل کیا ہوگی کیا نہ ہوگی؟ وہ نسخ ہوگی یا منسوخ ہوگی؟ پس بلا دلیل اور بلا ضرورت یہ کہہ دینا کہ نسخ کے نزول کا انتظار تھا، زائد اور فضول بات ہے۔ یہ کہنا کافی ہے کہ مزید وحی کا نزول متوقع تھا۔

علامہ زرکشی فرماتے ہیں:

”عہد رسالت میں قرآن کو ایک مصحف میں اس لیے نہ لکھا گیا تاکہ اس کو بار بار تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس لیے قرآن کی یکجا کتابت کو اس وقت تک ملتوی رکھا گیا جب تک کہ آنحضرت کی وفات کی وجہ سے نزول قرآن کی تکمیل کا یقین نہیں ہو گیا۔“
(البرہان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 262)

اس ضروری وضاحت کے بعد مضمون آگے بڑھاتے ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن کریم کی خوب اشاعت ہو چکی تھی اور کثیر تعداد میں نسخے موجود تھے۔ مسند خلافت پر متمکن ہونے کے ایک سال کے بعد حضرت عمرؓ کی تجویز پر آپؐ نے حضرت زید بن ثابتؓ انصاری کو حکم دیا کہ وہ تحریری اور زبانی ہر دو قسم کی گواہی کے ساتھ قرآن کریم کو ایک مرکزی مجلد کتاب کی شکل میں جمع کر دیں۔ چنانچہ احتیاط کے تمام تر تقاضے پورے کرتے ہوئے اور تمام امت مسلمہ کو گواہ بناتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کی سرکردگی میں اس کام کو بھی بخوبی سرانجام دیدیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمہ طور پر چار صحابہؓ کے پاس مکمل لکھا ہوا موجود تھا جو کہ براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تحریر کیا گیا تھا اور منتشر طور پر صحابہؓ کے پاس عام موجود تھا۔ ہزاروں حفاظ موجود تھے۔ دن رات درس و تدریس کے سلسلے جاری تھے۔ رمضان میں مکمل قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ نماز میں تلاوت، اجلاسات اور محافل میں تلاوت ہوتی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے زیر نگرانی مدون ہونے والے نسخہ قرآن کریم کی نقول کروا کے مختلف صوبوں میں پھیلا دیں اور پھر ان سے مزید نقول تیار ہوئیں۔

پس صحابہؓ کے دور میں جمع قرآن سے صرف یہ مراد ہے کہ قرآن کریم ایک کتابی شکل میں انتہائی احتیاط کے ساتھ اکٹھا کر لیا گیا اور اس کی تعلیم و تفہیم اور اشاعت کا اعلیٰ انتظام کیا گیا۔ جمع قرآن صرف صحابہؓ کے دور سے ہی

خاص نہیں بلکہ جمع قرآن کی وہ شکل جو تعلیم و اشاعت سے تعلق رکھتی ہے ہر دور میں امت مسلمہ کا فرض رہا ہے اور یہ فرض ہمیشہ امت مسلمہ نے پوری تن دہی اور ایمان داری سے سرانجام دیا ہے اور آج بھی دے رہی ہے۔ آج بھی قرآن کریم کی طباعت اسی احتیاط سے ہوتی ہے اور باقاعدہ حکومتوں سے منظور شدہ اہل علم قرآن کریم کی تحریر کا گہری نظر سے جائزہ لیتے ہیں اور وہی قرآن کریم کا نسخہ مستند سمجھا جاتا ہے جس پر یہ گواہی درج ہو کہ یہ نسخہ مصحف عثمانؓ کے عین مطابق ہے۔

صحابہؓ کے دور میں جمع قرآن سے مراد اور اس کا محرک

یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن کریم لکھا اور تحریری صورت میں جمع اور محفوظ کیا جا چکا تھا اور اس کی مسلمانوں میں خوب اشاعت ہو چکی تھی۔ ہزاروں حفاظ موجود تھے۔ بہت سے صحابہؓ کے پاس ذاتی تحریرات موجود تھیں جن میں قرآن کریم کی آیات درج تھیں۔ علامہ سیوطیؒ کا یہ بیان ہے کہ امام ابن حزمؒ نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول کے دور میں کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں لوگوں کے پاس بکثرت قرآن نہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں ارتداد پھیلنا شروع ہوا اور جھوٹے مدعیان نبوت بھی کھڑے ہو گئے۔ اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازشیں ہونے لگیں اور بہت ہی پر آشوب دور تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اسلام کے سامنے آکھڑا ہوا۔ اسی دوران مسیلمہ کذاب سے ایک خونریز معرکہ ہوا جس میں بہت کثرت سے حفاظ قرآن اور قرآء صحابہؓ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس خونریز معرکہ کی وجہ سے حضرت عمرؓ کے دل میں ایک زبردست تحریک پیدا ہوئی کہ قرآن کریم کو تمام تر شہادت کے ازالہ کے ساتھ ایک جگہ لکھ کر جمع کر لیا جائے ورنہ اگر اسی کثرت سے قرآء و حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کا ایک حصہ کثیر ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے روایت کیا ہے:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتُلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرْآنِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخَشَى أَنْ يَسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرْآنِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي

أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ
يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ
فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ
فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ
شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهَمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي
نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ
الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى
شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَّبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسْبِ وَاللَّخَافِ
وَصُدُورِ الرَّجَالِ

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)

عبید بن السباق سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے کہا کہ جنگ یمامہ کے شدید
خونریز معرکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ نے مجھے بلا بھیجا۔ جب میں پہنچا تو حضرت عمرؓ بھی
وہاں موجود تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ عمرؓ نے مجھ سے کہا ہے کہ یمامہ کے معرکہ
میں کثیر تعداد میں قراء قرآن کی شہادت کے واقعہ سے یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ اگر قراء کی شہادت
مختلف مقامات پر اسی طرح کثرت سے ہوتی رہی تو قرآن کا ایک کثیر حصہ ضائع ہو جائے گا۔
اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ (یعنی حضرت ابوبکرؓ) قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ (حضرت
ابوبکرؓ فرما رہے ہیں کہ) اس پر میں نے عمرؓ سے کہا کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں
کیا وہ کام آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ عمرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم اس کام میں بھلائی ہی ہے اور پھر
مجھ سے مسلسل اصرار کرتے چلے گئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس معاملہ میں انشراح صدر عطا
کیا اور میں بھی عمرؓ کی رائے سے متفق ہو گیا۔ (حضرت ابوبکرؓ حضرت زیدؓ سے مخاطب ہیں کہ)
آپ جوان اور دانا آدمی ہیں۔ آپ پر کسی نے کبھی الزام نہیں لگایا نیز آپ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ ہی یہ کام کریں کہ قرآن کو تلاش کریں اور سارے قرآن کو جمع کر دیں۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ خدا کی قسم! اگر مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم ہوتا تو وہ مجھ پر اتنا گراں نہ ہوتا جتنا کہ قرآن کا کام مشکل تھا۔ اس پر میں نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ آپ وہ کام کیونکر کریں گے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ لیکن حضرت ابوبکرؓ نے مجھے مسلسل اتنا سمجھایا کہ آخر خدا نے مجھے بھی اس معاملہ میں شرح صدر عطا فرمایا جس بارہ میں حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کو شرح صدر عنایت فرمایا تھا۔ تب میں نے مختلف جگہوں اور چیزوں سے قرآن کریم کو تلاش کیا جو کھجور کی ٹہنی کی ڈنٹھل اور پتھر کی باریک سسلوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔

اس روایت سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوئے:

- 1- قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی حفظ اور تحریر، ہر دو طور پر جمع اور محفوظ ہو چکا تھا۔
 - 2- جنگ یمامہ میں قراء و حفاظ صحابہ کی کثرت سے شہادت اس جمع قرآن کا فوری اور بڑا محرک بنی۔
 - 3- جمع قرآن سے حضرت عمرؓ کی مراد یہ تھی کہ قرآن کریم کو تحریری شکل میں ایک جگہ جمع کیا جائے مگر اس مرتبہ کام کی نوعیت مختلف تھی۔ اس طرح تحریر کرنا تھا جس طرح اب سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔
- مندرجہ بالا نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جب قرآن کریم تحریری شکل میں محفوظ تھا تو پھر کیوں حضرت عمرؓ کے دل میں حفاظ صحابہ کی شہادت سے قرآن کریم کے حصہ کثیر کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہوا؟ اور پھر کافی لمبی بحث و تمحیص کے بعد حضرت ابوبکرؓ اور حضرت زیدؓ، حضرت عمرؓ سے متفق ہوئے۔ مختلف علماء جو یہ کہتے ہیں کہ حصہ کثیر سے مراد تحریرات کے کھوجانے کا خطرہ تھا، جیسا کہ الاتقان اور البرہان میں یہ روایت ہے کہ اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ اصل تحریرات وحی جو پہلی مرتبہ لکھی گئیں ان میں سے کوئی حصہ کہیں نہ ہو جائے اور ضرورت تھی کہ قرآن کو اولین موقع پر ایک جگہ جمع کر لیا جائے (الاتقان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 60، البرہان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 238) حضرت عمرؓ کی روایت میں تحریرات کے ضائع ہونے کے ڈر کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ قرآن کے ضائع ہونے کا ذکر ہے اور کیا ایک نسخہ لکھ کر جلد کروالینے سے قرآن کریم محفوظ ہو جاتا؟ کیا آئندہ جب بھی 700 حفاظ شہید ہوتے تو ایک نسخہ ان کی جگہ لینے کے لیے کافی ہوتا؟ ذرا سا تجزیہ کرنے پر یہ بات بے وزن معلوم ہوتی ہے۔

حضرت ابوبکرؓ کے دور میں جمع قرآن کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ جب قرآن کریم کثرت سے تحریری شکل میں موجود تھا تو حفاظ صحابہ کی وفات سے قرآن کریم کی تحریرات کے ضائع ہونے کا

کوئی ڈر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سوال دیگر جواب دیگر والی بات ہے۔ اگر ڈر ہوتا تو تحریرات کی بجائے حفاظ کی قلت کا ڈر ہوتا۔ یہ تجویز دینی چاہیے تھی کہ قرآن کریم حفظ کرنے پر توجہ دی جائے اور کوئی مدرسہ الحفظ قائم کیا جائے۔ کیونکہ تحریرات ضائع ہونے کا مسئلہ نہیں تھا حفاظ کی کثرت سے شہادت کا مسئلہ تھا اور قرآن کریم کی تحریرات کے ضائع ہونے کا مسئلہ تو کبھی امت محمدیہ میں پڑا ہی نہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ 700 قراء شہید ہوئے اور فکر یہ پڑ گئی کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے اور پھر کام کیا کیا؟ موجود نسخوں کو محفوظ کرنے کی بجائے ان میں ایک اور نسخہ کا اضافہ کر کے صحابہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ اب قرآن محفوظ ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ بات تو انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ یہ ڈر محض ایک مجلد نسخہ کے اضافہ سے کیسے دور ہو سکتا ہے۔ جہاں بیشتر تحریرات ضائع ہو سکتی ہیں کیا وہاں یہ ایک نسخہ ضائع نہیں ہو سکتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اس واضح ہدایت کا ذکر گزر چکا ہے کہ آپ نے جنگ میں قرآنی تحریرات ساتھ لے جانے کی ممانعت فرمائی تھی۔ اگر تحریرات کے ضائع ہونے کا ڈر تھا تو چاہیے تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اس ہدایت کی اشاعت کی جاتی اور یہ حکم جاری کر دیا جاتا کہ جنگ میں تحریرات قرآنیہ ساتھ نہ رکھی جائیں نیز کوئی بھی نیا نسخہ تحریر کرنے سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ ان پرانی تحریرات کو محفوظ کرنے کے بارہ میں سوچتے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا اور ان کو جلد کرواتے۔ انہی سوالات کے جواب نہ پا کر آج کل کے بعض مسلمان علماء ان مستند روایات کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت عمرؓ کے ذہن میں لازماً کوئی ایسی بات تھی جو تحریری صورت میں قرآن کو جمع کرنے کے علاوہ تھی اور وہ بات حفظ قرآن کی طرف توجہ دلانا بھی نہیں تھی کیونکہ آپ نے کوئی مدرسہ الحفظ کھولنے کی تجویز نہیں دی۔ پھر حفظ قرآن کا کام بھی امت میں جاری تھا۔ اگرچہ کافی تعداد میں حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ امت سے حافظ قرآن ہی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم صحیح بخاری کی اسی حدیث کی طرف لوٹتے ہیں جس میں جمع قرآن کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کی تجویز کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں اندورنی شہادت موجود ہے کہ حفاظ قرآن کے ضمن میں تحریری صورت میں جمع کرنے کے علاوہ ایک اور بات حضرت عمرؓ کے ذہن میں تھی جو اب تک سرانجام نہیں دی گئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ نے یہ تجویز حضرت ابوبکرؓ کے سامنے پیش کی تو حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کو یہ جواب دیا کہ:

میں نے (یعنی حضرت ابوبکرؓ۔ ناقل) نے عمرؓ سے کہا کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ عمرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم اس کام میں بھلائی ہی ہے اور پھر مجھ سے مسلسل اصرار کرتے چلے گئے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس بارہ میں انشراح صدر عطا فرمایا اور میری بھی وہی رائے ہو گئی جو عمرؓ کی تھی۔

اب دیکھا جائے تو تحریری شکل میں تو قرآن کریم کے بارہ میں بخاری اور صحاح ستہ کی واضح اور بہت کثرت

سے روایات موجود ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم قرآن کریم نزول کے ساتھ ساتھ تحریر کروایا کرتے تھے اور بخاری میں یہ واضح روایات بھی موجود ہیں کہ قرآن کریم مکمل طور پر تحریری شکل میں موجود تھا۔ مگر حضرت ابو بکرؓ فرما رہے ہیں کہ ”جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام ہم کس طرح کریں!؟“، تحریری شکل میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم محفوظ کروایا کرتے تھے اور کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو اس حقیقت کا علم نہ تھا۔ علاوہ اور دلائل کے، خود اس روایت میں یہ شہادت موجود ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو یہ علم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وحی ضبط تحریر میں لائی جاتی رہی ہے۔ چنانچہ آپؐ کے یہ واضح الفاظ روایت میں درج ہیں کہ:

آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ ہی یہ کام کریں۔

پھر حضرت زیدؓ کے علاوہ بھی صحابہؓ کے پاس کثرت سے قرآن کریم کی تحریرات موجود تھیں۔ کیسے ممکن ہے کہ صحابہؓ میں اتنی کثرت سے قرآن کریم تحریر ہو رہا تھا مگر حضرت ابو بکرؓ کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ لازماً حضرت ابو بکرؓ کے اس فرمان کی حکمت پر غور کرنا پڑے گا۔ پھر اسی روایت میں ایک اور جگہ آپ حضرت زیدؓ سے یہ فرماتے ہیں کہ:

”آپ ہی یہ کام کریں کہ مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے حصہ ہائے قرآن کو تلاش کریں اور سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں“

پھر یہ کہ اگر صرف قرآن کریم کو تحریری شکل میں جمع کرنا ہی مقصد تھا تو پھر اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت عمرؓ کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ قرآن کریم تحریری صورت میں محفوظ ہو چکا ہے اور یہ بھی ناممکن اور محال ہے۔ پس لازماً کوئی ایسا کام پیش نظر تھا جو حضرت رسول کریمؐ نے نہیں کیا تھا اور صحابہؓ کی شہادت سے اس کام کا پورا کرنا مشکل تر ہوتا جا رہا تھا اور وہ صرف تحریری شکل میں جمع کرنے کا کام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں کر چکے تھے۔ اگر کہا جائے کہ ایک جلد میں تحریر کرنا تھا تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت زید رضی اللہ عنہما اتنا پس و پیش کرتے اور اتنی بے چینی کا اظہار کرتے۔ حضرت زیدؓ کے پس و پیش کا مطلب تو بالکل سمجھ نہیں آتا کیونکہ آپؐ تو پہلے بھی تو لکھ چکے تھے۔ پس اس حق میں کہ صرف تحریری شکل میں ایک جلد میں جمع کرنا ہی مقصود نہیں تھا ایک بہت مضبوط دلیل اسی روایت سے ملتی ہے اور وہ حضرت زیدؓ کا یہ قول ہے کہ:

”خدا کی قسم! اگر مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم ہوتا تو وہ مجھ پر اتنا

گراں نہ ہوتا جتنا کہ قرآن کا کام مشکل تھا۔ اس پر میں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ آپ وہ کام کیونکر

کریں گے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟“

کتابت قرآن کا کام تو حضرت زیدؓ پہلے بھی کرتے رہے تھے، کیا صرف نیا نسخہ تحریر کروانا آپ کو پہاڑ جیسا

مشکل لگا؟ نیز کیا قرآن کریم کی تحریرات کو جلد کروانا پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل جتنا مشکل تھا؟ پس مجلد شکل میں پیش کرنا تھا مگر اس طرح کہ یہ کام پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو حضرت زید کو تو کہنا چاہیے تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں میرے پاس اور دوسرے صحابہؓ کے پاس پہلے سے ہی قرآن کریم تحریری طور پر محفوظ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تیار کیا گیا ہے۔ انہی تحریرات کو جلد کر لیتے ہیں یا ان کی نقل تیار کر کے جلد کر لیتے ہیں۔ پھر آئندہ جو لائحہ عمل بنایا گیا اور جو کام کیا گیا وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ مقصد صرف ایک مجلد نسخہ کی تیاری نہیں تھا۔ المختصر حضرت عمرؓ کی طرف سے ایک ایسی تجویز پیش کی گئی تھی جو اپنی ذات میں بالکل نئی تھی اور یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور وہ کام تھا بھی بہت عظیم الشان اور بقول حضرت زیدؓ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ تحریر کروانا اتنا مشکل کیونکر ہو گیا؟ پھر حضرت زیدؓ کو نسخہ کی تیاری کو مشکل قرار دے رہے ہیں تحریر کروانے یا جلد کروانے کو نہیں چنانچہ نسخہ تیار کرنے کے بعد جلد کرنے کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ پس نسخہ تحریر کروانا یا تحریرات جلد کروانا بہر حال پہاڑ ڈھونے جتنا مشکل نہیں ہو سکتا۔ اور اس امر کی کہ تحریرات میں کمی کا اندیشہ نہیں تھا ایک اور بھی دلیل ہے کہ جب حضرت عمرؓ کی تجویز کے مطابق نسخہ تیار ہو گیا تو تاریخ میں ذکر نہیں ملتا کہ صحابہ اس نسخہ کی نقلیں کروانے ٹوٹ پڑے ہوں۔ پس تحریرات کافی و شافی موجود تھیں۔

مختصر یہ کہ یہ تو واضح ہے کہ مسئلہ حفاظت قرآن کا ہی درپیش تھا اور کوئی نہیں تھا اور یہ بھی واضح ہے کہ حفاظ کی تعداد کم ہونے یا تحریرات کے کم ہونے کا اندیشہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ حضرت عمرؓ کے نزدیک اس مسئلہ کا حل نہ تو حفاظ کی تیاری میں تھا اور نہ ہی آپ اس وقت قرآن کریم کی کثرت سے تحریری اشاعت کی تجویز دے رہے تھے۔ بلکہ جو مسئلہ تھا وہ ایک مخصوص نسخے کی تیاری کا تھا جو کہ اب تک تیار نہیں ہوا تھا۔ اور اس نسخہ کی تیاری پہاڑ جیسا مشکل کام تھا نہ کہ اس کو تحریر کرنا یا اس کو جلد کرنا۔ ایک اور بات واضح ہے کہ اس تجویز کا تعلق صحابہ کی شہادت سے تھا۔ صرف صحابہ کی موجودگی میں ہی یہ کام ہو سکتا تھا صحابہ کے بعد نہیں نیز تھا بھی بہت اہم اور مشکل۔

ذیل کی سطور میں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے کہ اگر صرف کتابی شکل میں ہی پیش کرنا مقصود تھا تو پھر حفاظ کی شہادت سے قرآن کے ایک بڑے حصہ کے ضائع ہونے کے کیا معنی ہوں گے؟ حضرت ابو بکرؓ اور پھر حضرت زیدؓ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ ”جو کام رسول کریم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟“ نیز حضرت زیدؓ کے اس قول سے کیا مراد ہے کہ ”یہ کام مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے زیادہ دشوار لگا؟“ یہ سوالات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صرف کتابی شکل میں پیش نہیں کیا گیا تھا بلکہ کچھ گہرا کام کیا گیا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس نسخہ میں ایسی خاص بات کیا تھی؟ ان سوالات پر نظر ڈالنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ عصر حاضر میں مستشرقین بہت کثرت سے یہ سوالات

اُٹھاتے ہیں اور بہت سے مسلمان علماء ان سوالات سے نظریں چراتے ہیں اور بعض تو جواب نہ ملنے کی وجہ سے حضرت ابوبکرؓ کے اس عظیم الشان کارنامہ کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں جمع قرآن کا طریق

مستند روایات کے مطابق حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ کے مشورہ پر جمع قرآن کے لیے رضامند ہو گئے اور پھر اس بنا پر کہ حضرت زید بن ثابتؓ ایک بے داغ کردار کے حامل، جوان، ذہین اور پڑھے لکھے صحابی تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اُن معتبر صحابہ میں سے تھے جنہیں حضرت رسول خدا نے وحی الہی لکھنے کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نگرانی میں قرآن کریم تحریر فرماتے تھے۔ اسی سعادت کی وجہ سے حضرت ابوبکرؓ نے بھی آپؐ ہی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ قرآن کریم کو جمع کریں۔ مکمل انشراح صدر کے بعد حضرت زیدؓ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم تحریر اور حفاظ کی گواہیوں کے ساتھ جمع کیا۔ (بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)

مندرجہ بالا وضاحت کے بعد اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ کون سا نوکھا اور بھاری کام تھا جس پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت زیدؓ اتنی سوچ و بچار کے بعد راضی ہوئے تھے۔ بعد کے حالات کے تفصیلی مطالعہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ تحریری صورت میں موجود ہونے کے بعد جمع قرآن کس طرز پر ہوا اور اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ آئیے اُن احادیث کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں جن سے حضرت زیدؓ کے طرز عمل کا پتہ ملتا ہے۔ حضرت زیدؓ فرماتے ہیں:

تب میں نے مختلف جگہوں اور چیزوں سے قرآن کریم کو تلاش کیا جو کھجور کی ٹہنی کی ڈٹھل اور پتھر کی باریک سلوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)

اس طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں:

ان ابا بکر قال لعمر و لزيد اقعدا على باب المسجد فمن جاء كما
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباہ۔

(الاتقان فی علوم القرآن جزء اول النوع الثامن عشر فی جمعه و ترتیبه صفحہ 58)

جب جمع قرآن کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت زید (رضی اللہ عنہما) کو حکم دیا کہ مسجد کے دروازہ پر بیٹھ جائیں اور جو کتاب اللہ کا کوئی حصہ دو گواہوں کے ساتھ لائے وہ حصہ لکھ لیں۔

قدم عمر فقال من كان تلقى من رسول الله ﷺ شيئا من القرآن فليأت

به...وكان لا يقبل من احد شيئاً حتى يشهد شهيدان وهذا يدل على ان زيدا كان لا يكتفى بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به من تلقاه سماعاً مع كون زيد كان يحفظ فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط...وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب اية الا بشاهدي عدل-

(الاتقان في علوم القرآن جزء اول النوع الثامن عشر في جمعه و ترتيبه صفحه 58)

چنانچہ حضرت عمرؓ نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا یا لکھا ہوا کوئی حصہ قرآن ہو تو لے آئے... اور وہ اس وقت تک کوئی آیت قبول نہیں کرتے تھے جب تک دو قسم کی شہادتیں نہ اکٹھی ہو جائیں۔ زیدؓ صرف تحریر پر اکتفاء نہیں کرتے تھے اور حفظ کی گواہی بھی طلب کرتے تھے۔ حضرت زیدؓ خود بھی حافظ قرآن تھے لیکن اس کے باوجود بدرجہ کمال احتیاط کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حفظ کی گواہی بھی لیتے تھے۔... لوگ حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس اس اعلان کے موافق آتے تھے۔ مگر وہ کوئی ایک آیت بھی بغیر دو عادل گواہوں کی گواہی کے نہیں لکھتے تھے۔

(الاتقان في علوم القرآن جزء اول النوع الثامن عشر في جمعه و ترتيبه صفحه 58)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت زیدؓ مختلف صحابہؓ کے پاس موجود تحریر شدہ قرآن کریم پر ہی اکتفا نہیں کر رہے تھے بلکہ خود حافظ قرآن ہونے کے باوجود تحریراتِ وحی بھی طلب کرتے اور حفاظ صحابہ کی گواہی بھی لیتے۔ اس طرح حضرت زیدؓ حفظ اور تحریر، دونوں قسم کی کم از کم دو شہادتیں حاصل کرنے کے بعد ہر آیت احاطہ تحریر میں لاتے۔ قرآن کریم کو اس طرح تحریر کرنے میں ایک تو حد درجہ احتیاط کا پہلو کارفرما تھا اور دوسرے اس سے قرآن کریم کی ایک ایسی عظیم الشان مصدقہ خدمت تھی جو اس سے قبل کسی کتاب کی نہ کی گئی تھی۔

دو گواہیوں سے مراد تعداد کے لحاظ سے دو گواہیاں نہیں تھیں بلکہ دو قسم کی گواہیاں تھیں۔ ایک گواہی یہ لانی ہوتی تھی کہ کم از کم دو حفاظ ہوں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا ہو یا آپ کے حضور اپنا حفظ پیش کر کے تصدیق کروالی ہو اور دوسری قسم کی گواہی یہ تھی کہ آیت کی کم از کم دو تحریرات پیش کی جائیں جو کہ بعد از تحریر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کروا کر مستند بنالی گئی ہوں۔ اس طرح ہر آیت پر کم از کم چار گواہیاں اکٹھی کی جاتیں کہ یہ آیت بعینہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ چنانچہ علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں:

قال ابن حجر وكان المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب- وقال السخاوي في 'جمال القراء' المراد انهما يشهدان على ان ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله ﷺ او المراد انهما يشهدان على ان ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن- قال ابوشامة وكان عرضهم

ان لا یکتب الا من عین ما کتب بین یدی النبی ﷺ لا مجردا لحفظ
(الاتقان فی علوم القرآن جزء اول النوع الثامن عشر فی جمعه و ترتیبہ صفحہ 58)

ابن حجر کا قول ہے کہ دو گواہوں سے مراد حفظ اور کتابت تھی اور سخاوی نے اپنی کتاب جمال
القراء میں لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ دو گواہ اس بات پر گواہی دیں کہ وہ لکھا ہوا قرآن
خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے رو برو لکھا گیا ہے۔... ابو شامہ کا قول ہے کہ ان صحابہؓ
کی غرض یہ تھی کہ قرآن اسی اصل سے تحریر میں لایا جائے جو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات مبارکہ میں آپ کی نگرانی میں تحریر میں آیا ہے نہ کہ محض حافظہ پر اعتماد کر کے لکھ لیا جائے۔
ڈاکٹر صحیحی صالح لکھتے ہیں:

”جمہور کے نزدیک دو عادل گواہ حفظ کے لیے اور دو کتابت کے لیے یعنی کل چار گواہ ضروری تھے۔“
(علوم القرآن، 1993: باب دوم، فصل اول، عہد عثمان میں جمع تدوین صفحہ 111)

اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر قرآن کریم کو محض تحریری صورت میں ایک جلد میں جمع کرنا مقصود تھا
تو کیوں نہ دو چار، دس بیس حفاظ کو بٹھالیا گیا اور قرآن کریم کو بجائے اٹھارہ مہینوں کے لمبے دور کے فوری طور پر
تحریر کر لیا گیا؟ پس محض حافظہ پر انحصار نہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے
زیر نگرانی تحریر کیے گئے نسخوں سے ایک اور نسخہ تیار کر لیا جاتا لیکن ایسا بھی نہ کیا گیا۔ مقصود یہ تھا کہ قرآن کریم کو آخری
کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔ پھر کیوں بظاہر آسان راہوں کو چھوڑ کر وہ راہ اختیار کی گئی جو مشکل تر تھی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس آخری شکل میں محفوظ کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ امت محمدیہ کی گواہی
ساتھ شامل ہو جائے اور وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس پر امت مسلمہ میں کوئی بے چینی راہ نہ پائے اور اب تک
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت قرآن کے ضمن میں جس جانفشانی اور اکمال کے ساتھ کام سرانجام دے چکے تھے
اس میں کسی قسم کا شک نہ رہے اور آئندہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم کو مکمل
طور پر شک و شبہ سے بالا کر کے پیش کیا مگر صحابہؓ کے دور میں کوئی تبدیلی راہ پاگئی۔ اگر چند صحابہؓ ان نسخوں سے مزید
نقول تیار کرتے تو شک پیدا ہو سکتا تھا کہ گنتی کے چند صحابہؓ نے ہی تو قرآن آگے پہنچایا ہے اور اس چھوٹے سے
گروہ سے غلطی ہو جانا قرین قیاس تھا یا اس قلیل تعداد کا کسی بددیانتی پر اکتھے ہو جانا شاید ایک عام دُنیا دار کی آنکھ
میں ممکن العمل ہوتا۔ اگرچہ صحابہؓ کی تاریخ اور ان کے مناقب کا مطالعہ یہ ادنیٰ سا بے دلیل شبہ بھی باقی نہیں رہنے
دیتا کیونکہ یہ لوگ تو ہر طرح سے آزمائے جا چکے تھے۔ علاوہ دوسرے پہلوؤں کے اس پر بھی غور کیجیے کہ جو لوگ
اس درجہ محتاط ہیں کہ ایک کام جس میں سراسر خیر ہے اس کے کرنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ یہ کام رسول کریم
نے نہیں کیا تو ہم کس طرح کر لیں۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کی تحریف کے مرتکب ہو جائیں؟ لیکن پھر

بھی بد طینت لوگ جو دیانت داری کی پروا کیے بغیر صرف اسلام دشمنی میں اعتراض برائے اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں اُن کو یہ کہنے کا ایک موقع مل جاتا کہ قرآن کریم کی حفاظت میں شبہ ہے کیونکہ یہ چند صحابہؓ کے ہاتھوں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے ان چند صحابہؓ نے کسی وجہ سے کوئی تحریف کردی ہو یا اس قلیل جماعت سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ چنانچہ اس طریقہ کار سے ممکنہ شک کا بھی قلع قمع ہو جاتا ہے کیونکہ ساری قوم کا اس طرح جھوٹ پراکٹھا ہو جانا یا مجموعی طور پر کسی غلطی کا شکار ہو جانا ناممکن ہے۔

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی ^{المصلح} الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

کوئی سورۃ نہیں لکھی گئی، کوئی آیت نہیں لکھی گئی، کوئی زیر اور زبر نہیں لکھی گئی جس کے متعلق دو قسم کی شہادتیں نہیں لی گئیں۔ ایک یہ کہ تحریر موجود ہو، دوسرے یہ کہ زبانی گواہ موجود ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ یہ کتنی بڑی محنت ہے اور کتنی بڑی احتیاط کا ثبوت ہے۔ زبانی گواہی کو نہیں مانا گیا جب تک اُس کے ساتھ تحریری شہادت نہ ہو اور تحریری شہادت کو نہیں مانا گیا جب تک اُس کے ساتھ زبانی گواہ نہ ہوں۔ گویا تحریر بھی موجود ہو اور زبانی گواہ بھی موجود ہوں تب کسی سورۃ یا آیت کو قرآن کریم میں شامل کیا جاتا اور یہ زبانی گواہ بھی بعض دفعہ سینکڑوں تک ہوا کرتے تھے صرف ایک دو آیتیں ایسی ہیں جن کے متعلق صرف دو دو گواہ ایسے ملے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ لیکن باقی ساری آیتیں اور سورتیں ایسی ہیں جن میں کسی کے بیس، کسی کے پچاس اور کسی کے سو گواہ تھے اور بہت سے حصوں کے ہزاروں گواہ موجود تھے۔ بہر حال وہ شہادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سے ثابت ہوتی تھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے املاء اور لکھوانے ثابت ہوتی تھی۔ پھر زبانی گواہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے رسول کریم سے ایسا سنا یا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا پڑھا ہے وہی قطعی اور یقینی سمجھی جاتی تھی اور اسی قسم کی شہادتوں کے بعد ہی قرآن کریم میں کوئی آیت شامل کی جاتی تھی۔

(تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 84، 85 تفسیر القریش: 2)

اس طریقہ کار سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ ”قراء کی شہادت مختلف مقامات پر اسی طرح کثرت سے ہوتی رہی تو قرآن کا ایک کثیر حصہ ضائع ہو جائے گا“ واضح سی بات ہے کہ حضرت عمرؓ تحریرات کے ضائع ہونے کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ صحابہؓ کی شہادت سے ہونے والے نقصان کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ نقصان ایسا ہے کہ صحابہ کے بعد اس کا مداوا بھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ نقصان یہی تھا کہ صحابہ کی

شہادت کے ساتھ ہی وہ گواہی بھی دم توڑ دیتی جو صرف صحابہؓ ہی دے سکتے تھے۔ انہوں نے رسول کریمؐ سے قرآن کریم سیکھا تھا اور وہی یہ گواہی دے سکتے تھے کہ موجودہ دور میں موجود قرآن کریم وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپؐ نے امت کو دیا۔ پس اگر بروقت اقدام نہ کیا جاتا تو یہ عظیم الشان گواہی ضائع ہو جاتی اور ایک حصہ کثیر کے بارہ میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ چند صحابہ نے اکٹھا کیا ہے قرآن اس لیے نہ جانے کتنا صحیح ہے۔

ابن ابی داؤد اپنی کتاب المصاحف میں ایک روایت درج کرتے ہیں کہ:

و ذلك فيما بلغنا حملهم على ان تتبعوا القرآن فجمعوه في الصحف في
خلافة ابي بكر خشية ان يقتل رجال المسلمين في مواطن معهم كثير
من القرآن فيذهب بما معهم من القرآن ولا يوجد عند احد بعدهم
(ابن ابی داؤد: کتاب المصاحف الجزء الاول صفحه 23)

ہمارے علم کے مطابق حضرت ابو بکرؓ کے عہدِ خلافت میں انتہائی کوشش کر کے قرآن کریم جمع کرنے کا قدم اس ڈر سے اٹھایا گیا کہ اگر مسلمان کثرت سے شہید ہوتے گئے تو قرآن کریم کا وہ حصہ جو ان کے پاس ہے اور ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔

پھر اُس دور کے حالات کو مد نظر رکھ کر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی کئی ضمنی فوائد حاصل ہوئے اور بعض ایسے معاملات حل ہوئے جو آئندہ شکوک و شبہات کا موجب ہو سکتے تھے۔ مثلاً مختلف صحابہؓ کے پاس اپنی اپنی ضرورتوں کے تحت جمع کیے ہوئے قرآن کریم کے نسخے موجود تھے۔ کیونکہ بعض صحابہؓ نے جو حصہ قرآن انہیں حفظ نہیں تھا وہ اکٹھا کر لیا، یا یہ کہ نزول کے ساتھ ساتھ قرآن کے متن کا کچھ حصہ تحریر کر لیا۔ یا چند سورتیں برکت کے لیے لکھ لیں (بخاری کتاب فضائل القرآن باب تعلیم الصبيان القرآن) پھر صحابہ ذاتی طور پر جمع کر رہے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ بہت سے صحابہ ایسے ہوں جنہوں نے اپنے تحریر کردہ قرآن کریم کے حصہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے اسے مستند نہ بنایا ہو۔ جبکہ تحریر کا رواج بھی نہ تھا اور نہ ہی اتنی مشق تھی اس لیے ممکن تھا کہ غلطیاں بھی ان نسخوں میں راہ پا چکی ہوں۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان نسخوں میں آیات کی ترتیب مختلف ہو اور ایسی صورت ہو کہ فرض کریں کسی صحابی نے سورۃ البقرۃ کی 1 تا 25 تک آیات درج کی ہوں اور پھر 30 تا 287 بھی درج کی ہوں۔ مگر آیات 26 تا 29 کسی سفر یا اور مصروفیت کی وجہ سے درج نہ کر سکا ہو۔ ممکن تھا آئندہ زمانہ میں ان نسخہ جات کو لے کر ہی اعتراضات اٹھائے جاتے کہ ان میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکرؓ اگر فرداً فرداً تمام صحابہؓ کے نسخوں کو چیک کر کے ان کی غلطیوں کی نشان دہی کرتے اور فرداً فرداً سب کو زیڈ کے صحیفہ پر متفق کرتے اور ان کی تسلی کرواتے تو یہ بہت محنت طلب اور لمبا کام ہو جاتا اور امت کی متفقہ گواہی بھی نہ ملتی۔ پھر اس میں ایک یہ

قباحت بھی تھی کہ کوئی اپنی غلطی تسلیم کرتا اور کوئی حضرت ابو بکرؓ کے صحیفہ کو غلط قرار دیتا۔ مگر اس طرزِ عمل میں یہ فائدہ تھا کہ جب ایک شخص غلطی خوردہ ہو اور باقی قوم اس غلطی پر گواہی دے رہی ہو تو اس طرح غلطی خوردہ کو جلد اور مکمل تسلی ہو جاتی ہے نیز آئندہ زمانہ میں معترضین کو اعتراض کرنے کا جائز موقع بھی نہیں ملتا کیونکہ یہ سب صحابہؓ اپنے اپنے نسخوں کی اغلاط تسلیم کر رہے تھے اور حضرت ابو بکرؓ کے نسخہ سے متفق ہو رہے تھے۔ پس ان سب اور دیگر بہت سی ممکنہ حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی اور حضرت ابو بکرؓ نے بہت غور و فکر اور تدبیر کے بعد اس تجویز کو قبول کیا اور امت مسلمہ کی نگرانی میں اور اسے گواہ بناتے ہوئے ایک مرکزی نسخہ تشکیل دینے کرنے کا پہلا منتقل کرنے سے زیادہ مشکل مرحلہ طے کیا۔

یاد رہے تمام تر ممکنہ شبہات کو جڑ سے ہی ختم کرنے اور قرآن کریم کے بارہ میں تمام شکوک کا قلع قمع کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دعویٰ نبوت کے وقت اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر اختیار کیا تھا۔ یعنی سب سے پہلے قوم کو گواہ بنایا کہ تم بتاؤ کیا میں نے کسی ادنیٰ سے معاملہ میں بھی کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیونکہ کوئی قوم خواہ کتنی ہی بددیانت کیوں نہ ہو اجتماعی طور پر جھوٹ نہیں بول سکتی کجا ایسا جھوٹ بولیں کہ بعد میں اس کا ذکر ہی نہ کریں اور بالکل ہی خاموش ہو جائیں۔ پھر بعد میں اسی قوم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کی گواہی دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قرآن کریم کو کامل راستبازی، دیانتداری، امانت داری اور کمال احتیاط اور حفاظت کے ساتھ بنی نوع کے سپرد کر دیا ہے۔ (بخاری کتاب الحج باب خطبۃ بطنی) اب حضرت ابو بکرؓ نے قرآن کریم کی حفاظت کے معاملہ میں اسی امت کو گواہ بنایا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے گواہ بنایا تھا۔ وہی امت جو اپنی وفاداری اور جانثاری کے ان گنت ناقابلِ تردید واقعات سے اپنا صدق و صفا ثابت کر چکی تھی۔ جنہوں نے انفرادی اور اجتماعی قربانیوں کے میدانوں میں بارہا ثابت کیا کہ وہ اپنے اموال کے بدلے، اپنی جانوں کی قیمت اور اپنے پیاروں کی جانوں کی قیمت پر بھی ہمیشہ اس الہی امانت کی حفاظت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پھر اسی وفاداری کا عملی اظہار یہ امت اپنے آقا کی وفات کے فوراً بعد ایک مرتبہ پھر آپؐ کے پہلے جانشین کی امامت میں کر چکی تھی یعنی انتہائی خطرہ کی حالت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں دیے گئے ایک حکم کو ان کی وفات کے بعد اس عزم کے ساتھ پورا کر رہی تھی کہ اگر مدینہ کی گلیوں میں عورتوں اور بچوں کی لاشیں کتے بھی گھسیٹتے پھریں پھر بھی وہ لشکر ضرور جائے گا جس کے کوچ کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دیا تھا (بحوالہ تفسیر کبیر جلد 6 زیر تفسیر النور: 56 صفحہ 385) پس اب اسی جانشین کی سرکردگی میں اس الہی امانت پر اس گواہی کے لیے اسی امت کو طلب کیا جا رہا تھا کہ آؤ اور اس الہی امانت کے غیر مبدل ہونے پر گواہ بن جاؤ جس کی حفاظت کے لیے تم نے ہر قسم کی قربانی دی ہے کہ یہ الہی امانت

بعینہ اسی حالت میں ہے جیسی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تمہیں دی تھی اور جس کی حفاظت کے لیے تم اب تک قربانیاں کرتے آرہے ہو۔ جس کی حفاظت تم نے اپنے بڑھاپے کے سہارے، اپنے سہاگ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے باپ، اپنی مائیں، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں قربان کر کے اپنے وطن چھوڑ کے، اپنا سب کچھ تیاگ کے کی ہے۔ آؤ اور تسلی بھی کر لو اور آئندہ کے لیے گواہ بھی بن جاؤ کہ اب تک جس امانت کی حفاظت تم اپنے آقا کی سرکردگی میں کرتے رہے ہو، آج کتابی شکل میں بھی وہ بعینہ لفظ بلفظ محفوظ کی جا رہی ہے جیسی کہ تمہارا آقا تمہیں دے کر گیا ہے۔ یاد رہے کہ کوئی قوم ایسی خاموشی کے ساتھ کسی بڑی بددیانتی پر اکٹھی نہیں ہوئی کہ تاریخ اس کا ذکر تک نہ کرے اور پھر اب تو گواہ بنائی جانے والی قوم بھی ایسی تھی کہ جن کی اخلاقی حالت بھی اس درجہ اعلیٰ اور ارفع تھی کہ کسی ادنیٰ سی بددیانتی پر بھی اتنی خاموشی سے متحد ہو جانا ان کے لیے ناممکن تھا اور اس لیے بھی ناممکن تھا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے قبل ازیں بڑی بڑی قربانیاں دے چکے تھے۔ پھر سونے پر سہاگہ یہ کہ انتظام ایسا اعلیٰ کر دیا گیا کہ ان حالات میں بددیانتی کا ارتکاب ناممکن ہو گیا تھا۔

پس اعلان عام کیا گیا کہ جس شخص کے پاس بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ قرآن کریم کا کوئی حصہ حفظ میں یا تحریری شکل میں موجود ہو وہ لے آئے۔ تمام صحابہ اپنی اپنی مستند تحریرات لے کر آتے اور حفاظ کرام اور تحریرات دونوں میں مطابقت دیکھی جاتی۔ ہر لفظ پر کم از کم دو حفظ کی اور دو تحریر کی گواہیاں اکٹھی ہوتیں اور پوری تسلی کے بعد ہر آیت کو درج کیا جاتا۔ پس وہ امت جو براہ راست صاحب قرآن صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے قرآن حفظ کر چکی اور سیکھ چکی تھی ہر ایک لفظ کے استناد پر گواہ بن رہی تھی اور اس عظیم الشان اور ناقابل تردید گواہی سے قرآن کو مرکزی کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہر صحابی انفرادی طور پر گواہ بن رہا تھا کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے امت کو دیا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کریم کے معاملہ میں چھوٹے سے چھوٹے اختلاف پر پھرے شیروں کی طرح اٹھ کھڑے ہونے والے کس خاموشی سے اور اطمینان سے اس کام کو مکمل کرتے ہیں اور کوئی معمولی سا اختلاف بھی سر نہیں اٹھاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری امت پوری طرح مطمئن تھی کہ سب کچھ بعینہ اس طرح محفوظ کیا جا رہا ہے جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تحریر کروا کر اور حفظ کروا کر محفوظ کروایا تھا۔ اب سے پہلے جب بھی کبھی اختلافی صورت پیش آئی خواہ وہ اختلاف کتنا ہی ادنیٰ کیوں نہ ہو اس کا فیصلہ رسول کریم سے لیا اور تاریخ میں اس کا ذکر محفوظ کیا۔ اب بھی اگر کوئی اختلاف ہوتا تو ضرور اس کا ذکر کیا جاتا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمع قرآن کے سلسلہ میں حفاظت کے تمام تقاضے تمام و کمال پورے کیے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کی سرکردگی میں تیار کیے جانے والے اس نسخہ کو مصحفِ امّ کہا جاتا ہے۔ مستشرقین کبھی عدم علم اور کبھی دجل کی راہ سے شکوک پیدا کرنے کے لیے یہ وساوس پیدا کرنے کی

کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں بہت سے صحابہؓ کے باہمی مختلف نسخے موجود تھے لیکن یہ جھوٹ ہے۔ اس بارہ میں تفصیل سے بات آئندہ سطور میں اپنے موقع پر ہوگی۔ یہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر مختلف نسخے ہوتے تو ضرور پیش کیے جاتے۔ لیکن صحابہؓ کا مصحفِ امّ پر اجماع کرنا بتاتا ہے کہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں تھا۔

پھر یہ پہلو بھی مد نظر رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے بعد حالات بے حد مخدوش تھے اور مخالفت کا بازار بھی گرم تھا۔ تمام دشمن چونکہ تھے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے لہذا اب شاید اس امت کو آسانی سے برباد کیا جاسکے۔ اگر کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا جاتا جو حفاظتِ قرآن کے لحاظ سے کمزور ہوتا تو ضرور دشمنانِ اسلام شور کرتے۔ لیکن اس شور و شر کے زمانہ میں ہر قسم کی احتیاط برتی گئی اور تمام راہیں حفاظت کی اختیار کی گئیں تاکہ کسی دیانت دار محقق کو شبہ اور شکایت کا ادنیٰ سا موقعہ بھی نہ ملے۔

اس ضمن میں ایک یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سورۃ الاحزاب یا سورۃ التوبہ کی آخری آیت صرف حضرت ابو خزیمہؓ لائے اور کوئی صحابی نہیں لائے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ آیات اور کہیں لکھی ہوئی موجود نہیں تھیں۔ قرآن کریم رسول کریم کے زیر نگرانی تحریری صورت میں جمع کیا جا چکا تھا۔ پس جب یہ کہا جائے کہ صرف فلاں صحابی کوئی آیت لایا تو اس سے مراد ہے کہ اُن صحابہؓ کے علاوہ، جن کے سپرد آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور میں جمع قرآن اور کتابتِ قرآن کا کام تھا، باقی صحابہؓ میں سے صرف ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف سے تصدیق شدہ آیت اپنے پاس تحریری صورت میں محفوظ کی ہوئی تھی۔ غیر تصدیق شدہ جانے کتنے نسخے تھے جن میں یہ آیت درج تھی۔ علامہ سیوطی نے اتقان میں اور مولوی صدیق حسن صاحب نے تاریخ القرآن میں یہی رائے درج کی ہے۔ بہر حال اگر کسی کی رائے اس رائے کے مؤید نہ بھی ہوتی تو بھی تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی بات درست قرار پاتی ہے۔ کسی حافظ قرآن کا بھی اس آیت سے کوئی اختلاف نہیں تھا اور نہ ہی کاتبین وحی میں سے کسی نے اختلاف کیا۔ گویا ان کاتبین کو بھی جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی قرآن تحریر کیا تھا اور حفاظ کو بھی اس آیت کے بارہ میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ صرف ایک یہی آیت تھی جس کی مستند تحریر کاتبین وحی کے علاوہ صرف ایک صحابی کے پاس تھی۔ اس آیت کے بارہ میں کوئی بے چینی پیدا ہوئی ہوتی تو ضرور اس کا ذکر ملتا اور لطف کی بات یہ کہ ان صحابی کی گواہی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دو صحابہؓ کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ نیز یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ باوجود اس کے کہ اس آیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا مگر پھر بھی تاریخ میں اس کا ذکر محفوظ کیا گیا اس سے یہ امر مزید واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی آیت ہوتی جس میں حقیقی طور پر اختلاف پایا جاتا تو کیسے ممکن ہے کہ ذکر نہ کیا جاتا۔ پھر یہ روایت اس حقیقت کا ایک اور بڑا لطیف ثبوت ہے کہ صحابہؓ کے پاس کثرت سے قرآن کریم کے مستند مسودات

موجود تھے۔ چنانچہ ایک آیت کی مستند تحریر جب صرف ایک صحابیؓ کے پاس موجود پائی گئی تو صحابہ کو بہت عجیب لگا اور انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ اگر یہ تمام کارروائی اطمینان عام کے لیے تھی اور قومی گواہی اکٹھی کی جا رہی تھی تو ضرور تھا کہ ادنیٰ سی بے اطمینانی کی حالت میں بھی صحابہؓ اعتراض کرتے۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس عظیم الشان خدمت کے پورا ہونے کے فوراً بعد جب کہ مرکزی نسخہ قرآن تیار ہو چکا تھا، کسی صحابی کا اس کی نقل کرنا مذکور نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کے نسخہ جات موجود نہ ہوتے تو صحابہ کا قرآن کریم سے عشق تو ایسا تھا کہ لازماً وہ نقول کروانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ نسخہ تحریرات کی کمی دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ صحابہؓ کی گواہی اور اطمینان عام کے لیے مرتب کیا گیا تھا ورنہ لوگ اس کی نقول کروانے کو دوڑے پھرتے۔ حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں یعنی قریباً دس پندرہ سال بعد تک، جب حضرت عثمانؓ نے اس کی نقلیں کروائیں، کسی نے عام استعمال نہیں کیا۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ قرآن کریم کے بکثرت نسخے موجود ہوں اور تعلیم عام ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ قدم حفاظت قرآن پر اجماع امت کے لیے، اور حفاظت قرآن پر قوم کی گواہی اور اطمینان عام کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ کے اس اقدام پر غور کرنے والے بعض مستشرقین بھی اس حقیقت تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ Dr. Maurice Bucaille لکھتے ہیں:

They had the advantage of being checked by people who already knew the text by heart, for they had learned it at the time of the Revelation itself and had subsequently recited it constantly. Since then, we know that the text has been scrupulously preserved, It does not give rise to any problems of authenticity.

(The bible The Qura'n and Science (translation from French by Alastair D. Pannel and The Ahthor) Under Heading Conclusions Pg 250-251)

انہیں (یعنی جن لوگوں کو حضرت ابو بکرؓ نے جمع قرآن کا حکم دیا تھا) یہ زائد فائدہ بھی حاصل تھا کہ وہ (متن) ان لوگوں سے چیک کروالیا جاتا تھا جنہوں نے وحی کے نزول کے وقت ہی اسے حفظ کر لیا تھا اور بار بار اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ اس وقت سے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا متن بلاشبہ محفوظ ہے اور اس کے استناد پر کوئی سوال نہیں اٹھتا۔

پھر حضرت عثمانؓ کے عہد تک موافقین اور مخالفین کے پاس یہ مہلت تھی کہ اگر کسی کو کوئی بھی اختلاف ہو تو ضرور اس کا ذکر کریں مگر سالوں پر سال گزرتے چلے گئے لیکن نہ امت مسلمہ کی طرف سے اور نہ ہی مخالفین کی طرف سے کوئی آواز اٹھائی گئی۔ آخر جب ایسے حالات پیش آئے کہ مناسب محسوس ہوا کہ اس مرکزی متفقہ صحیفہ پر ساری قوم کو جمع کر دیا جائے تو صحابہ کے مشورہ اور رائے سے حضرت عثمانؓ کی نگرانی میں متفرق طور پر صحابہؓ کے پاس

موجود ان قرآنی مسودات کو تلف کر دیا گیا جن کی مدد اور گواہی سے مرکزی صحیفہ تیار کیا گیا تھا اور دیگر قرآنی مسودات بھی تلف کر دیے گئے جو عوام نے اپنے طور پر ذاتی استعمال کے لیے تیار کیے تھے۔ تاریخ اسلام اور عربی زبان سے واقفیت رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ یہ کام درست تھا اور اس کا مقصد نہ تو کوئی تحریف یا بددیانتی تھی اور نہ ہی متصور ہو سکتی ہے۔ یہ حفاظت قرآن کے ضمن میں ہی اٹھایا گیا ایک اہم قدم تھا۔

اب صورت حال کچھ یوں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے جو قرآن کریم کی محافظت کے ضمن میں اٹھنے والے اعتراضات کے سلسلہ میں حکم تھے۔ البتہ آپ کے زیر نگرانی تیار کیے گئے دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ ایک ایسا صحیفہ بھی موجود تھا جو امت مسلمہ میں مرکزی صحیفہ قرار پایا۔ جس پر صحابہ کی متفقہ گواہی موجود تھی کہ یہ صحیفہ قرآن بعینہ وہ ہے جو رسول کریم نے بنی نوع کے سپرد فرمایا اور اس میں کوئی رد و بدل اور کمی بیشی نہیں ہے۔ ایک پادری Jhon Gilchrist اس موقع پر ایک سوسہ یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے زیر نگرانی تیار کیا گیا نسخہ قرآن مرکزی نوعیت کا نہیں تھا بلکہ غیر اہم تھا۔ کیونکہ جب تیار ہو گیا تو حضرت عثمان کے دور تک کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ بلکہ حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر اور پھر حضرت حفصہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی تحویل میں پڑا رہا۔ اگر یہ نسخہ ادنیٰ سی بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو ضرور اس کا کثرت سے استعمال ہوتا۔ اس طرح بلا استعمال رکھ دیا جانا بتاتا ہے کہ مرکزی اہمیت تو کجا اس کی ادنیٰ سی بھی اہمیت نہیں تھی۔

اگر یہ پادری صاحب ذرا سا ہوش سے کام لیتے اور تاریخ کا اس طرح مطالعہ نہ کرتے جس طرح وہ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں بلکہ ذرا سا عقل و خرد سے کام لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ نسخہ تو بے انتہا اہمیت کا حامل تھا۔ حضرت عمر نے اتنی بحث و تہیص کے بعد حضرت ابوبکر کو راضی کیا تھا۔ پھر حضرت زید بھی فرماتے ہیں کہ اس کی تیاری پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی سے زیادہ مشکل کام تھا۔ کیا اس قدر مشکل کام کا بیڑا اس لیے اٹھایا گیا کہ نتیجہ جو نسخہ تیار ہو وہ بالکل ہی غیر اہم ہو؟ پھر یہ کام تھا بھی اس قدر اہم کہ اس کا نہ کرنا حضرت عمر کے الفاظ میں گویا قرآن کریم کا حصہ کثیر ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ پھر اتنی کثرت سے نسخہ جات موجود ہونے کے باوجود اتنا وقت صرف کر کے اور اس قدر محنت کر کے جو ایک نسخہ بنایا گیا کیسے ممکن ہے کہ اس کی اہمیت ہی نہ ہو؟ پھر اس کے استناد پر تمام تر شبہات کا قلع قمع کرنے کے لیے گواہیوں کا ایک عدیم النظیر سلسلہ چلا۔ کیا ایک ایسے غیر اہم نسخہ کی تیاری کے لیے پوری قوم کی گواہیاں اکٹھی کی گئیں؟ پھر جس نہج پر گواہیاں اکٹھی کی گئیں وہ بھی فی ذاتہ بے نظیر کام تھا۔ کیا جس نسخہ کے استناد پر رسول کریم کے سب صحابہ متفق تھے وہ نسخہ غیر اہم قرار دیا جاسکتا ہے؟ بے شمار نسخوں کے موجود ہونے کے باوجود حضرت عثمان نے امت کو ایک صحیفہ پر متفق کرنے کے لیے جس نسخہ قرآن کو چننا کیا وہ دوسرے نسخوں سے کم اہم تھا؟ لازمی سی بات ہے کہ اس وقت موجود نسخوں میں سب سے اہم نسخہ یہی تھا

تبھی اس کو چُنا گیا۔ کیا ان تمام امور سے صحیفہ کی اہمیت کا اور اس کی افادیت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ یہ کہنا کہ لوگوں نے اس کا عام استعمال نہ کیا اس لیے معلوم ہوا کہ یہ غیر اہم تھا انتہائی سچگانہ بات ہے۔ ہاں محافظت قرآن کریم کے سلسلہ میں شکوک پیدا کرنے کے لیے جن نسخوں کو اتنی اہمیت دیتے ہو وہ نسخے تو واقعی غیر اہم تھے اور وہی ایک نسخہ اہم تھا جس کے استناد پر تمام امت اور مخالف و موافق متفق تھے۔ صرف اس لیے کہ اس نسخہ کو عوام نے کثرت سے استعمال نہ کیا پس ثابت ہوا کہ یہ اہم نہیں تھا یہ تو ایک غیر معقول اور غیر مناسب سوچ ہے۔ اُس دور میں قرآن کریم کی تحریرات بہت عام تھیں اور لوگوں کو کثرت سے قرآن کریم حفظ تھا اس لیے اس مخصوص نسخہ کی ضرورت نہ پڑی۔ جب ضرورت پڑی تو پھر صرف اسی نسخہ کو استعمال کیا گیا اور کوئی دوسرا نسخہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کی نقول کروائی گئیں اور سب عالم اسلام میں پھیلائی گئیں اور ان کو استعمال کیا گیا۔

ہر چیز کی اہمیت کا اندازہ صرف اس کے کثرت استعمال سے تو نہیں لگایا جاتا۔ کیا اگر اصل سنبھال کے اور محفوظ رکھی گئی ہو اور نقول استعمال کی جاتی ہوں تو ایسا نسخہ غیر اہم ہو جاتا ہے؟ کسی تعلیم کی اصل اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ کس قدر عام ہے۔ اس کی اشاعت کس قدر ہے۔ کوئی قوم اسے کس قدر اہمیت دیتی ہے۔ نہ کہ اسی وقت کوئی چیز اہم ثابت ہوتی ہے کہ اس کے اصل نسخہ کو ہر شخص کی پہنچ میں کر دیا جائے۔ اہم مسودات تمام کے تمام کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں مگر نقول کی صورت میں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر شخص اصل مسودہ لیے پھرتا ہے۔ اس اعتراض کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ تمام اشیاء جو عجائب گھروں میں رکھی ہیں یا حکومتی تحویل میں یا بینکوں کے لاکروں میں یا تجوریوں میں محفوظ پڑی ہیں ساری غیر اہم ہیں۔ اگر اہم ہیں تو کیوں ہر عام شخص کا ہاتھ اُن تک نہیں پہنچتا؟ بہت سی نادر کتب کے قیمتی قلمی نسخے جو لائبریریوں یا عجائب گھروں میں محفوظ ہیں غیر اہم ہیں ہاں اُن نسخوں کی نقول بہت اہم ہیں کیوں کہ وہ عام شخص کی پہنچ میں ہیں۔ امت محمدیہ میں تو قرآن کریم کی تعلیمات بہت عام تھیں اور حفظ اور تلاوت اور قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت بہت کثرت سے ہوا کرتی تھی۔ پس یہ کہنا کہ خاص اس نسخہ کو عام طور پر استعمال نہ کیا گیا پس وہ غیر اہم تھا ایک غیر منطقی اور مبنی بر تعصب نتیجہ ہے۔ جب قرآن کریم کے نسخہ جات کثرت سے موجود ہوں تو پھر اس ایک نسخہ کو جسے اس قدر محنت اور مشقت سے تیار کیا گیا تھا، حفاظت کے نکتہ نظر سے محفوظ رکھنا کس طرح یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ غیر اہم تھا؟ اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ خاص نسخہ دوسرے تمام نسخوں سے زیادہ اہم تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب ضرورت پڑی تو کیا پھر بھی اس نسخہ کو استعمال کیا گیا یا نہیں؟ یقیناً کیا گیا اور ہزاروں دوسرے صحائف کی موجودگی میں صرف اسے ہی استعمال کیا گیا۔ تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ نسخہ تمام دیگر نسخوں سے زیادہ اہم تھا؟

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی تحریری شکل میں نزول کے ساتھ ساتھ جمع

کیا جا چکا تھا مگر اس وقت اس کو ایک جلد میں پیش کرنا ناممکن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے ساتھ جب قرآنی وحی مکمل ہونے کا علم ہو گیا تو ایک جلد میں جمع کرنا ممکن ہوا اور احتیاط کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے اس جلد پر تمام امت کی گواہی جمع کی جا رہی تھی کہ یہ قرآن کریم بعینہ وہی ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے امت کے سپرد کیا ہے۔ اور صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے بعد پوری دیانت داری کے ساتھ احتیاط کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے انتہائی خوش اسلوبی سے یہ خدمت سرانجام دی۔ یعنی قرآن کو آخری کتابی شکل میں محفوظ کرتے ہوئے اس کی صداقت اور استناد پر تمام قوم کی گواہی بھی قائم کر دی اور معاصر مخالفین کی خاموشی اس پر ایک اور گواہ بن گئی۔ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے دعویٰ کی ابتداء میں اپنی قوم کو اپنی صداقت پر گواہ بنایا پھر وفات کے قریب قوم سے گواہی لی کہ آپؐ نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے اسی طرح حضرت عمرؓ کی تجویز اور اعانت سے حضرت ابو بکرؓ کی سرکردگی میں حضرت زید بن ثابتؓ نے تمام امت کو اس بات پر گواہ بنایا کہ آج قرآن کریم بعینہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے امت نے سیکھا تھا۔ یہ تھا وہ مشکل کام جسے حضرت زیدؓ نے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے بھی زیادہ مشکل قرار دیا تھا۔ پس بفضلہ تعالیٰ یہ کام پاپائے تکمیل کو پہنچا۔ الحمد للہ۔

حضرت عثمانؓ نے صحابہ کرام کے مشورہ اور اتفاق رائے سے اپنے دور خلافت میں اس نسخہ کو مملکت اسلامیہ میں ایک انتظام کے تحت شائع اور رائج کر دیا۔

صحابہؓ کے دور میں قرآن کریم میں رد و بدل ناممکن تھا

قرآن کریم کی جمع و تدوین کے ضمن میں یہ حقیقت ثابت ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پوری حفاظت کے ساتھ صحابہ کرام کے حوالے کر دیا اور اس سپردگی کے عمل میں ایسی کمال درجہ کی احتیاط برتی کہ کوئی دوسری کتاب اس میں حصہ دار نہیں اور اس ضمن میں ایسے انتظامات فرمائے کہ صحابہؓ کے لیے قرآن کریم کی حفاظت چنداں مشکل نہ رہی اور صحابہؓ نے کمال دیانت داری سے یہ قومی فریضہ سرانجام دیا۔

محافظت قرآن کریم کا ایک پہلو یہ بھی ہے جب قرآن کریم صحابہ کرام کے سپرد کیا گیا تو اس انداز اور ان حالات میں کیا گیا کہ وہ اس میں کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ:

1- تحریری صورت میں خوب پھیل چکا تھا۔

2- حفظ کے ذریعے ہزاروں سینوں میں محفوظ ہو چکا تھا۔

3- نماز میں تلاوت قرآن فرض تھی اس لیے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہوتا تھا جو نماز میں لوگوں کے

سامنے تلاوت کیا جاتا۔ پھر ہر رمضان میں نماز تراویح میں اس کی دہرائی ہوتی۔

4- دن رات کلام الہی کی درس تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر وقت اس کی تلاوت کی جاتی۔ اپنے اور بیگانے سب اس کے ایک ایک لفظ کی صداقت کے گواہ تھے اور بلا مبالغہ یہ علم بھی چند صحابہؓ کے پاس محفوظ تھا کہ فلاں آیت کس جگہ، کس موقع پر اور کن حالات میں نازل ہوئی۔

5- پھر جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہوئی تھی یعنی آنحضرت کے صحابہ کا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ اخلاق عالیہ کے ایسے اعلیٰ اور رفیع مقام پر فائز تھے کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اخلاقی، روحانی اور دنیاوی آداب کے نئے اور اعلیٰ پیمانے قائم کرنے والی قوم ایک ایسی عظیم الشان قومی بددیانتی کی مرتکب ہو جاتی۔ ایک ایسی قوم کہ جس کے حالات کا مطالعہ کرنے سے اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ وہی نہیں سکتا کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا ہو جس نے قرآن کریم کے معاملہ میں ادنیٰ سی بھی بددیانتی کی ہو اور نہ ہی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے۔ بلکہ جہاں ادنیٰ سی بھی غلط فہمی پیدا ہوئی تو حفاظت قرآن کے ضمن میں ایسی غیرت ایمانی کا نمونہ دکھایا کہ اگر کسی منافق یا مخالف کے دل میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوئی امید بھی ہوگی تو وہ بھی دم توڑ گئی ہوگی۔ یہ ذکر گزر چکا ہے کہ کسی بھی قوم کا اس طرح خاموشی سے کسی قومی بددیانتی پر متفق ہو جانا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ہرگز ممکن نہیں۔ انہوں نے تو قرآن کریم کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ایسے ایسے ہولناک مظالم برداشت کیے تھے کہ پڑھ کر ہی انسان کی روح تک میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ پس اُن میں سے کسی ایک کے بارہ میں بھی یہ تصور نہیں کیا جاسکتا گجائیہ کہ پوری قوم کے بارہ میں سوچا جائے۔

6- پھر حضرت ابو بکرؓ نے امت کی گواہی ڈلو کر اور امت کو اعتماد میں لے کر حفاظت قرآن کے حوالہ سے پیدا ہونے والے تمام تر شبہات جڑ سے ختم کر دیے۔

7- حضرت عثمانؓ نے اختلاف قراءت کا فیصلہ کر کے اور ایک قراءت پر امت کو جمع کر کے حفاظت قرآن کے موضوع پر غلط فہمی کے آخری امکان کو بھی ختم کر دیا۔

پس کلام الہی اس درجہ احتیاط کے ساتھ آگے منتقل کیا گیا تھا کہ کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں تھی جب تک کہ ساری قوم اور ہزاروں ہزار جانثار، یک بیک غدار نہ ہو جاتے اور پھر اتنے بڑے پیمانہ پر تبدیلی کے بارہ میں ممکن ہی نہیں تھا کہ تاریخ کی باریک بین نظروں سے چھپالی جاتی اور منتقل بھی اُن لوگوں کو کیا گیا جو اپنی جانوں اور مالوں کی قربانیوں کے ساتھ ہر لحاظ سے آزمائے جاسکے تھے۔ وہ اس کے ایک ایک لفظ پر محاورہ نہیں بلکہ حقیقتاً جان نچھاور کرنے کو تیار تھے اور اس کی عملی مثالیں بارہا پیش کر چکے تھے اور ایسے نمونے دکھا چکے تھے کہ آج ان کو دیکھ کر مخالف آنکھ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ ایک با وفا قوم تھی اس بات کا ذکر H. M. Hyndman اپنے انداز میں یوں کرتا ہے:

"... This very human prophet of God had such a remarkable personal influence over all with whom he

was brought into contact that, neither when a poverty-stricken and hunted fugitive, nor at the height of his prosperity, did he ever have to complain of treachery from those who had once embraced his faith.

(H. M. Hyndman: The Awakening of Asia, London 1919, p. 9.)

اس خدا کے رسول (ﷺ) نے ایمان لانے والوں پر اپنی قوت قدسیہ کی ایسی تاثیر ڈالی کہ نہ تو افلاس اور مصائب کی آندھیوں میں اور نہ ہی حالت یسر میں کبھی اُن سے ادنیٰ سی دھوکہ دہی یا فریب کی شکایت ہوئی۔

پس اس درجہ با وفا اور پاکباز جانثاروں کے بارہ میں کیسے سوچا جاسکتا ہے کہ وہ بلاوجہ آن واحد میں غداری کے مرتکب ہو گئے اور پھر غداری بھی ایسی کہ سب ہی اس پر متفق ہو گئے کہ قرآن کریم میں تحریف اور تغیر و تبدل کیا جائے؟ کوئی ایک بھی حقیقت بیان کرنے والا نہ بچا اور اتنی خاموشی سے یہ کام کیا کہ ہمعصر مخالفین کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ذرا تجزیہ تو کیجیے کہ تاریخ عالم کے اس سب سے بڑے فراڈ پر وہ لوگ متحد ہو گئے جن کی عورتیں ابھی ابھی اس کلام کی حفاظت میں بیوہ ہوئی تھیں، جن کے یتیم بچے ابھی مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، جن کی بوڑھی مائیں ابھی اپنے اُن جوان بچوں کی یاد میں اشک فشاں تھیں جن کی شہادت کو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ ہاں کیسے ممکن ہے کہ وہ قوم غدار ہو گئی ہو جس نے اپنے رسول کے پہلے جانشین کی زبان پر اپنے آقا کی وفات کے فوراً بعد یہ عہد کیا تھا کہ اگر مدینہ کی گلیوں میں کتے بھی عورتوں اور بچوں کی لاشوں کو نوچ رہے ہوں تب بھی وہ لشکر ضرور جائے گا جس کو آنحضرت تیار کر کے گئے ہیں۔ (بحوالہ تفسیر کبیر جلد 6 زیر تفسیر النور: 56 صفحہ 385) جو اپنے آقا کی وفات کے فوراً بعد بیعتِ اُسی طرح میامہ کی جنگ میں اپنے جوانوں کے خون اسلام کی راہ میں بہا چکی تھی جس طرح وہ اپنے آقا کی زندگی میں بہایا کرتی تھی۔ کیا ممکن ہے ایسی قوم جو وفاداری کے ایسے ایسے اعلیٰ انفرادی اور اجتماعی نمونے دکھا چکی ہو کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار وہ نمونے دکھائے گئے ہوں، یک بیک غدار ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ لاکھوں کی وہ تعداد اتنی خاموشی سے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی اور اس قدر غیر ممکن العمل بددیانتی پر اکٹھی ہو گئی ہو اور پھر اس صفائی کے ساتھ کہ کسی دوسرے کو اس کی بھنک بھی نہ پڑی ہو؟ بہر حال ہم گزشتہ سطور میں عقلی طور پر ثابت شدہ اس حقیقت کو نقلی قرائن اور تاریخی واقعات کی روشنی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بدلائیں گیا بلکہ آج بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول کریم نے امت کے حوالے کیا تھا۔

قرآن مجید کے اعراب (حرکات) و نقاط

حضرت علیؓ نے اپنے دورِ خلافت میں نحو (یعنی عربی گرامر) کے چند قواعد بتا کر اپنے ایک گورنر ابوالاسود دؤلی کو ارشاد فرمایا کہ اس کے مطابق مزید قواعد وضع کرو (تاریخ الخلفاء حالات حضرت علیؓ صفحہ 228) اس سے قبل

حضرت عثمانؓ انہیں کو قرآن مجید پر اعراب لگانے کا حکم دے چکے تھے تا غیر عرب بھی قرآن کریم صحیح طور پر پڑھ سکیں اور بسہولت اس کی تعلیمات سے بہر مند ہو سکیں لیکن آپ بوجہ فوری طور پر اس حکم کی تعمیل نہ کر سکے۔ حضرت عثمانؓ نے یہ حکم اختلاف قراءت کا مسئلہ حل کرنے کے بعد دیا تھا۔ 42ھ میں حضرت امیر معاویہؓ نے ابوالاسود کو بنی امیہ سے اختلافات رکھنے کی بناء پر معزول کر دیا۔ فراغت میسر آنے پر انہوں نے خلفاء کے ارشاد کی تعمیل میں ایک رسالہ قواعد نحو کے بارہ میں تحریر کیا۔ اسی طرح قرآن مجید پر اعراب بھی لگائے۔ مگر یہ اعراب آج کل کے اعراب جیسے نہ تھے۔ بلکہ نقطوں کی صورت میں تھے۔ (عرض الانوار از قاضی عبدالصمد سیوہاروی مطبوعہ حمید برقی پریس دہلی۔ سن اشاعت 1359ھ طبع اول صفحہ 73، 74) امام ابو عمر و عثمان بن سعید الدانی نے لکھا ہے کہ ابوالاسود نے ایک آدمی سے کہا کہ قرآن کریم لے لو اور ایک رنگ تحریر کی روشنائی کے رنگ سے مختلف لیا اور اس سے کہا کہ اگر میں اپنا منہ کھولوں تو حرف کے اوپر ایک نقطہ (زبر) لگانا اور اگر منہ کو نیچے کی طرف مائل کروں تو نیچے ایک نقطہ (زیر) لگانا اور اگر اپنے منہ ملا دوں تو ایک نقطہ حرف کے آگے (پیش) اور اگر ان حرکات کے ساتھ غنہ بھی ہو تو دو نقطے (تنوین) لگانا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔

(بحوالہ عبد الصمد صادم الازہری: تاریخ القرآن، ایڈیشن 1985 ندیم پونس پرنٹرز لاہور،
پبلشرز: مکتبہ معین الادب اردو بازار لاہور صفحہ 123)

اس وقت تک قرآن کریم خط کوفی میں لکھا جاتا تھا جس میں حروف پر نقطے نہیں ہوتے تھے مگر ”ذ“ اور ”ز“ اور ”ر“ اور ”ز“ اور ”س“ اور ”ش“ کی طرز کتابت میں فرق تھا جس کو عرب بخوبی پہچانتے تھے اور پڑھنے والے بالکل صحیح پڑھتے تھے۔ نیز کثرت تلاوت کے شوق اور حفاظ کی کثرت کی وجہ سے غلطی کا راہ پا جانا غیر ممکن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عثمانؓ، تینوں مبارک ہستیوں کے عہد میں قرآن مجید ایک ہی رسم الخط میں لکھا گیا اور حضرت عثمانؓ کے عہد کے نسخے جو محفوظ ہیں وہ خط کوفی میں ہیں اور ان میں حروف کے نقطات نہیں ہیں۔

(سیارہ ڈائجسٹ قرآن نمبر جلد سوم صفحہ 281، 282 شمارہ: اپریل 1970 شمارہ نمبر 4)

آج تمام امت مسلمہ میں ایک نظام کے تحت شائع ہونے والے نسخے ہائے قرآن میں اس بات کا خاص التزام کیا جاتا ہے کہ کتابت قرآن کے لیے رسم الخط جو بھی اپنایا جائے قرآن کریم کے الفاظ کو انہی حروف کے ساتھ لکھا جائے جن حروف کے ساتھ حضرت عثمانؓ کے دور میں صحابہؓ کے زیر نگرانی تحریر کیا گیا۔ حضرت عثمانؓ نے کتابت کے بعض معمولی فرقوں کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ عرب قوم اپنے لحن سے ان کو درست کر لے گی۔ چنانچہ قربان جائیں رسول امینؐ کے ان امانت دار پیر و کاروں کے کہ جنہوں نے کتابت کی ان معمولی اغلاط کی اصلاح بھی اپنے لیے جائز نہ سمجھی اور آج مستند نسخوں میں لفظ اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح حضرت عثمانؓ کے وقت لکھا گیا۔ ان اغلاط کی درستگی کرنا

علم کتب قرآن کے مطابق غلطی قرار دیا گیا اور اس طرح حفاظت قرآن کریم کے غیر معمولی ہونے کے بارہ میں ایک عظیم مثال قائم ہوئی۔ آج مستند نسخہ ہائے قرآن کریم میں پائی جانے والی کتب کی یہ معمولی اغلاط محافظت قرآن کا ایک لطیف اور خوبصورت ثبوت ہیں۔

65ھ میں حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن عمر اور نصر بن عاصم کو مقرر کیا جنہوں نے حروف کے باقاعدہ نقطے وضع کیے جو آج تک رائج ہیں۔ اب صورت حال یہ تھی کہ حروف کے اپنے نقطے بھی تھے اور حرکات کی علامت کے طور پر نقطے پہلے لگائے جا رہے تھے۔ اس لیے ان دونوں قسم کے نقطوں میں فرق رکھنے کے لیے جو نقطے حرکات کی علامت کے طور پر تھے انہیں سرخ روشنائی سے لکھا جاتا اور حروف کے اپنے نقطے سیاہی سے لکھے جاتے۔

(کتاب المصاحف الجزء الثالث: صفحہ 90)

(سیارہ ڈائجسٹ، قرآن نمبر، حوالہ مذکور)

پھر بنو عباس کے زمانہ میں (غالبا مامون الرشید کے عہد میں) مشہور عالم خلیل بن احمد (متوفی 175ھ) نے اہم خدمات سرانجام دیں۔ اس نے ہمزہ اور شد کی علامت مقرر کرنے کے علاوہ بنیادی کارنامہ یہ سرانجام دیا کہ حرکات (زیر، زبر، پیش) کی وہ شکل ایجاد کی جو آج بھی رائج ہے۔

(جلال الدین سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحہ 540، ناشر مطبعہ مجازی قاہرہ)

رسم الخط کی تاریخ میں عباسی وزیر ابن مقلہ (متوفی 328ھ) نے بڑی اہم کامیابی حاصل کی۔ اس نے خط نسخ ایجاد کیا۔ یہ خط بہت سادہ، واضح اور آسان ہے۔ اس طرح چوتھی صدی ہجری کے اواخر اور پانچویں صدی کے آغاز میں خط کوفی متروک ہو گیا اور اس کی جگہ خط نسخ نے لے لی۔ ساتویں صدی میں امیر علی تبریزی نے خط نسخ میں مزید اصلاح کر کے نیا خط، خط نستعلیق ایجاد کیا۔ یہ دونوں خط اب بھی مقبول اور مستعمل ہیں۔

(سیارہ ڈائجسٹ، قرآن نمبر، حوالہ مذکور صفحہ 284)

اب یہ تو واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کا ایک خاص متن تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں ہی محفوظ کر دیا تھا اور گزشتہ سطور میں ہم یہ بھی ثابت کر آئے ہیں کہ صحابہ کے دور میں قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی مگر پھر بھی بعض روایات کا سہارا لے کر شکوک پیدا کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ترتیب قرآن کے معاملہ میں کہا جاتا ہے کہ اصل ترتیب بدل دی گئی اور صحابہ نے قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب لگائی۔ اسی طرح اختلاف مصاحف، اختلاف قراءت وغیرہ کے معاملات میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئندہ صفحات میں باری باری ان بڑے بڑے موضوعات کا محاکمہ کرتے ہیں جنہیں اکثر مخالفین اسلام کسی نہ کسی انداز میں اپنی جہالت کی وجہ سے یا عوام الناس کی عدم واقفیت کا فائدہ اٹھانے کے لیے بار بار پیش کرتے ہیں۔

باب دوم

قرآن کریم میں تحریف کے الزامات کے جوابات

در اصل تہذیب حقیقی کی راہ وہی راہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام نے قدم مارا ہے جس میں سخت الفاظ کا داروئے تلخ کی طرح گاہ گاہ استعمال کرنا حرام کی طرح نہیں سمجھا گیا بلکہ ایسے درشت الفاظ کا اپنے محل پر بقدر ضرورت و مصلحت استعمال میں لانا ہر یک مبلغ اور واعظ کا فرض وقت ہے جس کے ادا کرنے میں کسی واعظ کا سُستی اور کاہلی اختیار کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ غیر اللہ کا خوف جو شرک میں داخل ہے اس کے دل پر غالب اور ایمانی حالت اس کی ایسی کمزور اور ضعیف ہے جیسے ایک کیڑے کی جان کمزور اور ضعیف ہوتی ہے۔

(حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام)

269- اختلافِ مصاحف

285- اختلافِ قراءت

311- متفرق الزامات

105- شیطانی آیات

111- واقعہ ابی سرح

177- ترتیب قرآن

256- آیتِ رجم

شیطانی آیات

شیطانی آیات کا قصہ ایک ایسا قصہ ہے جو کہ مخالفین کی طرف سے تکرار کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ رسول کریم نے قرآن کریم میں نعوذ باللہ رد و بدل کیا ہے۔ ذیل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شیطانی آیات کا قصہ دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی بددیانتی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اخلاق عالیہ کی ایسی کامل اور جامع صورت تھی اور آپ اخلاق فاضلہ کے ایسے بلند مقام پر فائز تھے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ دیانت دار قاری کو اس یقین محکم پر قائم کر دیتا ہے کہ آپ ایسی ادنیٰ ادنیٰ باتوں سے بالا۔۔۔ بہت بالا تھے۔ آپ کے بارہ میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کبھی ادنیٰ سی بھی بددیانتی کی مرتکب ہوئے ہونگے۔ ابن وراق بھی خدا تعالیٰ کے قائم فرمودہ حفاظت قرآن کے بے نظیر انتظام کے ہر پہلو کے بارہ میں عام قاری کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوا اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ قرآن کریم جن لوگوں کے ہاتھوں سے ہم تک پہنچا ہے وہ دیانت داری کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ اور یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش میں خود بددیانتی کی ایک اور قبیح مثال قائم کر دی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے سید المعصومین، الصدوق الامین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانہ بنانے کی پلید جسارت کرتا ہے۔ ابن وراق کہتا ہے:

We also have the case of the Satanic Verses, which clearly show that Muhammad himself suppressed some verses.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg 112)

”ہمارے پاس شیطانی آیات کا قصہ بھی ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ محمد (ﷺ) نے خود بھی

کچھ آیات خرد برد کی ہیں۔“

تاریخ اسلام میں صرف ایک قصہ پیش کیا جاتا ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی رد و بدل سے کفار کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی کفار کی ہی ایک سازش تھی جو حالات اور واقعات کے مطالعہ سے خوب کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس واقعہ کے بارہ میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی امیر الموعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

مسلمان مفسر کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو آپ نے پڑھیں کہ وتلك الغرانيق العلى و ان شفاعتھن لترتجى یہ قرآن کا حصہ نہیں تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ موجودہ قرآن میں یہ آیتیں نہیں ہیں۔ وہ اس کہانی کی حقیقت یہ بیان کرتے ہیں

کہ سورہ حج میں یہ آیت آتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَى الشَّيْطَانُ فِى أُمْنِيَّتِهِ لِعْنَى هَمْ نَى تَجْهْ سَى پهلے كوئى رسول اور نبى نهى بهىجا مگر اس كى به حالت تهى كه جب كههى وه وحى پڑھتا تها شيطان اُس كى وحى مىل اپنى طرف سى كچھ ملادى تها۔ پھر بعد مىل خدا تعالى شيطانى وحى كو منسوخ كر دى تها۔ اسى طرح جب رسول كريم صلى اللہ عليه وسلم نى سورۃ نجم كى آيتىل خانہ كعبه مىل پڑھىل تو شيطان نى (نعوذ باللہ من ذالك) آپ كى وحى مىل به بات ملادى كه وتلك الغرائق العلى وان شفاعتھن لترتجى جب رسول كريم كى زبان سى به الفاظ نكلے تو مكه كى كفار نى سمجھا كه آپ نى اپنے دىن مىل كچھ تبدلى كر دى هے اور آپ كى ساآھ سجده مىل شامل هوكئے۔ جب مكه مىل شور پڑگىا كه كفار مسلمان هوكئے هىل۔ تو كفار نى كها كه هَمْ نى تو صرف اس لى سجده كىا تها كه محمد رسول اللہ صلى اللہ عليه واله وسلم نى اپنى تلاوت مىل فىرماىا تها كه وتلك الغرائق العلى وان شفاعتھن لترتجى جس مىل صاف طور پر همارے بنوں كو تسليم كر لىا گىا تها۔ پس جب محمد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نى همارے بنوں كو تسليم كر لىا تو هَمْ نى بهى جواب مىل ان كى خدا كى آگے سجده كر دىا۔ جب كفار كا به قول مشهور هوا تو مفسرىن كهتے هىل كه چونكه حدىثوں سى ثابت هے كه اُس وقت كوئى آواز آئى تهى جس مىل به الفاظ سُنْے گئے تھے كه وتلك الغرائق العلى وان شفاعتھن لترتجى اس لى معلوم هوتا هے كه اس آيت كى بهى معنى هىل كه هر نبى كى زبان پر شيطان كههى كههى خدائى منشاء كى خلاف الفاظ جارى كر دىا تها۔ لىكن اس آيت مىل الفاظ جارى كرنى كا كوئى ذكر نهىل بلكه آيت كى صرف اتنى معنى هىل كه جب كوئى نبى دنيا مىل كوئى خواهش كرتا هے اور نبى كى خواهش بهى هوتى هے كه دنيا كى اصلاح هو جائے۔ اُس وقت شيطان جو اس كى كامىانى كو ناپسند كرتا هے اور اس كى راسته مىل رو كىل ڈال دىتا هے۔ القلى كى معنى ڈال دىننى كى هوتے هىل۔ پس الْقَى الشَّيْطَانُ فِى أُمْنِيَّتِهِ كى بهى معنى هىل كه اُس كى خواهشوں كى راسته مىل كوئى چىز ڈال دىتا هے اور ظاھر هے كه شيطان رو ك بهى ڈالے گا نبى كى مدد تو نهىل كرے گا۔ پس ان الفاظ سى به معنى لىنا كه شيطان اس كى زبان پر شر كىه الفاظ بهى جارى كر دىا هے صرآح ظلم هے۔ مگر مشكل به هے كه اوپر كى بيان كرده واقعه كى روايت كو بڑے پايه كى محدثىن نى صحىح تسليم كىا هے۔ چنانچھ ابن حجر جىسا محدث لكھتا هے ان ثلاثة اسانىد منها على شرط الصحىح (فتح البىان) لىعنى مختلف راوىوں سى جو بڑے ثقه تھے به روايت آتى هے جن مىل سى تىن روايتىل اتى معتبر هىل جتنى بخارى كى۔ اسى طرح بزاز اور طبرائى نى بهى اسے درست تسليم كىا

ہے (ہمیان الزاد) جس کی وجہ سے ہم اس روایت کو کبھی طور پر رد نہیں کر سکتے۔

لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اس کا حل سمجھا دیا ہے جو یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو مکہ والوں کو ان کا حبشہ جانا بڑا بُرا لگا اور انہوں نے اپنے بعض آدمی نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھیجے کہ کسی طرح اُس کو سمجھا کر امہاجرین کو واپس مکہ لے آئیں (سیرۃ الحلبیہ) اور تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت یہ سجدہ والا واقعہ ہوا۔ اس وقت کچھ مہاجرین حبشہ سے لوٹ کر مکہ آگئے اور جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ واپس کیوں آگئے ہو تو انہوں نے کہا ہمیں تو یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں (ابن خلدون) مکہ کے جو لوگ ان سے ملے تھے انہوں نے کہا کہ مکہ والے تو کوئی مسلمان نہیں ہوئے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے رسول نے قرآن کی کچھ آیتیں سی پڑھی تھیں جن سے شرک کی تائید ہوتی تھی۔ اس لیے تمہارے رسول کے ساتھ مل کر مکہ والوں نے بھی سجدہ کر دیا مگر جبکہ بعد میں تمہارے رسول نے ان آیتوں کو منسوخ قرار دے دیا تو مکہ والے پھر اپنے دین کی طرف لوٹ آئے۔ یہ باتیں سن کر وہ مہاجر پھر واپس حبشہ چلے گئے۔ (سیرۃ الحلبیہ)

سورۃ نجم کی تلاوت کا واقعہ اور مسلمانوں کے حبشہ سے آنے کا واقعہ اتنا قریب قریب ہے کہ خود جغرافیہ اس کو رد کرتا ہے۔ مکہ سے اس زمانہ کی بندرگاہ شعیبہ کا فاصلہ اکیلے سوار کے لیے کم از کم چار پانچ دن کا بنتا ہے۔ چنانچہ زرقانی میں لکھا ہے مسافتھا طویلة جدا کہ مکہ سے شعیبہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے اور وہاں سے حبشہ کی بندرگاہ کا فاصلہ بھی کوئی چار پانچ دن کا بنتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں لوگ صرف بادبانی کشتیوں میں سفر کرتے تھے اور وہ بھی ہر وقت نہیں چلتی تھیں کیونکہ کوئی جہاز رانی کی کمپنیاں نہیں ہوتی تھیں جب کسی ملاح کو فرصت ہوتی تھی وہ اپنی کشتی ادھر لے آتا تھا جس میں بعض دفعہ مہینوں کا فاصلہ ہو جاتا تھا اور حبشہ کی بندرگاہ سے لے کر اُس زمانہ کے حبشہ کے دارالحکومت کا فاصلہ کوئی دو مہینہ کے سفر کا ہے۔ گویا اگر یہ خبر سورۃ نجم کی تلاوت کے بعد مکہ سے جاتی اور پھر مسلمان وہاں سے روانہ ہوتے تو مختلف فاصلوں اور دربار حبشہ کی اجازت وغیرہ کے زمانہ کو ملا کر کوئی اڑھائی تین ماہ میں لوگ واپس آ سکتے تھے۔ مگر وہ سجدہ والے واقعہ کے بعد پندرہ بیس دن کے اندر اندر واپس آ گئے۔ کیونکہ مسلمان حبشہ جانے کے لیے جب میں روانہ ہوئے تھے اور شعبان و رمضان حبشہ میں ٹھہرے اور شوال میں واپس پہنچ گئے (زرقانی) اور حبشہ ٹھہرنے اور واپس مکہ پہنچنے کا کل عرصہ تین ماہ سے بھی کم بنتا ہے (سیرۃ الحلبیہ) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نجم کی تلاوت والا واقعہ بنایا گیا ہے یعنی بعض مکہ کے سرداروں نے پہلے سے یہ تدبیر سوچی اور کوئی سوار

حبشہ دوڑا دیا کہ مسلمانوں میں جا کر مشہور کر دو کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے محمد رسول اللہ (ﷺ) کے ساتھ مل کر سجدہ کیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اندازہ کیا کہ اب حبشہ والے آنے ہی والے ہوں گے تو سوچا کہ اُن کے آنے پر ہم کیا جواب دیں گے کیونکہ آ کر وہ دیکھیں گے کہ مکہ والے تو ابھی تک کافر ہیں اس لیے مشہور کر دیا کہ سجدہ کرنا (نعوذ باللہ) شرکیہ آیتوں کی وجہ سے تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ان آیتوں کو منسوخ کرنا جو درحقیقت منسوخ کرنا نہ تھا بلکہ یہ اعلان کرنا تھا کہ ایسی کوئی آیتیں میں نے نہیں پڑھیں کفار مکہ کے واپس کفر پر آجانے کی وجہ تھا۔ اب یہ تدبیر تبھی کامیاب ہو سکتی تھی جبکہ کوئی شرکیہ آیتیں اس مجلس میں کہلائی جاتیں جس میں آپ نے تلاوت کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ کسی خبیث کافر نے اپنے سرداروں کے مشورہ سے پیچھے سے یہ فقرے پڑھ دیئے اور بوجہ اس کے کہ سینکڑوں آدمی موجود تھے اور مکہ کے سارے رؤساء جمع تھے۔ شور میں پہچانا نہیں گیا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کفار نے مشہور کر دیا کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہ فقرے کہے ہیں اس لیے ہم نے سجدہ کر دیا تھا۔ جو لوگ مجلس کے کناروں پر بیٹھے تھے انہوں نے بھی چونکہ یہ فقرے اس مفتنی شیطان کے منہ سے سُنے تھے۔ جس نے یہ فقرے آپ کی تلاوت کے وقت باواز بلند کہہ دیے تھے۔ اس لیے اُن لوگوں نے بھی یہ خیال کیا کہ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہی یہ فقرے کہے ہوں۔ پس اس کہانی کا حل تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تلاوت کے وقت کفار نے پہلے سے سوچے سمجھے ہوئے منصوبہ کے مطابق کسی خبیث سے یہ فقرے بلند آواز سے کہلا دیے اور اُن کی سکیم کا ثبوت یہ ہے کہ مہاجرین حبشہ اُس وقت سے پہلے مکہ پہنچ گئے جبکہ سورہ نجم والے واقعہ کو سُن کر وہ مکہ آسکتے تھے۔ بلکہ اگر اُس وقت ہوائی جہاز بھی ہوتے تو جتنے وقت میں وہ آسکتے تھے۔ اُس سے بھی پہلے پہنچ گئے۔ پس اُن کا وقت سے پہلے مکہ آجانا بتاتا ہے کہ وقت سے پہلے اُن کو کہلا بھیجا گیا تھا کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں اور عین اُن دنوں میں جبکہ وہ سکیم کے ماتحت آسکتے تھے مکہ والوں نے اوپر کے الفاظ کسی خبیث کے منہ سے بلند آواز سے کہلا دیے۔

پھر اگر اُن حدیثوں کو نظر انداز کر دیا جائے جو صراحتاً قرآن کریم کے خلاف ہیں تو یہ سورہ ہی اس واقعہ کی تردید کرتی ہے کیونکہ ان آیتوں سے پہلے جن میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے شرکیہ مضمون ملا دیا تھا یہ ذکر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے بلکہ یہ بھی کہ دو دفعہ دیکھا ہے۔ چنانچہ پہلے فرمایا وَلَقَدْ رَاَهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ لَيْسَ اُسُ نِيَقِينًا اِسْنِي خَدَا كُوَايَاك دَفْعَا وُرْدِي كَهَا هِي اُوْر پَهْر فَرْمَايَا لَقَدْ رَاَي مِنْ اَيَاتِ رَبِّي الْكُبْرَىٰ مُحَمَّد رَسُوْل اللّٰهُ صَلِي اللّٰهُ عَلِيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

نے اپنے رب کے بڑے بڑے نشانات دیکھے ہیں اُس کے مقابلہ میں کافروں کو کہا گیا ہے کہ
 أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ یعنی بتاؤ تو سہی کہ کیا تم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی
 طرح اپنے بتوں کا کوئی نشان دیکھا ہے۔ یعنی تم نے نہیں دیکھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنے خدا کے بڑے بڑے نشانات دیکھے ہیں۔ یہ تو شرکیہ آیات سے پہلے کی آیتیں اور ان
 شرکیہ آیات کے بعد کی یہ آیت ہے کہ اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا
 اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ یعنی یہ بتوں کے نام تو تم نے خود رکھ لیے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس
 کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔

اب بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ شرک کے اقرار سے پہلے بھی شرک کی تردید کی آیتیں ہوں اور
 اُن کے بعد بھی شرک کی تردید کی آیتیں ہوں۔ باوجود اس کے کوئی شخص کہہ دے کہ ان دو
 تردیدوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زبان پر شیطان نے شرک کے کلمات جاری
 کر دیے تھے۔ شیطان کو تو ہمارے مفسر عقلمند کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیات میں
 شیطان کو فرشتوں کا استاد قرار دیتے ہیں اور شیطان اور خدا تعالیٰ کے مباحثے میں خدا کو ہرایا گیا
 ہے مگر اس کہانی والا شیطان تو کوئی گدھا معلوم ہوتا ہے کہ اُس کو شرکیہ کلمات کے لیے دو
 زبردست توحیدی آیات کے درمیان ہی مقام ملا۔ اس شیطان کو تو پاگل خانہ میں داخل کرنا
 چاہیے۔ ایسا اللہ خدا کے بندوں کو بہکا تا کس طرح ہے؟

پھر یہ لطیفہ دیکھو کہ یہ سورہ اس آیت پر ختم ہوئی ہے فَاسْجُدْ وَاَلِلّٰهِ وَاَعْبُدُوْا اِلٰهًا لَّا يَلُوْكَ اَللّٰهُ
 کے سامنے سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس آیت کو سُن کر کون گدھا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ
 محمد رسول اللہ نے کوئی شرکیہ کلمات کہہ دیے ہیں۔ غرض اس سورہ کی آیت ہی اس کہانی کو رد
 کر رہی ہے۔ یہ اندرونی شہادت ہے اور بیرونی شہادت یہ ہے کہ مہاجرین حبشہ اس کہانی کو سُن
 کر اس وقت مکہ میں واپس نہیں آسکتے تھے جس وقت وہ آئے۔ جیسا کہ میں ثابت کر چکا ہوں۔
 (تفسیر کبیر جلد ششم زیر آیت الحج 53 صفحہ 68 تا 71)

اب یہ واقعہ ہے شیطانی آیات کا اور یہ ہے اس کی حقیقت۔ اب بتائیں ابن وراق کہ کیا اعتراض ہے اس پر
 اور کون سی آیات ہیں جو رسول کریم نے چھوڑی ہیں؟ پس جب ابن وراق کو واقعہ ہی غلط پہنچا ہے تو پھر نتیجہ بھی غلط
 ہی ہے کہ ”یہ قصہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول کریم نے کچھ آیات خرد برد کی ہیں“

اس مذکورہ بالا واقعہ کے علاوہ ایک واقعہ عبد اللہ بن سعد ابی سرح کے حوالہ سے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے۔

واقعہ عبداللہ بن سعد ابی سرح

کتب تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے یعنی مکہ کی دور نبوت کے کاتبین وحی میں سے ایک عبداللہ بن سعد ابی سرح بھی تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی وحی قرآن کی کتابت کے فرائض سرانجام دیا کرتے تھے۔ جب سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو آنحضرت نے عبداللہ بن ابی سرح کو یہ آیات تحریر کروائیں۔ لکھتے لکھتے جب آیت 15 میں اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ أَنْشَأَ نَهْ خَلْقًا آخَرَ تَوَعَّدَ لَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے یہی الفاظ تحریر کر دو جو ابھی تم نے کہے ہیں۔ اس پر وہ سمجھے کہ شائد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی میں غیر اللہ کا کلام شامل کر دیتے ہیں اور اسلام سے برگشتہ ہو کر قریش مکہ سے جا ملے۔ اس واقعہ کو مستشرق بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ابن وراق نے بھی اس حوالہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے کہ آپ عبداللہ بن سعد ابی سرح شخص کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے اور خوب نمک مرچ لگا کر اس اعتراض کو اچھالا ہے۔ چنانچہ علی دہلوی کی قے چاٹتے ہوئے اس کے حوالہ سے ابن وراق کہتا ہے:

We also have the story of Abd Allah b. Sa'd Abi Sarah.....the last named had for some time been one of the scribes employed at Medina to write down the revelations. On a number of occasions he had, with the Prophet's consent, changed the closing words of verses. When the Prophet had said "And God is mighty and wise," Abd Allah suggested writing down "knowing and wise" and the Prophet answered that there was no objection. Having observed a succession of changes of this type, Abd Allah renounced Islam on the ground that the revelation, if from God, could not be changed at the prompting of a scribe such as himself. After his apostasy he went to Mecca and joined the Qorayshites.

(Why I Am Not A Muslim Page: 113,114)

عبداللہ بن سعد ابی سرح ان کاتبین میں سے تھے جنہیں مدینہ آ کر نبی (کریم صلی اللہ علیہ وسلم) نے وحی لکھنے پر مقرر کیا تھا۔ کئی مواقع پر اس نے نبی (ﷺ) کی رضا و رغبت سے آیات کے آواخر کو تبدیل کیا۔ نبی (ﷺ) کہتے کہ لکھو "واللہ عزیز حکیم" اور عبداللہ تجویز دیتا کہ "علیم حکیم" اور نبی (ﷺ) کہتے کہ ایسا لکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ عبداللہ بن ابی سرح

نے اس وجہ سے کہ اگر یہ خدا کی وحی ہے تو میرے جیسا کوئی کاتب اسے کیونکر بدل سکتا ہے، اسلام سے ارتداد اختیار کر لیا اور قریش کے ساتھ جا ملے۔

سب سے پہلے تو یہ امر پیش نظر رہے کہ واقعہ کی جو تفصیلات ابن وراق علی دانشی کے حوالہ سے بیان کر رہا ہے، تاریخ اسلام کی کسی مستند کتاب میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ پس ابن وراق کا اعتراض تو یہیں دم توڑ دیتا ہے۔

عبداللہ بن سعد ابی سرح مکی دور کے کاتب تھے جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور کچھ عرصہ بعد اسلام سے روگردان ہو کر واپس مکہ آ گئے۔ پس انہیں مدنی دور کا کاتب قرار دینا ابن وراق کی غلط بیانی ہے۔ شائد یہ دجل اس لیے کر رہا ہے تاکہ قاری کے دل میں یہ تاثر پیدا ہو کہ مکہ میں کتابتِ وحی قرآن نہیں ہوا کرتی تھی اور یہ کہ ابن وراق تو کہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کریم کی کوئی تحریر موجود نہیں تھی۔ پھر کاتبِ وحی اور وہ بھی مکی دور کا کہاں سے آ گیا؟ مگر اس دجل میں شائد یہ بھول گیا کہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کی کوئی تحریر سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ پس اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لی۔

عبداللہ بن ابی سرح کے واقعہ پر جب دیگر تاریخی حقائق کی روشنی میں اور اس دور کے حالات کو مد نظر رکھ کر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں تاریخی تضادات ہیں کیونکہ اول تو یہ روایت ہی قابل غور ہے کہ جس میں بیان ہوا ہے کہ آپ آیت فِتْبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کی وجہ سے شک میں مبتلا ہو کر اسلام سے روگردان ہو گئے تھے کیونکہ سورۃ المؤمنون مکی دور کے آخر میں غالباً بارہ نبوی کے لگ بھگ نازل ہوئی۔ ہجرت اس کے نزول کے بعد ہوئی ہے اور آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور مدینہ آنے کے بعد آپ کو اسلام کے بارہ میں شک پیدا ہوا ہے اور آپ واپس مکہ چلے گئے۔ پس فِتْبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کی کتابت مکہ میں ہوئی اور اس وقت جو واقعہ ہوا وہ آپ کے شک اور اسلام سے روگردان ہونے کی بنیاد نہیں بنا بلکہ اس وقت آپ ایمان پر قائم رہے اور ہجرت کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مدینہ میں اپنے آقا کے حضور حاضر بھی ہوئے۔ پس تاریخی شواہد اس نتیجہ کو تقویت نہیں دیتے کہ آیت فِتْبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کا آپ کے دل کی آواز سے توار دو وجہ ارتداد بنا اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ کے ارتداد کی وجہ کچھ اور تھی۔ وجہ یہ آیت نہیں تھی بلکہ مدینہ آ کر کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام سے روگردان ہوئے ہیں۔ قرین قیاس ہے کہ اس روگردانی کی وجہ سیاسی ہے کیوں کہ آنحضرت نے فتح مکہ کے وقت آپ کے قتل کا حکم دیا تھا اور آنحضرت نے جتنے لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا وہ سب سیاسی یا جنگی جرائم میں ملوث تھے۔ مذہبی اختلاف یا ارتداد پر کسی کو سزائے موت نہیں دی۔ واللہ اعلم۔ فتح مکہ کے وقت عبداللہ بن سعد ابی سرح نے تجدید بیعت کی اور آپ کے بارہ میں ذکر ملتا ہے کہ حَسُنَ إِسْلَامُهُ (اسد الغابہ لابن اثیر: الجزء الثانی: تذکرہ عبد اللہ

بن سعد ابی سرح) یعنی آپ اسلام میں ترقی کرتے چلے گئے۔

یہ عام فہم حقیقت ہے کہ آنحضرتؐ کے ہم عصر مخالفین اسلام خوب چوکے تھے اور اس تاک میں رہتے تھے کہ کمزوری کا کوئی پہلو ہاتھ لگے۔ چنانچہ کسی بھی ایسے واقعہ کو انہوں نے اسلام کے خلاف ضرور استعمال کرنا تھا۔ پس اگر عبداللہ بن ابی سرح درحقیقت اس طرح مرتد ہو کر واپس جاتے جس طرح ابن وراق کہہ رہا ہے تو مخالفین ضرور شور کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے دین کی صداقت کو شبہ میں ڈالنے کے لیے اس واقعہ کو پیش کرتے مگر ان کی طرف سے حیرت انگیز خاموشی ہے اور نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس واقعہ کو نہیں اُچھالا بلکہ ایسے قرآن ملتے ہیں کہ گویا عبداللہ بن سعد ابی سرح کا واقعہ چھپایا جا رہا ہے۔ اور نہ ہی صحابہؓ میں اس واقعہ سے کوئی بے چینی پیدا ہوئی۔ صحابہؓ کے بارہ میں ہم گزشتہ میں دیکھ آئے ہیں کہ حفاظتِ قرآن کے بارہ میں ان کا رویہ کس قدر حساس تھا۔ پس مخالفین اور صحابہؓ کی یہ پُراسرار خاموشی محقق کو دعوتِ تحقیق دیتی ہے۔

مخالفین کی خاموشی کے ضمن میں ایک حیرت انگیز حقیقت یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن ابی سرح کے واقعہ کے بعد ابوسفیان کا ہرقل کے دربار میں پیش ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہرقل نے پوچھا تھا کہ کیا اس نبی کے ماننے والوں میں سے کبھی کوئی شخص مرتد بھی ہوا؟ تو ابوسفیان نے جواب دیا، نہیں! (بخاری کتاب بدء الوحی باب بدء الوحی) اب ایک طرف تاریخ ذکر کرتی ہے کہ عبداللہ بن ابی سرح مرتد ہوئے اور قریش سے جا ملے اور دوسری طرف ابوسفیان کہتا ہے کہ کوئی مرتد نہیں ہوا۔ ابوسفیان تو کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کا کوئی موقع ملتا تو اسلام کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچانے کے لیے میں ضرور بولتا مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ جبکہ ادھر ایک واضح سچ کو چھپا رہا تھا جو اسلام کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار تھا اور جہاں ایک واضح موقع تھا اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا اور سراسر اعراض کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن سعد ابی سرح والے واقعہ کی نوعیت دراصل ویسی نہیں جیسا کہ ابن وراق نے نقل کیا ہے۔ اگر درحقیقت عبداللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہوتے جو ابن وراق ان کی طرف منسوب کر رہا ہے تو مخالفین کے ہاتھ اسلام کے خلاف ایک بہت زبردست ہتھیار آجاتا کیونکہ عبداللہ بن سعد ابی سرح تو اس درجہ باصلاحیت آدمی تھے کہ بعد میں جب مسلمان ہوئے تو حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں مصر کے گورنر رہے نیز شمالی افریقہ کے بہت سے علاقے مصر تیونس الجزائر وغیرہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ امیر معاویہؓ کے ساتھ مل کر اسلامی بحری بیڑے کی شان و شوکت میں اضافہ کیا۔ فلپ کے حتی آپ کے بارہ میں لکھتے ہیں:

"His greatest performance was his part in the establishment of the first Moslem fleet....In Muaviyah and Abdullah Islam developed its first two admirals."

(History of the Arabs Page:167)

یعنی مسلمانوں کا بحری بیڑہ بنانا ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ امیر معاویہؓ اور عبداللہ کی شکل میں

اسلام کو پہلے دو امیر البحر ملے۔

پس آپ کا یہ کہنا کہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رضامندی سے قرآن کریم میں رد و بدل کر دیا کرتا تھا، ایسا غیر اہم واقعہ نہیں تھا کہ کفار خاموش رہتے اور ابوسفیان آپ کے مرتد ہونے اور ان تفصیلات کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتا۔
عبداللہ بن سعد ابی سرح تو کئی دور کے کاتب تھے۔ تاریخ میں مدنی دور کے ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ روایت ہے:

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَا أَمَلَى عَلَيْهِ سَمِعَهَا يَقُولُ كَتَبْتُ بِهِ بِصِيرًا، قَالَ دَعَاهُ، وَإِذَا أَمَلَى عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيمًا كَتَبَ عَلِيمًا حَلِيمًا. قَالَ: وَقَدْ كَانَ قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالْأَمْرَانَ وَكَانَ قَرَأَهُمَا قَدْ قَرَأَ قِرَانًا كَثِيرًا. فَذَهَبَ مَتَنَصِّرًا فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ أَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ مَا شِئْتُ، فَيَقُولُ: دَعَاهُ. فَمَاتَ فَدُفِنَ فَنَبَذَتْهُ الْأَرْضُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: وَلَقَدْ رَأَيْتَهُ مَنبُودًا فَوْقَ الْأَرْضِ.

(مسند احمد بن حنبل الجزء الرابع، مسند انس بن مالك 3/246 كتاب المصاحف)

باب من كتب الوحي لرسول الله ﷺ

یعنی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی قرآن کی کتابت کیا کرتا تھا۔ آپ اُسے لکھواتے سمیعاً تو وہ بصیراً لکھ دیتا۔ آپ نے فرمایا جانے دو۔ اسی طرح جب آپ اُسے لکھواتے علیماً حکیماً تو وہ لکھتا علیماً حلیماً اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ جانے دو۔ اس نے سورۃ البقرۃ اور سورۃ ال عمران؛ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ حفظ کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بعد عیسائی ہو گیا اور جگہ جگہ یہ کہتا پھرتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ لکھواتے تھے اور میں کچھ اور لکھا کرتا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعرض نہ کرتے۔ اس کی موت کے بعد جب اُسے دفناتے تو زمین اس کی لاش اُگل دیتی اور ایسا دو، تین مرتبہ ہوا۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی لاش سطح زمین پر گلتی سڑتی دیکھی تھی۔

مذکورہ بالا روایت میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ابن وراق انہیں عبداللہ بن سعد ابی سرح کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ جبکہ روایت میں واضح ذکر ہے کہ یہ شخص مدینہ کا تھا، مدینہ میں ہی وحی لکھا کرتا تھا اور مدینہ میں ہی مرا تھا۔ نہ تو اس نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور نہ ہی مرتد ہو کر کبھی مکہ گیا تھا۔ جبکہ عبداللہ بن سعد ابی سرح کئی دور کے کاتب تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور جلد ہی واپس چلے گئے تھے۔ پس ابن وراق کے پیش کردہ علی داشتی کے حوالہ میں اس شخص کو عبداللہ بن ابی سرح کا نام دیا گیا ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔

مذکورہ بالا روایت میں مذکور شخص کا ذکر حضرت امام بخاریؒ اپنی صحیح میں بھی کرتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ اس

زیادہ مستند روایت میں بیان تفصیلات ابن وراق کے کسی کام کی نہیں اس لیے ان سے اعراض کرتے ہوئے اپنے اعتراض کی بنیاد نسبتاً کمزور روایت پر رکھتا ہے جیسا کہ مستشرقین کا عام وطیرہ ہے۔ ابن وراق بخاری کی روایت اس لیے درج نہیں کرتا کیونکہ اس میں واضح طور پر درج ہے کہ یہ شخص جو بھی تھا مرتد ہونے کے بعد ایسی باتیں کیا کرتا تھا۔ جبکہ ابن وراق نے جو نسبتاً کم درجہ استناد کی حامل روایت چُنی ہے اور اُسے بھی مسخ کر کے پیش کیا ہے اس روایت کا راوی یہ بات کر رہا ہے نہ کہ مرتد ہونے والا شخص۔

بخاری کی شرح فتح الباری میں اس شخص کے بارہ میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ اس کا نام معلوم نہیں لیکن وہ حضرت انسؓ کے قبیلہ بنی نجار میں سے تھا اور عیسائی تھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان ہوا اور کچھ عرصہ بعد مرتد ہو کر پھر عیسائی ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مر گیا۔ (فتح الباری کتاب المناقب باب علامات النبوة) جبکہ عبد اللہ بن سعد ابی سرح قریش مکہ میں سے تھے اور آنحضور ﷺ کی وفات کے بعد لمبا عرصہ زندہ رہے اور اسلام کی قابل قدر خدمات کی سعادت پائی۔

بخاری کی روایت کے مطابق یہ شخص مرتد ہونے کے بعد کہتا پھرتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے وحی قرآن کے الفاظ بدل دیا کرتا تھا۔ اب واضح سی بات ہے کہ جب ایک شخص مرتد ہو گیا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارہ میں مخالفت کے جوش میں جھوٹ بھی بولے۔ عقل سلیم یہی گواہی دیتی ہے کہ وہ جھوٹ ہی بولا کرتا تھا۔ کیونکہ صحابہؓ کا نمونہ تو ہم دیکھ آئے ہیں کہ قرآن کریم کے بارہ میں کس قدر حساس تھا۔ تلاوت کے وقت عربی زبان کے ادنیٰ سے قبائلی فرق پر بھی صحابہؓ ایسے شخص کو گردن سے پکڑ کر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ حالانکہ یہ فرق درحقیقت کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ الہی اجازت سے آسانی پیدا کرنے کی خاطر اٹھایا گیا ایک قدم تھا۔ پس اس کو تو صحابہؓ برداشت نہیں کرتے گجایہ کہ ایک شخص آیات کے آواخر بدل دے اور صحابہؓ خاموش رہیں۔

ایک قابل غور بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن سعد ابی سرح کے قتل کا حکم جاری کیا ہوا تھا۔ اب اگر اس کے مرتد ہونے کی وجہ یہی تھی جو ابن وراق بیان کر رہا ہے تو پھر بنی نجار کے عیسائی کے بارہ میں بھی حکم جاری کیا جانا چاہیے تھا۔ خاص کر جب کہ تاریخ میں واضح ذکر ہے کہ اس نے الزام تراشی میں عبد اللہ بن سعد ابی سرح سے بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی تھی۔ مگر آنحضورؐ نے اس کے قتل کا حکم جاری نہ کیا بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ بنی نجار کے عیسائی کے قتل کا حکم جاری نہ کرنا اور عبد اللہ بن ابی سرح کے قتل کا حکم دینا بتاتا ہے کہ دونوں کے مرتد ہونے کی وجہ مختلف تھی۔ فتح مکہ کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بھی قتل کا حکم دیا ان سب کے پیچھے وجوہات سیاسی تھیں اور وہ سب لوگ جنگی جرائم کے مرتکب تھے نہ کہ اُن کا مرتد ہونا اُن کی سزائے موت کی وجہ تھا۔ عبد اللہ بن سعد ابی سرح بھی انہی میں سے ایک تھا۔ پس اس

کے مرتد ہونے کی وجہ بھی سیاسی ہی تھی۔ واللہ اعلم۔

پس روایات کے تجزیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ عبداللہ بن سعد ابی سرح کے واقعہ کو اس شخص کے واقعہ سے خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات اس شخص کی لی گئی ہیں جو بعد میں عیسائی ہو گیا تھا اور نام عبداللہ بن سعد ابی سرح کا لیا گیا ہے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ مدنی دور میں مرتد ہونے والے اس شخص کے بارہ میں بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مخالفین اسلام پر اسرار طور پر خاموش ہیں۔ نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک شخص اتنا واضح انداز میں ذکر کرتا ہے کہ وہ ایسا کیا کرتا تھا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی اسے کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی ابن وراق کی طرح عیسائیت کا ایک دجل تھا اور ایسا بھونڈا دجل تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر اس کی حقیقت آشکار ہو ہی چکی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کو بھی اس کا طریقہ واردات کچھ ایسا نہ بھایا کہ اسے وقعت دیتے یا پھر یہ کہ اس شخص کا کردار ایسا تھا کہ دوست اور دشمن سب اس کی بات کو اہمیت نہیں دے سکتے تھے اور اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی یا اس کا جھوٹا ہونا اتنا مسلم تھا کہ مخالفین بھی اُسے اسلام کے خلاف بطور گواہ پیش کرتے ہوئے ہچکچاتے اور خاموشی میں ہی عافیت سمجھتے تھے۔ واللہ اعلم۔

دوسری طرف عبداللہ بن سعد ابی سرح کا واقعہ بھی قطع نظر اپنی جملہ تفصیلات کے، ہمعصر مخالفین کی طرف سے کبھی اُچھلا نہیں گیا۔ حالانکہ عبداللہ بن سعد ابی سرح تو اس مقام اور مرتبہ کے انسان تھے کہ اگر ان کی طرف سے حفاظت قرآن کے سلسلہ میں کوئی الزام لگتا تو ایک شور مچ جاتا مگر اس حوالہ سے مخالفین کے کمپ میں مکمل خاموشی رہی۔ لیکن اب تلپیس یہ کی گئی کہ عبداللہ بن سعد ابی سرح کے حوالہ سے وہ کچھ کہا گیا جو مدنی دور میں عیسائی ہو کر مرجانے والا شخص کہا کرتا تھا۔ چنانچہ جب شخصیت تبدیل ہوئی تو واقعہ اہم ہو گیا۔ گویا اُس عیسائی ہونے والے شخص کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی مگر اب جب یہ دجل کیا گیا کہ اُس شخص کی بات کو عبداللہ بن سعد ابی سرح کی شخصیت کے سائے میں پیش کیا گیا تو شخصیت معتبر ہو گئی اور نتیجہً تفصیلات بھی اہم ہو گئیں۔

پس جب اُس دور کے ہمعصر مخالفین اسلام ان دونوں واقعات کو غیر اہم سمجھتے ہیں اور انہیں ان واقعات میں اسلام کے خلاف کوئی ثبوت نظر نہیں آتا تو آج پندرہ سو سال گزر جانے کے بعد ان واقعات کی بنیاد پر کیونکر اعتراض کیا جاسکتا ہے؟ ان واقعات کو مسخ کر کے اعتراض کی صورت میں پیش کرنا دجل و فریب کے سوا کچھ نہیں۔

عبداللہ بن سعد ابی سرح کے واقعہ کے غلط یا صحیح ہونے سے قطع نظر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبی پر نازل ہونے والی وحی الہی کا پرتو اور لوگوں پر بھی پڑ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیونکر ہوتا ہے؟ تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ یہ امر اہل علم پر مخفی نہیں کہ نبی کے وقت انتشار نورانیت ہوتا ہے اور نبی پر نازل ہونے والی وحی کا پرتو سعید فطرت لوگوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی بخش تحریرات سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

”یہ بات بھی یاد رہے کہ زمانہ کے فساد کے وقت جب کوئی مصلح آتا ہے اس کے ظہور کے وقت پر آسمان سے ایک انتشار نورانیت ہوتا ہے۔ یعنی اس کے ساتھ زمین پر ایک نور بھی اترتا ہے اور مستعد دلوں پر نازل ہوتا ہے تب دنیا خود بخود بشرط استعداد نیکی اور سعادت کے طریقوں کی طرف رغبت کرتی ہے اور ہر ایک دل تحقیق اور تدقیق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نامعلوم اسباب سے طلب حق کے لئے ہر ایک طلب حق کے لئے ہر ایک طبیعت مستعدہ میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے غرض ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو مستعد دلوں کو آخرت کی طرف ہلا دیتی ہے اور سوئی ہوئی قوتوں کو جگا دیتی ہے اور زمانہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک انقلاب عظیم کی طرف حرکت کر رہا ہے سو یہ علامتیں اس بات پر شاہد ہوتی ہیں کہ وہ مصلح دنیا میں پیدا ہو گیا پھر جس قدر آنے والا مصلح عظیم الشان ہو یہ غیبی تحریکات اسی قوت سے مستعد دلوں میں اپنا کام کرتی ہیں۔ ہر ایک سعید الفطرت جاگ اٹھتا ہے اور نہیں جانتا ہے کہ اس کو کس نے جگایا۔ ہر ایک صحیح الجہلت اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور نہیں معلوم کر سکتا کہ یہ تبدیلی کیونکر پیدا ہوئی۔ غرض ایک جنبش سی دلوں میں شروع ہو جاتی ہے اور نادان خیال کرتے ہیں کہ یہ جنبش خود بخود پیدا ہو گئی لیکن درپردہ ایک رسول یا مجتہد کے ساتھ یہ انوار نازل ہوتے ہیں چنانچہ قرآن کریم اور احادیث کی رو سے یہ امر نہایت انکشاف کے ساتھ ثابت ہے۔“

(شہادت القرآن، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 313، 312)

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”سو ملائکہ اور روح القدس کی تنزل یعنی آسمان سے اترنا اسی وقت ہوتا ہے جب ایک عظیم الشان آدمی خلعتِ خلافت پہن کر اور کلام الہی سے شرف پر کر زمین پر نزول فرماتا ہے روح القدس خاص طور اس خلیفہ کو ملتی ہے اور جو اس کے ساتھ ملائکہ ہیں وہ تمام دنیا کے مستعد دلوں پر نازل کئے جاتے ہیں۔ تب دنیا میں جہاں جہاں جو ہر قابل پائے جاتے ہیں سب پر اُس نور کا پرتو پڑتا ہے اور تمام عالم میں ایک نورانیت پھیل جاتی ہے اور فرشتوں کی پاک تاثیر سے خود بخود دلوں میں نیک خیال پیدا ہونے لگتے ہیں۔“

(فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 حاشیہ صفحہ 12)

اسی طرح ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس کی تعلیم انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ جو کچھ قرآن کریم میں بیان ہے ہر سعید فطرت روح اسے تسلیم کرے گی۔ اور جو جتنا سعید فطرت ہوگا

اتنا ہی اس کا دل قرآنی تعلیم سے مشابہ ہوگا۔ چنانچہ یہ واقعہ اور بہت سے دیگر واقعات اس دعویٰ کی صداقت میں دوسرے دلائل کے علاوہ ایک پختہ دلیل ہیں۔ چنانچہ منافقین کا جنازہ پڑھنے سے ممانعت، احکام حجاب کا نزول، مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنانا وغیرہ مضامین پر مشتمل آیات قرآن کریم کی تعلیم کے سعید انسانی فطرت کے عین مطابق ہونے کی دلیل کے طور پر بطور تعلیم قرآن کریم میں نازل ہوئیں۔

علاوہ ازیں آیت فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اس سے قبل بیان ہونے والے مضمون کا ایک طبعی نتیجہ ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ صرف عبداللہ بن سعد ابی سرح کی ہی زبان پر یہ آیت جاری نہیں ہوئی بلکہ مدینہ آ کر جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنون کی ہی آیات حضرت زید بن ثابت کو لکھوائیں تو یہی آیت دوسرے صحابہ کی زبان پر بھی جاری ہوئی۔ حضرت زید بن ثابتؓ روایت کرتے ہیں کہ:

املى على رسول الله ﷺ هذه الآية ” وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ “ الى ” فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ “ فقال معاذ بن جبل ” فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ “ فضحك رسول الله ﷺ فقال له معاذ بم ضحكت يا رسول الله، قال بم ختمت - ” فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ “

(حافظ طبرانی: المعجم الاوسط متوفى، سنہ 360 جلد 5 حدیث 4654)

حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ المؤمنون کی آیات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ سے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تک املا کروا رہے تھے تو معاذ بن جبل بے اختیار بول اٹھے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس پر رسول اللہ ﷺ ہنس دیے۔ معاذ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے تو آپ نے فرمایا تمہارے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہنے پر (کیونکہ یہ بھی وحی کا حصہ ہے)۔

ایک اور جگہ بھی یہ روایت ملتی ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے سورۃ المؤمنون کے آیات ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ تَكَ سُنِينَ تو آپؐ کے دل سے بھی بے اختیار یہی صدا بلند ہوئی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

(حافظ طبرانی: المعجم الاوسط متوفى، سنہ 360 جلد 6 حدیث 5658)

اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دیگر صحابہؓ کے دل کی آواز گواہ ہوگئی کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے متن قرآن میں درج نہیں کروائی بلکہ وحی الہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے میں ایک حکمت یہ بھی ہوگی کہ عبداللہ بن سعد ابی سرح کے بعد مزید ایک گواہی مل گئی کہ یہ آیت اپنے مضمون کی حسن ترتیب کی وجہ سے ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ تک مضمون سننے کے بعد پاک طینت سامع کے دل سے خود بخود ہی پھوٹ پڑتی ہے۔

علامہ آلوسیؒ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ان ذلك من حسن نظم القرآن الكريم حيث تدل صدور كثير من آياته
(علامہ محمود آلوسی: روح المعانی جلد 10 صفحہ 16 تفسیر سورة المؤمنون
آیت فتبارك الله احسن الخالقين)

یعنی یہ آیت یقیناً قرآن کریم کے حسن ترتیب کی بہترین مثال ہے کہ قرآن کریم کی آیات
کے اعجاز پر بہت سے لوگوں کے دل گواہی دیتے ہیں۔

خلاصہ

عبداللہ بن سعد ابی سرح کا واقعہ ایک دوسرے شخص کے واقعہ سے خلط ملط کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے ایسا کوئی ثبوت اُس دور کے مخالفین کے ہاتھ نہیں لگا کہ وہ اسے اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے۔ اس طرح دوسرا شخص جو کوئی بھی تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ مخالفین اسے اسلام یا قرآن کے بارہ میں شکوک پیدا کرنے کے لیے بطور گواہ استعمال کر سکتے۔ پس یہ دونوں واقعات اُس دور کے مخالفین اسلام کے نزدیک اسلام کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی جائے اعتراض تھے۔ اعتراض پیدا کرنے کے لیے روایات کو خلط ملط کر کے اُس شخص کے واقعہ کو عبداللہ بن سعد ابی سرح کے حوالہ سے پیش کر کے عدل و انصاف کا خون کیا گیا۔ نیز یہ بھی مد نظر رہے کہ از روئے تاریخ عبداللہ بن سعد ابی سرح کے اسلام سے رُوگرداں ہونے کی وجہ کتابت قرآن نہ تھی۔ جہاں تک عبداللہ بن ابی سرح کے وحی الہی سے توارک کا تعلق ہے تو یہ جائے اعتراض نہیں کیونکہ نبی الزمان کی آمد کے وقت انتشارِ نورانیت ہوتا ہے اور سعید فطرت لوگوں کو بھی خدا تعالیٰ ایمان کی پختگی کے لیے نبی پر نازل ہونے والی وحی الہی سے کچھ حد تک سرفراز کر دیتا ہے۔

علاوہ ازیں یہ کہ قرآن کریم کی آیات میں خاص ربط ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ پس انسانی فطرت سے جو آواز اُٹھتی ہے اسے قرآن کریم نے نہایت حسین اور دلکش پیرایہ میں الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ یہ آواز مختلف مواقع پر بعض دیگر صحابہؓ کے دلوں سے بھی اُٹھی اور عبداللہ بن سعد ابی سرح کے دل سے بھی وہی آواز اُٹھی۔ اسی فطرتی سعادت کی وجہ سے آپؐ نے دوبارہ آغوشِ اسلام میں آن پناہ لی اور صحابہؓ کے نقوش پا پر چلتے ہوئے اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور سچے جانثار اور خدمت گزارِ دین بن کر زندگی گزاری۔

ان دو واقعات کو خلط ملط کر کے ابن وراق یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں رد و بدل کیا ہے۔ اب جب واقعات کی حقیقت تو قاری پر کھل ہی چکی ہے۔ اب ان واقعات کو غلط انداز میں پیش کر کے جو غلط نتیجہ نکال رہا ہے اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ کیا ایسا سوچا بھی جاسکتا ہے؟

رسول کریم ﷺ قرآن کریم میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تھے

ابن وراق نے متنازعہ آیات اور عبداللہ بن سعد ابی سرح کے واقعات کو تاریخی طور پر مسخ کر کے پیش کر کے قاری کے ذہن میں یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ (معاذ اللہ) رسول معصوم و صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم بھی قابل اعتبار نہیں تھے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے حالات کے مطابق کچھ رد و بدل کیا ہو۔ کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا اور اس بات میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور حفاظت کے تمام ظاہری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم تک پہنچا لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ جو خدا نے نازل کیا ہے وہی ہم تک پہنچا ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں خود ہی کوئی رد و بدل کر دیا ہو؟ ولیم میور بھی ایک جگہ قرآن کی بے نظیر حفاظت کا اعتراف کرتے ہوئے ساتھ ہی ان الفاظ میں نیش زنی بھی کر جاتا ہے کہ:

"What we have, though possibly created and modified by himself, is still his own."

ترجمہ۔ اب جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ گویا بالکل ممکن ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم) نے اپنے زمانہ میں اسے خود بنایا ہو اور بعض دفعہ اس میں خود ہی بعض تبدیلیاں بھی کر دی ہوں مگر اس میں شبہ نہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہمیں دیا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے آپ نے قرآن کریم میں اپنی طرف سے کچھ رد و بدل کیا ہو اس کے جواب میں اول تو یہ کہنا ہی کافی ہے کہ یہ صرف ایک شک یا صرف ایک دعویٰ ہے جو کہ ثبوت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے کہ واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں کوئی رد و بدل کیا ہے۔ جو دو واقعات تم نے پیش کیے ہیں وہ تاریخ حقائق کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں۔ پس اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ شک غلط اور بے بنیاد ہے اور شک کرنے والے کی اندرونی غلاظتوں کا ایک نمونہ ہے۔ ابن وراق کی طرح مذکورہ بالا سطور میں ولیم میور نے بھی سراسر ظلم کی راہ اپنائی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ تو تسلیم کر لیا کہ رسول کریم کے صحابہ نے کمال دیانت داری اور عشق و وفا کے بے نظیر نظارے دکھاتے ہوئے قرآن کریم بلا کم و کاست ہم تک پہنچایا۔ مگر ان صحابہ کے آقا و مطاع، جن کی تربیت نے صحابہ کو دیانت داری کے یہ اعلیٰ اسلوب دکھائے اور اپنے مولیٰ سے ایسی محبت سکھائی جس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے قرآن کریم کا حیثیت کلام الہی غیر معمولی اکرام کیا اور اپنی جانیں نچھاور کر کے اس کی حفاظت کی، اُس مرتب اعظم پر بلا ثبوت اعتراض کر دیتا ہے۔ کیا جو نمونہ صحابہ نے محافظت قرآن کے ضمن میں دکھایا وہ اُن کا آقا نہیں دکھا سکتا

تھا؟ کیا حضرت عیسیٰ کے اس قول پر ولیم میور کو ایمان نہیں کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔“ جب صحابہؓ کے اخلاق کی شان ایسی بلند تھی تو پھر ان کے آقا کی شان بلند تو وہم و گمان سے برتر ہے۔ پھر لطف یہ کہ دوسری جگہ خود ہی اپنے اس قول کو رد بھی کر دیتا ہے جہاں یہ گواہی دیتا ہے کہ:

"Our authorities all agree in ascribing to the youth of Mohammad a modesty of deportment and purity of manners rare among the People of Mecca... and he received the title, by common consent, of Al-Ameen, the Trustworthy."

(W. Muir: Life of Mohammad, London 1903. Introduction pg 17)

ہماری تمام تر تحقیقات اس معاملہ میں متفق ہیں کہ محمد (ﷺ) کی جوانی توازن اور پاکیزگی کا شاہکار تھی جو اس دور کے عربوں میں مفقود تھا۔.... آپ کو خطاب ملا تھا۔ الامین!

سب سے بڑھ کر قابل اعتماد

دُنیا کی عام عدالتوں میں بھی اگر کسی پر کسی جرم کا مقدمہ بنایا جائے تو باوجود اس کے کہ ملزم کی عصمت اور پاک دامنی کوئی ثابت شدہ امر نہیں ہوتا اور نہ ہی دوست دشمن کا اس پر اتفاق ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسے اعلیٰ اخلاقی مرتبہ و مقام کا ہے کہ اس سے ایسا جرم سرزد ہونا محال ہے۔ بلکہ اگر جانتے بھی ہوں کہ یہ شخص اس قماش کا ہے کہ اس سے غلط حرکت یا جرم سرزد ہونا بعید از قیاس نہیں ہے تو پھر بھی مقدمہ قائم کرنے والے سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے اور تسلی بخش ثبوت مہیا نہ کر سکنے پر اس ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ بلکہ ثبوت مہیا نہ ہونے پر عدالت ملزم کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ ایسا مقدمہ قائم کرنے والے یعنی مدعی کے خلاف ہتک عزت اور ہرجانہ کا دعویٰ بھی کرے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دُنیا میں بد باطن اور گندے دل و دماغ والے لوگ شرفاء کا جینا حرام کر دیں۔ ہر بے شرم جسے جھوٹ بولنے سے صرف سزا کا خوف ہی روک سکتا ہے، کھل کر اپنی غلطیوں سے معاشرہ کو خراب کرتا چلا جائے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ط إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (یونس: 37)

اور ان میں سے اکثر ظن کی پیروی کرتے ہیں اور حتمی بات کے مقابل پر اندازوں کی تو کوئی

اہمیت نہیں ہو سکتی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مہذب معاشرہ میں کسی عام شخص پر بھی بلا ثبوت جھوٹ کا الزام لگانا بُرا فعل سمجھا جاتا ہے بلکہ اشتہاری مجرموں پر بھی اگر کوئی نئی فرد جرم لگائی جائے تو بھی ثبوت پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر انبیاء، جن کی پاک دامنی پر ہم عصر مخالف اور موافق گواہ ہوتے ہیں۔ جان کے دشمن بھی ان کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ کروڑ ہا بندگان خدا ان کا اسوہ اپنی زندگیوں میں بطور اخلاق کے اپناتے ہیں اور

ان پاکیزہ ہستیوں کی عشق و محبت سے اپنی زندگی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان پاکیزہ ہستیوں کے بارہ میں بلاشبوت اس امر کے کہ انہوں نے کسی کے سامنے مسودہ میں کوئی تحریف کی ہو یا مسودہ بناتے ہوئے کسی سے مدد لی ہو یا کسی کو اس امر میں اپنا راز دان بنایا ہو یا کبھی موت جیسی تکلیف سامنے دیکھ کر خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو، فوراً تہمت لگانے پر تیار ہو جانا اور ہزاروں گواہیوں کے مقابل پر عدم علم کو بنیاد بنا کر، بیہودہ اندازے لگاتے ہوئے حقیقت کو رد کر دینا کہاں کی علمیت اور تنقیدی تحقیق ہے۔ اس رویہ کو تو خود دیانت دار محققین ناپسند کرتے ہیں اور اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ چنانچہ ممتاز مستشرق Jeffrey Lang اور کیرم آر مسٹر انگ اس بارہ میں وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستشرقین ایک طرف تو احادیث کو قابل اعتراض ٹھہراتے ہیں اور پھر خود ہی ان میں سے مستند روایات کو چھوڑ کر غیر مستند حصہ کو اپناتے ہیں اور اس پر اپنے غلط اندازوں کی بنیاد رکھتے ہیں اور اسلام اور قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے خود اپنے ہی مسلمہ قوانین کو جھٹلا دیتے ہیں۔ انہیں خیالات کا اظہار ممتاز مستشرق Edward Said نے بھی کیا ہے:

(Jeffrey Lang, Struggling to Surrender, Maryland: Amana Publications, 1994, p.92) and (Edward Said, Orientalism, NY: Pantheon Books, 1978)

اور پھر خاص طور پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ میں ایسا رویہ اختیار کرنا کہاں کی دیانتداری اور علمی دنیا میں کس مقام کا حامل ہوگا کہ جن کی سیرت اور سوانح مستند ترین تاریخی ثبوتوں کے ساتھ ناقابل تردید دلائل سے بھری پڑی ہے کہ قرآن کریم آپ نے بلا تحریف و تبدل ہم تک پہنچایا ہے۔ کسی بھی تاریخی طور پر مسلمہ واقعہ کو اندازے لگا کر اگر رد کیا جانے لگا تو پھر کسی بھی چیز کی صداقت پر کھنے کی کوئی کسوٹی باقی نہ رہے گی۔ اگر مستند تاریخی حقائق کو ان بے پر کے اندازوں سے آلودہ کیا جانے لگا تو تاریخ پر کون یقین کرے گا؟ لیکن افسوس صد افسوس کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مکارم اخلاق کو نظر انداز کرتے ہوئے بار بار اس قسم کے قیافے اور بلاشبوت اندازے سادہ لوح اور ناواقف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور مزید حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں رد و بدل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں اور رد و بدل نہ کرنے کے بیشمار ثبوت موجود ہیں۔ پھر جس شخص کا دن رات کا کام تعلیم قرآن ہو اس سے تو بھول چوک بھی محال نظر آتی ہے اور دانستہ تبدیلی تو ممکن ہی نہیں رہتی کیوں کہ جب آیت ایک دفعہ لکھوادی اور لوگوں نے حفظ کر لی اور اپنے پاس تحریری صورت میں محفوظ کر لی تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ آنحضرت کوئی تبدیلی کریں اور صحابہ سوال نہ اٹھائیں اور ہم عصر مخالفین بھی خاموشی اختیار کر لیں؟ ان تمام تر ثبوتوں کے باوجود بھی معاندین کا رویہ نہیں بدلتا۔ اسی قسم کے گندے اور خلاف واقعہ حملوں کے پرتبصرہ کرتے ہوئے حضرت مرزا ابوالدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”مجھے تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ کہلاتے ہوئے اور تہذیب کا دعویٰ کرتے ہوئے کروڑوں انسانوں کے روحانی پیشواؤں پر قیاسی باتوں کی بنا پر کس طرح حملہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ خود ان لوگوں کے اخلاق اس قدر گرے ہوئے اور ذلیل ہوتے ہیں کہ انسانیت کو ان سے شرم آتی ہے۔ ان کی یہ جرأت محض اس وجہ سے ہے کہ اس وقت عیسائیوں کو حکومت حاصل ہے اور ان کو یہ شرم بھی نہیں آتی کہ جب مسلمان دنیا پر حاکم تھے اور مسیحیوں کا حال اس سے بھی پتلا تھا کہ جو اس وقت مسلمانوں کا مسیحیوں کے مقابل پر ہے اس وقت بھی مسلمانوں نے یسوع ناصری کے بارہ میں سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے۔ مسلمانوں نے ہزار سال تک مسیحی ممالک پر حکومت کر کے ان کے سردار کی جس عزت کا اظہار کیا کاش مسیحی لوگ دو تین سو سال کی حکومت پر ایسے مغرور نہ ہو جاتے کہ اس نبیوں کے سردار پر اس طرح درندوں کی طرح حملے کرتے اور مسلمانوں کے اس احسان کا کچھ تو خیال کرتے کہ انہوں نے یسوع کے خلاف کبھی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا۔“

(تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 253)

اس بحث کے دراصل دو پہلو ہیں۔ اول یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک انسان تھے کہ آپ کی ذات سے ادنیٰ سی بددیانتی کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی بحث نہیں۔ نزول قرآن کے وقت خدا تعالیٰ کی تقدیر اور منشاء کے مطابق حالات ہی ایسے تھے کہ اگر آپ چاہتے بھی تو قرآن کریم میں رد و بدل نہیں کر سکتے تھے۔ ذیل میں ہم دونوں پہلوؤں پر باری باری بات کرتے ہیں۔

جہاں تک ابن وراق کے اس قول کا تعلق ہے جو وہ شیطانی آیات کے قصہ کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ”یہ قصہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آیات خرد برد کی ہیں“ اور پھر اپنے اس لچر اعتراض کو قوی کرنے کے لیے عبداللہ بن سعد ابی سرح کا قصہ تاریخی طور پر مسخ کر کے پیش کرتا ہے، تو اس ضمن میں عرض ہے کہ ان دونوں واقعات کی حقیقت تو قاری پر روشن ہوگئی ہے پس ان کو بنیاد بنا کر جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانتداری کے اعلیٰ معیار پر قائم نہیں تھے، وہ بھی ڈھے جاتا ہے۔ بلکہ نتیجہ اس کے برعکس نکلتا ہے کہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ انتہائی درجہ کی جھوٹی اور فریب دینے والی قوم سے تھا اور اس واقعہ سے آپ کے مخالفین کی بددیانتی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ تو کھلم کھلا تسلیم کرتے تھے کہ جہاں بھی انہیں موقع ملے گا وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی بھی جھوٹ گھڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر قل شاہ حبشہ اور ابوسفیان کے مابین جو بات چیت ہوئی اس میں ابوسفیان اپنی اسی نیت کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر موقع ملتا تو

ضرور جھوٹ بولتا (بخاری کتاب بدء الوحی باب بدء الوحی) مگر مزید یہ بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی موقع پر آپ کے بارہ میں یہ شک کیا ہی نہیں جاسکتا کہ آپ ادنیٰ سی بھی بددیانتی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، آپ کی سیرت و سوانح کے مطالعہ سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی آپ کی ذات کی طرف کوئی بھی ادنیٰ سے ادنیٰ بددیانتی کبھی منسوب کی ہی نہیں جاسکتی اور دوست تو دوست دشمن بھی اس حقیقت کے قائل ہیں۔ خدا تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی اور مومنین بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین بھی یہی گواہی دیتے اور کھلم کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں اپنی ذات سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری پر یقین ہے۔ ذیل میں ہم نقلی اور عقلی دلائل کی روشنی میں اس حقیقت کا مطالعہ کرتے ہیں۔

قرآن کریم سے ثبوت

قرآن کریم میں بار بار یہ گواہیاں ملتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پوری دیانت داری کے ساتھ، بنا تحریف و تبدل کے قرآن کریم ہم تک پہنچایا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاثِتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُؤَخِّرُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (يونس: 16)

ترجمہ: وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آئے، یا اسے ہی تبدیل کر دے۔ تو کہہ دے کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ میں تو اس کی ہی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں یقیناً ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:-

”مطلب یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے متعلق تمام باتیں وحی الہی سے کرتا ہوں اور اس میں خود کوئی دخل نہیں دیتا۔ لہذا میں کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر سورۃ سے پہلے لکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے نہ کہ وحی سے۔ یا ترتیب قرآن اور سورتوں کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے خود رکھے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے فرماتا ہے کہ قرآن مجید سے متعلق میں ہر بات کو وحی سے ہی طے کرتا ہوں اور یہ کہنا کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو وحی الہی سے ایسا کرتے تھے مگر صحابہؓ نے اپنی مرضی سے بعض تغیرات کر دیئے۔ بالکل ہی خلاف عقل ہے۔ کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو حق نہیں تھا تو صحابہ کو کیسے یہ حق حاصل ہو سکتا تھا اور وہ، سوائے اس کے کہ نعوذ باللہ انہیں مرتد قرار دیا جائے کب ایسا کر سکتے تھے؟“
(تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 45 زیر تفسیر یونس: 16)

حضرت امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”سورۃ یونس کی اس آیت کے تحت کئی مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب خود خدا تعالیٰ نے قائم کی تھی اور اپنے رسول کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں دیا تھا کہ اپنی مرضی سے قرآن کریم کی ترتیب میں کوئی تصرف کرتے۔“

(تفسیر کبیر لالرزازی الجزء 17 صفحہ 55، 56 دارالکتب العلمیہ تہران الطبع الثانی)

تفسیر القرطبی میں سورۃ یونس آیت 16 کے تحت لکھا ہے۔

یہ آیت اس بارہ میں ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ قرآن کو کسی اور ترتیب سے پیش کریں مگر آپ کو اس کا اختیار نہ تھا۔..... اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ جو کچھ بھی آپ فرماتے تھے جب کہ وہ وحی پر مبنی تھا تو وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا نہ کہ آپ کی طرف سے۔

(محمد بن عبداللہ القرطبی: الجامع لاحکام القرآن جزو 8 صفحہ 319)

تفسیر القاسمی میں سورۃ یونس آیت 16 کے تحت لکھا ہے:

یعنی کفار نے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اس قرآن کو کسی اور ترتیب سے یا کسی اور شکل میں پیش کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ جواب سکھایا کہ قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَآءِ نَفْسِيْ یعنی یہ کام میرے ہاتھ میں نہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات بعینہ پہنچانے پر مامور ہوں۔

(محمد جمال الدین: محاسن التاویل۔ تفسیر القاسمی جلد 6 صفحہ 14)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی ان الفاظ میں درج فرماتا ہے:

بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ (بنی اسرائیل: 106)

یعنی حق کے ساتھ یہ کلام ہم نے نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ - (العنكبوت: 51)

یعنی اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی آیت کیوں نازل نہیں ہوتی۔ تو کہہ دے کہ آیات تو اللہ کے پاس ہیں۔ میں تو صرف ایک واضح طور پر متنبہ کرنے والا ہوں۔

گویا جب کسی معاملہ میں کفار کوئی آیت طلب کرتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے کہ یہ سب تو خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی آیت کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ اور اس بات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دے دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کبھی قرآن میں اپنی طرف سے کوئی آمیزش نہیں کی۔ پھر خدا تعالیٰ قرآن کریم کو غیر اللہ کے دخل سے بھلی پاک ہونے کی ایک ایسی دلیل دیتا ہے جس کی بنیاد پر ہر زمانہ میں قرآن کریم کی حفاظت کو پرکھا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء: 83)

اگر یہ قرآن خدا کے سوا غیر اللہ کی طرف سے بھی ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔

قرآن کریم کی تعلیمات پر نظر ڈالنے سے بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ یہ بہر حال کلام الہی ہی ہے۔ قرآن میں ایسی تعلیمات اور ایسے علوم کی طرف راہنمائی ہے کہ اس کو بہر حال خدا کا کلام تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کو اختلاف مذاہب اور اختلاف عقیدہ کے باوجود گزشتہ چودہ سو سال میں ساری دنیا میں اہل علم تسلیم کرتے رہے ہیں کہ رسول کریم کے زمانہ میں جب کہ سائنسی علوم میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، کس طرح قرآن کریم جدید سائنس کے مطابق حقائق بیان کرتا ہے اور کئی سربستہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اگر یہ کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو پھر آج قانون قدرت سے اس کا اختلاف نظر آجاتا جیسا کہ دوسرے مذہبی صحائف میں نظر آتا ہے۔ یہاں یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی طرف سے شامل کی ہوتی تو اس آیت لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (یعنی اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کسی طرف سے ہوتا تو اس میں ضرور کثیر اختلاف ملتا) کے تحت یہ قلعی کھل چکی ہوتی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایسے کلام میں جو انسانی دسترس سے بالا ہو، کوئی انسانی کلام مل جائے اور پھر اس طرح مل جائے کہ انسانی کلام اور کلام الہی بالکل مشابہ ہو جائیں اور دونوں میں باہمی فرق ہی نہ کیا جاسکے؟ یوں تو قرآن کریم اپنے الہی کلام ہونے کے دلائل بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ مگر براہ راست مضمون سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس تفصیل میں نہیں جاسکتے اور صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ فاضلہ جو آپ کی صداقت کا ثبوت ہیں، تک ہی محدود رہتے ہیں گویا احساس بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ مضمون بھی فی ذاتہ لامحدود ہے۔

محمد ہست بر ہان محمد

قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی راستبازی کو آپ کی صداقت کی ایک دلیل کے طور پر پیش کر کے مخالفین کو ملزم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَأَكُمْ بِهِ زَفَقَد لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
بِمَنْ قَبْلِهِ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (یونس: 17)

یعنی کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ ہی تمہیں اس بارہ میں

کچھ بتاتا۔ میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟

ذیل میں ہم آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اخلاقِ فاضلہ کے حوالہ سے آپ کی سوانح کا مطالعہ کر کے اس

معاملہ میں روشنی حاصل کرتے ہیں کہ آیا اس بلند کردار کا انسان قرآن کریم میں تحریف کا مرتکب ہو سکتا تھا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سوانحِ حیات ایک آپ کے دیانت دار ہونے ایسا ناقابل تردید ثبوت ہے جو آپ کی ذات کے حوالہ سے پیدا کیے جانے والے تمام تر شکوک کو جڑ سے اُکھاڑ پھینکتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے روزمرہ کے معاملات میں اتنے شفاف کردار کا حامل ہے کہ ساری زندگی کسی ایک جھوٹ اور ادنیٰ سی بھی بددیانتی کا مرتکب نہیں ہوا، کیسے ممکن ہے کہ پہلی بددیانتی ہی اتنی بڑی کرے کہ خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جھوٹ گھڑ کر بنی نوع کو گمراہ کرنا شروع کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم چالیس سال تک ایک ایسے شہر میں سکونت پذیر رہے جو کئی لحاظ سے عرب کا مرکز تھا اور اس مرکزی شہر میں آپ نے ایک بھرپور معاشرتی زندگی گزاری۔ ایک ایسی معاشرتی زندگی کہ سارا معاشرہ آپ کی زندگی کے شب و روز کا معائنہ کرنے کے بعد آپ کے اعلیٰ اخلاق اور عادات اور اُجلے چال چلن کا گواہ بن چکا تھا۔ زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہ بچا تھا جو دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا اور لوگوں کے سامنے نہ آیا۔ پس اس معاشرہ سے جب ہم آپ کی سیرت کے بارہ میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے باہر اور گھر کے اندر ہر جگہ آپ کی عظمت کردار کی گواہیاں بکھری پڑی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی صداقت اور دیانت کے حوالہ سے آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کی صداقت اور دیانت پر گواہیاں

آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صداقت کی اور آپ کے امانت دار ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل آپ کے ابتدائی اسلام لانے والے صحابہ ہیں۔ آپ پر پہلے ایمان لانے والے نہ تو کوئی اجنبی تھے اور نہ ہی ناواقف۔ بلکہ سب سے پہلے وہی لوگ ایمان لائے جو آپ کو قریب سے دیکھ اور پرکھ چکے تھے اور آپ کی زندگی کے لمحہ لمحہ کے

گواہ تھے۔ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص دھوکہ دہی کا مرتکب ہو رہا ہو اور اس کے دھوکے میں سب سے پہلے وہ لوگ آئیں جو اسے سب سے زیادہ جانتے ہوں؟ یہ شہادت ایسی مضبوط ہے کہ کسی دشمن کو بھی اس کے تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ چنانچہ جان ڈیون پورٹ آپ کے بارہ میں رقم طراز ہیں:

"It is strongly corroborative of Mohammed's sincerity that the earliest converts to Islam were his bosom friends and the people of his household, who, all intimately acquainted with his private life, could not fail to have detected those discrepancies which more or less invariably exist between the pretensions of the hypocritical deceiver and his actions at home."

(John Davenport: An Apology for Mohammed and the Koran, London: 1869 P. 17)

یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے صداقت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں میں آپ کے قریبی دوست، گھریلو تعلقات والے افراد تھے جن کا آپ کی ذاتی زندگی سے قریبی واسطہ تھا، جنہیں کبھی کوئی ایسی معمولی سی بات بھی نہیں ملی جو ایک دھوکہ دینے والے کی معاشرتی زندگی اور ذاتی زندگی میں فرق کرتی ہے۔

اس حوالہ سے جب ہم آپ کی سوانح پر نظر ڈالتے ہیں تو حیرت انگیز اور ناقابل تردید دلائل کا انبار نظر آتا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک شوہر کے طور پر زندگی گزاری۔ بیوی انسان کی سب سے قریبی ساتھی ہوتی ہے، اس سے خاوند کی کمزوریاں بھی چھپی نہیں رہ سکتیں اور خوبیاں بھی دوسروں کی نسبت اس کی نظر میں پہلے آجاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی ایک گواہی تو آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارہ میں ہے۔ یعنی ایک تو وہ گواہی ہے جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت میں دیانت داری اور صداقت کا سُن کر عملی انداز میں یوں دی کہ آپ سے شادی کر کے اپنا سب کچھ آپ کو سونپ دیا۔

مگر کیا یہ عملی گواہی کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھی؟ کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے خلاف واقعہ متاثر ہوئی تھیں؟ نہیں بلکہ یہ گواہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کرنے کے بعد اور بھی نکھر کر سامنے آئی۔ حضرت خدیجہ شادی کے قریباً 15 سال آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی کیا گواہی دے رہی ہیں، ملاحظہ کریں۔ بخاری کی ایک لمبی روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے بعد انتہائی درجہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يَخْذِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَتَّصِلُ الرَّحْمَ وَتَتَّصِقُ الْحَدِيثَ

(بخاری کتاب بدء الوحي باب بدء الوحي)

یعنی ہرگز نہیں! اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں

اور راست گوئی سے کام لیتے ہیں۔

اور پھر اس گواہی کو اس وفا شعار نبیؐ نے شعب ابی طالب کے مصائب سے اٹے ہوئے اور مشکلات سے پُر دور میں رات دن ساتھ رہ کر اور بھی زیادہ مضبوط کیا۔ بیوی کی گواہی تو ہم نے دیکھی۔ یہ کوئی ایسی گواہی نہیں کہ عام نظروں سے دیکھی جائے۔ دن رات کا ساتھ اور 15 سال میں ہزاروں چھوٹے بڑے معاملات میں آپؐ کے اسوہ کا بنظر غور مطالعہ کرنے کے بعد یہ گواہی دی جا رہی ہے۔

اب بیٹی کی گواہی بھی سنیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی حضرت فاطمہؑ، آپ کی آخری بیماری میں ایک دفعہ آپؐ کے پاس بیٹھی تھیں۔ آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگ گئیں۔ آپ نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے ایک مرتبہ رونے اور دوسری مرتبہ ہنسنے کا سبب پوچھا تو کہا کہ پہلی بار آپؐ نے یہ خبر دی کہ اسی مرض میں میری وفات ہو جائے گی۔ یہ سُن کر میں رونے لگی۔ پھر آپؐ نے بتایا کہ اہل بیت میں سے میں وہ پہلی فرد ہوں گی جو آپؐ کے بعد فوت ہو کر آپؐ سے ملوں گی۔ یہ سُن کر میں ہنسنے لگی۔ (بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی و وفاته) ذرا غور کیجیے! کبھی کوئی اپنی موت کی خبر سُن کر بھی ہنسا ہے؟ یہ ہنسی ایک بیٹی کی اپنے باپ کی صداقت کی کتنی بڑی گواہی ہے کہ ساری زندگی اپنے باپ (ﷺ) کو قریب سے دیکھنے کے بعد اسے اپنے باپ (ﷺ) کی سچائی پر پورا پورا یقین ہے کہ جس طرح زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی اسی طرح وہ تمام بشارتیں جو اس نے اپنی بیٹی کو بعد الموت اپنی اور بیٹی کی قربت اور جنت کی سیادت کی دی ہیں وہ برحق اور ضرور پوری ہونے والی ہیں۔ پس اگر یہ یقین ہو تو پھر کون موت کی خبر ہنس کر نہ سنے گا؟

بیوی کی گواہی سنی، بیٹی کی سنی۔ اب ذرا ایک قریبی دوست کی گواہی بھی سُن لیجیے۔ حضرت ابو بکرؓ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی طرف سے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر شہر سے باہر تھے۔ جب واپسی کے راستہ میں لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بارہ میں سُننا تو فی الفور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا جو انہوں نے سُننا ہے وہ سچ ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دعویٰ کی صداقت کے ثبوت میں کچھ کہنا چاہا تو عرض کی کہ صرف یہ بتا دیجئے کہ آیا جو میں نے سُننا ہے وہ سچ ہے؟ آپ نے پھر کچھ بتانے کے لیے لب کھولے تو پھر عرض کی کہ صرف یہ بتا دیجیے کہ آپ نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ جب آپ نے اثبات میں جواب دیا تو حضرت ابو بکرؓ فوراً ایمان لے آئے اور کوئی دلیل طلب نہ کی اور

طلب کرنے کی ضرورت بھی اس لیے محسوس نہ کی کہ آپ کی زندگی کے شب و روز ان کے سامنے تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ ماننے پر مجبور کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سوائے سچائی کے اور کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ (بخاری کتاب المناقب باب مناقب ابو بکرؓ)

آپ نے ایک بہت ہی بھرپور سماجی زندگی گزاری۔ تفصیل کے بیان کا تو موقع نہیں لیکن ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں رضا کاروں کے ساتھ مل کر کام کیا..... جنگ کے دوران افواج کی مدد کی..... اصلاح معاشرہ کی خاطر بنائی گئی تنظیموں میں بھی شامل ہوتے رہے جیسے حلف الفضول..... سماجی تقریبات میں بھی شریک ہوتے رہے..... لین دین کے معاملات کی طرف نظر کیجیے۔ پھر بڑے بڑے کامیاب تجارتی دورے کیے..... اتنی بھرپور اور کھلی کتاب کی مانند سماجی اور معاشرتی زندگی گزاری کہ اس کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان سب پہلوؤں پر قریب سے نظر کرنے کے بعد پھر اس قوم کا آپ کو ”صادق“ اور ”امین“ کا خطاب دینا ایک ایسی گواہی ہے کہ اس شان کی گواہی اور کسی شخصیت کے حق میں کبھی نہیں دی گئی۔ یہ ایک ایسی گواہی ہے کہ ہر قسم کے تعصب کو چیرتی ہوئی آج بھی مخالفین کے دلوں کی گہرائیوں سے نکل آتی ہے۔ چنانچہ ویلیم میور جیسا متعصب انسان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ:

"Our authorities all agree in ascribing to the youth of Mohammad a modesty of deportment and purity of manners rare among the People of Mecca... Endowed with a refined mind and delicate taste, reserved and meditative, he lived much within himself, and the ponderings of his heart no doubt supplied occupation for leisure hours spent by others of a lower stamp in rude sports and profligacy. The fair character and honorable bearing of the unobtrusive youth won the approbation of his fellow-citizens; and he received the title, by common consent, of Al-Ameen, the Trustworthy."

(William Muir: Life of Mohammad, London 1903. Introduction pg 17)

یعنی ہماری تمام تر تحقیقات اس معاملہ میں متفق ہیں کہ محمد (ﷺ) کی جوانی توازن اور پاکیزگی کا شاہکار تھی جو اس دور کے عربوں میں مفقود تھا۔ ایک اُجلا ذہن اور نفیس طبیعت، مفکرانہ انداز، وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتے تھے۔ اپنے دل میں کسی گہری سوچ میں غرق۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بہت سے قیمتی اوقات مراقبہ میں گزارے جبکہ دوسرے لوگ وہ وقت کسی ادنیٰ درجہ کی مصروفیت یا کھیل تماشہ میں گزار دیتے تھے۔ شفاف کردار اور جوانی کے دنوں میں با کردار اطوار نے باقی بستی والوں کے دلوں کو جیت لیا تھا اور عوام میں آپ کو خطاب

ملا تھا۔۔۔ الامین۔۔۔ سب سے بڑھ کر قابل اعتماد!

یہ ہیں میور صاحب۔ تعصب نے جوش مارا تو کہہ دیا کہ ”ہوسکتا ہے کوئی رڈ و بدل کر دیا ہو۔“ جب حقائق کا مطالعہ کیا تو یہ گواہی دے دی۔ یہ ان متعصب مستشرقین کی فطرت کا حقائق سے تضاد کا ادنیٰ سا نمونہ ہے۔

معاشرہ میں ایسی نکھری اور اجلی شخصیت کے طور پر ایسا مشہور ہونا کہ ساری قوم کا آپ کو صادق اور امین کا خطاب دے دینا، یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرہ میں نیکی اور عمدہ چال چلن بالکل معدوم ہو چکا تھا اور ان اقدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ عزتوں کے پیمانے بدل چکے تھے۔ چنانچہ اس دور کی تاریخ اور ادب جو وہ معاشرہ پیش کرتا ہے اس کے مطابق ظلم زیادتی، فسق بدکاری، ناجائز حرکات اور دیوشیت عظمت کے پیمانے ٹھہر چکے تھے۔۔۔۔۔ اور اُس دور میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا بے داغ اسوہ اور بے نظیر اخلاق آج بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ کسی صاف معاشرہ میں اچھا بن کر رہنا مشکل نہیں۔ لیکن ایک گندگی سے لٹھڑے معاشرہ میں بے داغ کردار یقیناً عام حالات کی نسبت بہت زیادہ غیر معمولی بات ہے۔

عرب کی اخلاقی اور سماجی حالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کریں کہ اس دور میں ایسے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ اس شان سے کرنا کہ پورا سماج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی عظمت اور شوکت کے اپنے خود ساختہ پیمانوں کو خود ہی توڑ دیتا تھا اور آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دینے لگتا۔ کس درجہ عظیم الشان گواہی ہے! کس قدر مجبور تھی وہ قوم کہ جن کے ارباب بسط و کشاد، جب بھی حقیقی عزت اور مرتبہ کی بات آتی تو سراسی نوجوان کے آگے جھکاتے۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پہلے قوم کو گواہ بنایا کہ تم بتاؤ کہ اب تک کی زندگی پر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ اور پھر قوم کا گواہ بن جانا اور اس وقت یہ اعتراف کرنا کہ تمہاری گزشتہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی بات تمہارے منہ سے نہیں نکلی اور نہ ہی نکل سکتی ہے جو جھوٹی، ناقابل اعتبار اور سچائی کے معیار سے گری ہوئی ہو۔ جسے ہم رڈ کر سکیں اور گواہی بھی اس شان کی کہ کوئی ایک بھی تو نہ تھا جو پیچھے ہٹا ہو یا قوم کی گواہی میں اپنی گواہی شامل کرنے سے ذرہ بھی ہچکچایا ہو۔ فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تمہاری تباہی کی غرض سے جمع ہے تو میری بات مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں!!! کیوں کہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ کی ذات سے ہمیں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ یہ اقرار کوئی عام اقرار نہ تھا، تو می اقرار تھا۔ ذرا بنظر غور دیکھیے کہ اس قوم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کس قدر کامل یقین تھا کہ اہل مکہ کے چرواہے روزانہ اپنے مویشیوں کے ساتھ دور دور تک نکلتے تھے۔ صبح سے شام تک وہ لوگ صحرا نوردی کرتے۔ جب بھی حملہ ہوتا تو سب سے پہلے چرواہے ہی شکار بنتے۔ پس اگر درحقیقت کوئی لشکر ہوتا تو لازماً ان کو خبر ہوتی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ اپنے مویشیوں کے ساتھ خیر و عافیت سے لوٹے تھے اور اب اس دعوت میں

شریک تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو تو جھٹلادیا جو ابھی ابھی سب کچھ دیکھ آئی تھیں اور ”صادق“ کی خبر کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور اپنی آنکھوں سے زیادہ ”امین“ پر اعتماد کیا۔ کیا کوئی اور مثال ہے کہ پوری قوم کے لوگ اپنی اپنی ذات پر یقین کرنے سے زیادہ کسی ایک انسان کی صداقت پر یقین رکھتے ہوں؟ اس اعلان کو وہ لوگ سُن رہے تھے جو ابھی صحرا سے لوٹے تھے اور اب اس کی بات سُن رہے تھے جس کی شہادت پر اپنی آنکھوں کی شہادت سے زیادہ اعتبار تھا۔ تاریخ میں کسی کی صداقت پر اتنی مضبوط گواہی کوئی اور ہے تو سامنے لاؤ۔ تاریخ کے صفحات میں صرف ایک انسان ہی اس شان کا ہے اور بس۔ پس جب فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تمہاری تباہی کی غرض سے جمع ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا ہاں کیوں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ کیا ہی عظیم گواہی دی اس قوم نے اس موقع پر کہ ”ما جربنا عليك الا صدقا“ (بخاری کتاب تفسیر القرآن باب انذر عشیرتک الاقربین [الشعراء: 132]) کہ آپ کی ذات سے ہمیں ہمیشہ سچ ہی کا تجربہ ہوا ہے۔ وہ عرب کے وہ بدو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی کی تاریخ اور اس قانون شہادت کو کس طرح جھٹلا سکتے تھے جن کی گواہ تین نسلیں وہاں موجود تھیں۔ وہ بظاہر ایک جاہل اور وحشی قوم تھی مگر دلیل اتنی واضح، آسان فہم اور قوی پیش کی جا رہی تھی کہ بظاہر ایک بعید از قیاس بات بھی ماننے پر مجبور تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزشتہ زندگی کا حوالہ دے کر قوم سے بات کر رہے تھے جو حوالہ ماننے پر اس معاشرہ کا ہر شخص مجبور تھا۔ اللہ اللہ کس شان کی گواہی ہے۔ ”اگر میں کہوں کہ ایک لشکر جرار اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے،“ یعنی تم کہ جو ابھی ابھی اس دشت سے لوٹے ہو۔ سب کچھ خود دیکھ آئے ہو۔ اب بتاؤ اپنی آنکھوں کو جھٹلاتے ہو یا مجھے جھوٹا کہتے ہو؟ بیسیوں سرکس طرح جھک گئے جب وہ پُرشوکت آواز بلند ہوئی۔ سُننے والے آج بھی ان صداؤں کو سُن سکتے ہیں جو ان جھکی گردنوں کی تھیں کہ بخدا! اپنا آنکھوں دیکھا تو جھٹلا سکتے ہیں مگر اس صدوق کی خبر کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ہزار ہا اخلاقی گراؤوں کے باوجود جاہل مکہ ابھی ابن وراق کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ چڑھتے سورج کا انکار کر دیں۔ یہی تو وہ قانون شہادت ہے جس پر آج تک دُنیا قائم ہے۔ یہاں ابن وراق کے اس کتاب کے لکھنے کے بعد چھپ جانے کی وجہ پھر کھل جاتی ہے کہ ایسی حرکت کر بیٹھا ہے کہ جانتا ہے کہ اس کے بعد دُنیا کو مُنہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔

غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے اس معاشرہ کو یہ موقع دیا کہ وہ آزمائیں، دیکھ لیں اور گواہ بن جائیں۔ چالیس سال کوئی ایسا معمولی عرصہ نہیں کہ اس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال مل سکے کہ ایک شخص نے اس عرصہ میں اپنی قوم میں ایک بھر پور سماجی زندگی گزاری ہو اور پھر قوم اس کی صداقت پر ایسی متفق ہو گئی ہو کہ اپنی آنکھوں کو جھٹلانا تو آسان لگے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانا بس میں نہ رہے۔ ایک دشمن زبان

اس موقعہ پر یہ کہہ سکتی ہے کہ اس وقت تک قوم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے سب نے آپ کی صداقت کی گواہی دے دی۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی قوم تو 13 سال تک اس کے دعویٰ کے بعد بھی اسے سچا ہی سمجھتی رہی اور یہی گواہی دیتی رہی۔ ابو جہل کا وہ قول کیوں بھلا دیتے ہو ”انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ“ یعنی اے محمد ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے۔ ہم تو اس تعلیم کا انکار کرتے ہیں جو تو لایا ہے۔ (ترمذی ابواب التفسیر باب ومن سورة الانعام) ہرقل کے دربار میں ابوسفیان کی گواہی بھی ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ رسول کریم ﷺ کے بارہ میں اپنوں اور بیگانوں میں متفق علیہ یقین تھا کہ آپ کامل طور پر صادق انسان ہیں۔ چنانچہ جب ابوسفیان سے ہرقل نے پوچھا کہ کیا محمد (ﷺ) نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو اس نے واضح طور پر کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ بخاری میں ہے:

هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت لا

(بخاری کتاب بدء الوحی باب بدء الوحی)

(ابوسفیان کہتا ہے کہ قیصر نے پوچھا کہ) کیا تم اُس پر اُس کے اس دعویٰ سے قبل جھوٹا

ہونے کا الزام لگاتے تھے؟ تو میں نے جواب دیا: نہیں۔

ہرقل ایک جہاندیدہ اور عقل مند آدمی تھا وہ سمجھتا تھا کہ دعویٰ کے بعد تو اہل مکہ کچھ بھی کہتے ہوں گے کیونکہ دعویٰ کے بعد تو دشمنی پیدا ہوگئی ہے اور تو مخالف جھوٹ کا الزام لگا سکتے ہیں لیکن اگر دعویٰ سے قبل آپ کو سچا سمجھا جاتا تھا تو پھر ناممکن ہے کہ روزمرہ زندگی کے معاملات میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینے والا شخص خدا تعالیٰ کے معاملہ میں راستی اور راستبازی کو چھوڑ دے۔ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اس دعویٰ سے قبل وہ محمد (ﷺ) کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرتے تھے کہ نہیں۔ چنانچہ جب ابوسفیان نے باوجود دشمن ہونے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی تو ہرقل نے کیا خوب کہا:

فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكُذِبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكْذِبَ عَلَيَّ اللَّهُ

(بخاری کتاب بدء الوحی باب بدء الوحی)

یعنی میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جو شخص بنی نوع کے معاملات میں جھوٹ نہیں

بولتا ناممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جھوٹ بولے۔

پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اُس پیغام کی پوری دیانت داری سے حفاظت کی جسے آپ خدا کا پیغام کہتے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ اہل مکہ کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ کیا دشمن آنکھ کوئی ایک مثال دیکھ سکتی ہے، کوئی ایک مثال ___ کہ جب آپ غلط بیانی یاد دہو کہ وہی سے کام لیا ہو؟ وہ وقت تو یاد کریں جب کہ اہل مکہ کی چوٹی کی قیادت اس مسئلہ کو سلجھانے کے لیے

ایک جگہ موجود تھی۔ آج سیاست اور حکومت کے بل بوتے پر وہ لوگ مذہب کا فیصلہ کرنے چلے تھے اور تکبر، ظلم اور تعدی میں حد سے گزرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا کام اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ وہ لوگ جائز اور ناجائز اور سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ ان کے اکٹھا ہونے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس مشن کو کسی طرح بند کرنے کی کوئی ترکیب نکالی جائے اور اس کام کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ آج کی میٹنگ سے پہلے کتنے ہی حربے آزما چکے تھے اور نا کام ہو چکے تھے۔ پس آج کوئی بھی تدبیر، ہاں جائز یا ناجائز کوئی بھی تدبیر ہو تو لاؤ۔ کوئی ممکن العمل بات پیش کرو۔ ابھی ابوسفیان کی روایت کا ذکر گزرا ہے۔ اسی روایت میں یہ ذکر ہے کہ ابوسفیان کہتا تھا کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا مگر مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ گویا جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور اس کی گواہی بھی دے رہا ہے اور پھر بھی کوشش یہ جاری ہے کہ کسی بھی طرح، جھوٹ سے ہی سہی، بس اس آواز کو دبا لیا جائے۔ آج ایک ابوسفیان اس بددیانتی کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ تمام قیادت متفقہ طور پر کوشش کر رہی ہے۔ آج کسی ہر قتل کا خوف نہیں تھا۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ ایسی قوم تھی جس کے فسق و فجور کی دنیا آج بھی شاہد ہے۔ اسلام کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اس وحشی قوم کی قیادت آج جمع تھی جن کے پاس کوئی ضابطہ اخلاق نہ تھا۔ مذہب و عقیدہ کے اختیار کی آزادی تو انسان کا بنیادی حق ہے اور وہ ظالم حکومت اور طاقت کے زور پر یہ حق بھی چھین رہے تھے۔ سچ جھوٹ کا سوال نہیں تھا بس کسی بھی ایسی تدبیر کی تلاش تھی جو کارگر ہو، خواہ جائز ہو یا ناجائز۔ وہ حیران تھے کہ دنیا کو محمد (ﷺ) کے بارہ میں کیا کہیں۔ مختلف تدابیر زیر غور تھیں۔ جب یہ بات چلی کہ دنیا کو یہ کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ جھوٹ گھڑا جا رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک سردار نضر بن الحارث اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی مان جائے۔ محمد (ﷺ) کے اعلیٰ اخلاق اور اس کی صداقت اور امانت ہی تو ایک ایسا عنوان ہے جس پر قوم متفق ہے۔ یہی تو سب سے بڑی روک ہے۔ پس یہ کہنا کہ محمد (ﷺ) جھوٹا ہے گویا یہ کہنا تھا کہ اہل مکہ سب کے سب جھوٹے ہیں جو محمد (ﷺ) کو سچا کہتے ہیں۔ کون ہے جو ہم چند لوگوں کی بات مان کر ساری قوم کو جھوٹا کہے گا؟ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ایک قوم کی متفقہ شہادت کو جھٹلانا تھا۔ ہاں محمد کا صادق اور امین ہونا ہی تو وہ حوالہ تھا جو ان کی شیطانی چالوں کے آگے روک بنا ہوا تھا۔ چنانچہ فوراً ہی اس تدبیر کو اتفاق رائے سے رد کر دیا گیا۔ اس گواہی کی عظمت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ نضر بن الحارث ان نو افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی۔ اس گواہی کا یہ مطلب ہے کہ گویا نضر بن الحارث کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا قرار دینے کی نسبت آپ کو قتل کرنا آسان تھا۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن، ابو جہل جس نے اپنی زندگی اس مشن کی تباہی کے لیے وقف کر دی تھی، جب بھی

سچ اور جھوٹ کا ذکر آتا تو بے اختیار ہو جاتا۔ لا چاری سے کہہ اٹھتا کہ میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ محمد (ﷺ) جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں اس کی تعلیم غلط ہے (ترمذی ابواب التفسیر)۔ کوئی سردار ہر لحاظ سے غور کرتا تو بے اختیار ہو کر کہہ اٹھتا کہ یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ محمد (ﷺ) غلطی خوردہ ہے مگر یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر امیہ بن خلف کو بھی نہ بھولو۔ بے شک وہ بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا مگر آپ کی صداقت کی گواہی تو اس نے بھی دی تھی۔ وہ کہتا تھا ”واللہ ما یکذب محمد اذا حدث“ (بخاری کتاب علامات النبوة) کہ خدا کی قسم! محمد (ﷺ) جب بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا! الغرض یہ وہ گواہیاں ہیں جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ میں اُس دور میں اپنی بیگانوں اور دوستوں اور دشمنوں نے دیں۔

حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی گواہی آپ نے سنی کہ کس طرح اپنے آقا کی صداقت پر یقین کامل تھا کہ موت کی خبر پر بھی مسکرا دیتی ہیں۔ مگر بعینہ یہی گواہی ایک مخالف نے بھی تودی۔ جب وہ جنگ اُحد کے خاتمہ کے بعد رسول خدا (ﷺ) پر حملہ آور ہوا جب کہ آپ کو اُحد پر پناہ گزین تھے۔ ایسے میں آپ نے کمال شجاعت اور مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہؓ سے فرمایا کہ اسے حملہ آور ہونے دو اور نہ روکو اور خود آگے بڑھ کر اُس کے حملہ کے جواب میں اُس پر نیزہ سے وار کیا۔ نیزہ اسے لگا اور وہ شخص دیوانہ وار چلا آتا اور دُہائی دیتا ہوا واپس بھاگ گیا۔ اس کی قوم نے اُسے کہا کہ اتنا اوویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ زخم کاری تو نہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ میں ضرور اس زخم سے مر جاؤں گا کیونکہ مجھے ایک دفعہ محمد (ﷺ) نے کہا تھا کہ تیری موت میرے ہاتھ سے ہوگی۔ پس یہ تھا اُن لوگوں کا آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر یقین اور یہ یقین غلط نہیں تھا۔ اُس شخص کی موت اُسی زخم سے ہوئی۔ (بخاری کتاب المغازی ابواب غزوه اُحد)

پس اے دشمن نادان و بے راہ!!! ہم عصر نامی مخالفوں اور جانی دشمنوں نے بالاتفاق میرے آقا کو سچا اور راستباز کہا ہے۔ اب تو اپنی حسرتوں کی آگ میں جل بھی مرے تو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور بالفاظ مسیح الزماں:

اے ایسی طبیعت کے آدمی!! تو بھی اس قادر مطلق سے خوف کر جس سے آخر کار تیرا معاملہ ہے اور دل میں خوب سوچ لے کہ جو شخص حق کو پا کر پھر بھی طریقہ ناحق کو نہیں چھوڑتا اور مخالف پر ضد کرتا ہے اور خدا کے پاک نبیوں کے نفوس قدسیہ کو اپنے نفس امارہ پر قیاس کر کے دنیا کے لالچوں سے آلودہ سمجھتا ہے حالانکہ کلام الہی کے مقابلہ پر آپ ہی جھوٹا اور ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے ایسے شخص کی شقاوت اور بدبختی پر خود اس کی روح گواہ ہو جاتی ہے۔

(براہین احمدیہ چہار حصص روحانی خزائن جلد اول صفحہ 353، 354 ایڈیشن اول صفحہ 304)

میرے آقا کی صداقت کی یہ گواہیاں تو آج بھی دی جا رہی ہیں۔ ایک مستشرق، واشنگٹن آئرونگ، آپ کی سوانح کے مطالعہ کے بعد کہتا ہے:

"In his private dealings he was just. He treated friend

and strangers, the rich and the poor, the powerful and the weak, with equity, and was loved by the common people for the affability with which he received them, and listened to their complaints."

(Washington Irving: Mahomet and his Successors, London 1909, pp. 192)

یعنی اپنے روزمرہ کے معاملات میں آپ (ﷺ) عدل و انصاف پر کاربند تھے۔ آپ نے واقف اور ناواقف، امیر و غریب، طاقتور اور کمزور، سب کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک روا رکھا، اور عوام میں اس وجہ سے بہت محبوب ہو گئے کیونکہ آپ سب سے محبت سے پیش آتے اور ان کی حاجت روائی کرتے۔

ہم جھٹلانے والے سے پوچھتے ہیں کہ اس درجہ اعلیٰ اخلاق کا حامل انسان کہ جس کی سچائی پر اس قدر اندرونی اور بیرونی دلائل اکٹھے ہو گئے ہوں کہ اب تک کسی کی سچائی پر اتنے دلائل مہیا نہ ہو سکے ہوں، جس کی سچائی کی گواہی اپنوں نے دی اور بیگانے بھی اسے سچا ہی کہتے رہے، دوست بھی اسے سچا ہی کہیں اور دشمنوں کے پاس بھی اسے سچا تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ ایک قوم نے بحیثیت قوم اس کے سچا ہونے پر گویا اجماع کر لیا، اُس پر یکا یک ایسی کیا مصیبت ٹوٹی کہ اچانک اپنی ساری نیک نامی کو چھوڑ چھاڑ کر جھوٹ سے ایسا لپٹا کہ پھر موت تک اس سے الگ نہ ہوا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر ساری زندگی کبھی عام انسانوں پر تو جھوٹ نہیں باندھا مگر اب جھوٹ باندھا بھی تو خدا پر۔ کیا یہ ممکن ہے؟

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”بے انصافی ان کی اس سے ظاہر ہے کہ اگر مثلاً کوئی عورت کہ جس کی پاک دامنی بھی کچھ ایسی ویسی ہی ثابت ہو۔ کسی ناکردنی فعل سے متہم کی جائے تو فی الفور کہیں گے جو کس نے پکڑا اور کس نے دیکھا اور کون معائنہ واردات کا گواہ ہے۔ مگر ان مقدسوں کی نسبت کہ جن کی راستبازی پر نہ ایک نہ دو بلکہ کروڑ ہا آدمی گواہی دیتے چلے آئے ہیں بغیر ثبوت معتبر اس امر کے کسی کے سامنے انہوں نے مسودہ افترا کا بنایا یا اس منصوبہ میں کسی دوسرے سے مشورہ لیا یا وہ راز کسی شخص کو اپنے نوکروں یا دوستوں یا عورتوں میں سے بتلایا یا کسی اور شخص نے مشورہ کرتے یا راز بتلاتے پکڑا۔ یا آپ ہی موت کا سامنا دیکھ کر اپنے مفتری ہونے کا اقرار کر دیا۔ یونہی جھوٹی تہمت لگانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ پس یہی تو سیاہ باطنی کی نشانی ہے اور اسی سے تو ان کی اندرونی خرابی مترشح ہو رہی ہے انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راستبازی کی قوی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا ایسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی طرف سے موجود ہے جہاں فرمایا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ط

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سورۃ یونس الجزوا ۱۱) [یونس: ۱۷] یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افتراء

کروں۔ دیکھو میں چالیس برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افترا ثابت کیا؟ پھر کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں یعنی یہ سمجھ کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا۔ وہ اب خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا؟

(براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 108، 107 ایڈیشن اول صہ 115 تا 117)

پس تمام وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کیا تھا، قطع نظر اس سے کہ وہ دوست تھے یا دشمن، انہوں نے آپ کے سچا اور معتبر اور امین اور صادق ہونے کی گواہی دی۔ آج پندرہ سو سال گزرنے کے بعد کسی خناس صفت کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ افق تاریخ کے جگماتے ہوئے اُس صدوق کی سچائی اور اس امین کی دیانت داری پر انگلی اٹھا سکے۔ تاریخ اُن سے یہ حق چھین چکی ہے اور ہمعصر مخالف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کے کامل ہونے کی گواہی دے چکے ہیں۔ پس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ گواہیاں تسلیم کی جائیں جیسا کہ بہت سے مؤرخین نے تسلیم بھی کیں۔

پھر دعویٰ سے بعد کی زندگی بھی گواہ ہے کہ ہر قسم کے حالات پیش آمدہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانت داری اور صداقت کے پہلو پر تمام شرائط کے ساتھ کاربند رہے۔ آپ کی سیرت کا مزید مطالعہ کرنے سے مزید روشن ثبوت ملتے ہیں۔ آپ کو ہر طرح کے حالات سے گزرنا پڑا مگر آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس مقصد اعلیٰ سے منہ نہ پھیرا جس کی خاطر آپ مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ نے ہر قسم کی آسائش کو ٹھکرا دیا اور ہر قسم کی بڑی سے بڑی تکلیف کا بھی مقابلہ کیا۔ ذیل میں ہم ان دونوں انتہاؤں کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ حقیقت واضح ہو کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی کی حفاظت اور اس الہی امانت کو بحفاظت بنی نوع کے سپرد کرنے میں کس درجہ جانفشانی سے کام کیا چنانچہ:

آنحضور ﷺ نے ہر قسم کی آسائش کو رد کر دیا اور قرآن میں کوئی رد و بدل قبول نہ کیا

چالیس بھی طرح طرح کی تھیں تاکہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام کو بدل دیں۔ یہ مشہور واقعہ بھی کس کے علم میں نہیں کہ کفار قریش کے سرکردہ افراد ایک گروہ کی صورت میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور عرض کی کہ محمد (رسول اللہ ﷺ) کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارے معبودوں کو بُرا بھلا نہ کہے۔ اس کے بدلہ میں ہم اسے حکومت میں حصہ دار بنا سکتے ہیں یا اگر دولت چاہتا ہے تو جتنی چاہے ہم اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ عورت چاہیے تو اشارہ کرے عرب کی اعلیٰ حسب و نسب والی خوبصورت ترین عورت حاضر کر دیتے ہیں۔ بس ہمارے بتوں کو غلط کہنا چھوڑ دے۔ اگر ان میں کوئی بات نہیں مانتا تو صرف اتنا کریں کہ اپنی پناہ کے دائرہ سے نکال دیں۔ ایک پل کو ٹھہر کر غور کیجیے۔ یہ پیش کش معمولی

نہ تھی۔ ذرا سوچیں کہ ایک امی بے کس، جس کا نہ کوئی جتھا تھا اور نہ ہی گھرانے کی طاقت میں سے کچھ حصہ رکھتا تھا۔ جس نے اعلیٰ مقامات پانے کے لیے اس وقت کے دستور کے مطابق ظلم اور تعدی کا کوئی رستہ اختیار نہ کیا تھا۔ آج ظاہری لحاظ سے اس کی اکلوتی پناہ گاہ بھی چھن رہی تھی۔ ایک بوڑھا سہارا تھا جو آج لغزش میں تھا۔ دنیاوی شان و شوکت حاصل کرنے کا کوئی خواہش مند ہوتا تو ڈگمگا جاتا کہ اتنی دیر کی کاوشوں اور تکالیف کا آخر کار ثمرہ یہ مل رہا ہے اور اُس دور میں اس سے بڑھ کر اور کس فائدہ کی توقع کی جاسکتی تھی؟ سرداری اور قیادت مل رہی تھی۔ عزت و دولت مل رہی تھی۔ سردارزادی مل رہی تھی۔ یہ بھی سوچا جاسکتا ہے کہ اگر الہی پیغام پہنچانے کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے تو اس کامیابی اور طاقت کے حصول کے بعد اس کی راہ اور آسان ہو جائے گی۔ سال ہا سال کی تکالیف برداشت کرنے کے صلہ میں آج سب کچھ حاصل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ قیادت، عزت، دولت اور اعلیٰ حسب و نسب کی عورت کا مطلب ہے ایک قبیلہ کی سیادت اور دوسرے قبیلہ کی قیادت سے اہم باعزت تعلق اور اس کو ٹھکرانے کا مطلب ہے کہ اب تک جو حاصل ہوا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ اور دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اب تک کا حاصل تھا ہی کیا؟ بوڑھا چچا۔ ایک ہی کمزور سہارا اور وہ بھی اُس روز چھن رہا تھا۔ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ تیرے اس رویہ سے میں کمزور اور بوڑھا اب اور بھی لڑکھڑا رہا ہوں اور جو غریب صحابہ اب تک آپ کے ساتھ جمع ہوئے تھے اگر وہ بھی انہی دنیاوی فوائد کے حصول کی خاطر جمع ہوئے تھے تو اب وہ بھی تو چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے، کہ ایک ہی موقع آیا اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد اور وہ بھی گنوا دیا۔ کوئی بھی ادنیٰ سی ادنیٰ عقل کا انسان اگر ہوتا تو ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھاتا اور وہ تمام مقاصد حاصل کر لیتا جس کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ کیا ہی نادر موقع تھا قرآن کریم میں رد و بدل کر کے وہ کچھ نہ کہتے جو مخالفین کے مذہبی جذبات کو انگیزت کرتا تھا۔ اب تو ان کا یہ مطالبہ بھی نہ تھا کہ سب کچھ بدل دیں۔ بس اتنا سا تو مطالبہ تھا کہ ہمارے بتوں کو بُرا نہ کہو۔ یہ آیات نکال دیتے اور سب کچھ مل جاتا۔ بلکہ آیات نکالنا بھی نہ پڑتیں کیونکہ شیطانی آیات کے قصہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سارے اختلافات ختم کرنے کے لیے بتوں کے حق میں چھوٹا سا تعریفی کلمہ ہی کافی تھا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دو پھر بھی یہ ناممکن ہے۔ (بخاری کتاب المناقب باب قصۃ ابی طالب) آنحضرت اور آپ کے صحابہ کی صداقت و دیانتداری اور ایمان کی پختگی کا یہ ثبوت کیا ہی قوی ہے۔ اس وقت رسول کریم کو وہ تمام اشیاء مل رہی تھیں جو آج کل کے مغربی معاشرے میں پلنے والے مستشرق بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے ان کے حصول کے لیے یہ سب سلسلہ شروع کیا تھا۔ پھر بھی ان کو قبول نہ کرنا بلکہ ایسا رستہ اختیار کرنا جس میں اب تک کا تمام حاصل داؤ پر لگ رہا تھا، ایک واضح دلیل ہے کہ قرآن کو معین طور پر اور بعینہ اسی طرح پہنچانا جس طرح وہ

نازل ہوا تھا اور اپنی زندگی میں اس میں کوئی رد و بدل نہ ہونے دینا اور پھر ایسا انتظام کر دینا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھا کہ کبھی بھی اس کلام میں کوئی دانستہ یا نادانستہ رد و بدل یا تحریف راہ نہ پاسکے اور اس مقصد کے حصول کے مقابلہ میں دنیا کی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ بھی سوچا جاسکتا تھا کہ جب یہ سب شوکت اور طاقت حاصل ہو جائے گی تو اس مقصد کے حصول کی راہ آسان ہو جائے گی اور مومنین کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ پس یہ سب رد کرنا صرف دیانت داری کی مثال ہی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کوئی بھی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی ذرہ بھر بھی نیت نہیں رکھتا تھا اور آپ دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی ظاہری شان و شوکت کو اپنے مقصد کے حصول کی خاطر استعمال کرنے پر ہرگز راضی نہیں تھے۔ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی نصرت پر راضی تھے۔ یہ ایک پیغمبرانہ شان تھی۔

اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے کہ یہ اعتراض آخر کیا سوچ کر کیا جاتا ہے۔ ساری سوانح حیات کا مطالعہ کر لیں! کہیں کوئی ایسا موقع نظر نہیں آتا کہ آپ نے دولت جمع کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک ایک پل بتاتا ہے کہ کبھی دنیا کے عیش و آرام سے شغف رہا ہی نہیں اور پھر پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہؓ سے شادی کے بعد آپ کو دولت کی کوئی کمی رہی بھی نہیں تھی۔ چنانچہ مخالفین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہؓ سے شادی کے بعد آپ ہر قسم کے دنیاوی فکروں سے آزاد ہو چکے تھے۔ لکھا ہے:

"... Orphaned at birth, he was always particularly solicitous of the poor and the needy, the widow and the orphan, the slave and the downtrodden. At twenty he was already a successful businessman, and soon became director of camel caravans for a wealthy widow. When he reached twenty-five, his employer, recognizing his merit, proposed marriage. Even though she was fifteen years the older, he married her, and as long as she lived remained a devoted husband.

By forty this man of the desert had secured for himself a most satisfying life: a loving wife, fine children and wealth.

(James A. Michener: Islam: The Misunderstood Religion, Reader's Digest (American Edition) May 1955, p. 68)

دُرّ یتیم جو ہمیشہ غریب اور نادار، بیوہ اور یتیم، غلام اور مسکین، سب کی ہمیشہ حاجت روائی کرنے پر کمر بستہ رہتا تھا۔ بیس سال کی عمر میں آپ ایک کامیاب تاجر کے طور پر ابھرے اور جلد ہی ایک امیر خاتون کے اُونٹوں کے قافلہ کے نگران بن گئے۔ جب آپ پچیس سال کے ہوئے تو آپ کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے اس خاتون نے، آپ کو شادی کی پیشکش کی۔

باوجود اس کے کہ وہ آپ سے پندرہ سال بڑی تھیں، آپ نے اُن سے شادی کر لی اور جتنا عرصہ بھی ساتھ گزرا، آپ ایک وفادار شوہر رہے۔

چالیس سال کی عمر تک صحرا کا یہ شہزادہ نہایت درجہ مطمئن زندگی گزار رہا تھا: ایک محبت کرنے والی بیوی، اچھے بچے اور مال و دولت کی ریل پیل

شادی کے بعد کے پندرہ سالوں کی زندگی میں ایک ہی شغل نظر آتا ہے۔ وہ ہے غار حرا کی تنہائی میں عبادت۔ کیا دُنیا اور دُنیا کے مال و متاع سے محبت کرنے والے انسان کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ دُنیا تیاگ کر سب سے الگ تھلگ ہو جائے؟ دُنیا دار انسان تو اپنا کاروبار بڑھاتا ہے۔ دن رات اسی فکر میں غلطاں دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح مال و دولت حاصل کر لے۔ دُنیا داری میں اندھے بعض اوقات تو دولت کمانے کی دُھن میں اپنے ہی گھر برباد کر دیتے ہیں اور چند روپوں کے لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ مگر یہ کون سی دُنیا تھی جس کے آپ طلبگار تھے کہ دو مرتبہ ہاتھ آئی دولت ٹھکرا دی۔ پھر آپ کے کامیاب تجارتی سفروں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی دُنیا طلبی ہوتی تو شادی کے بعد آپ بے حد ترقی کر سکتے تھے۔ سرمایہ بھی موجود تھا، گھر کا سکھ بھی موجود تھا۔ خادم بھی موجود تھے اور سب سے بڑھ کر تجربہ بھی موجود تھا اور صلاحیت تو آپ دکھا ہی چکے تھے کہ کاروبار کو ترقی دینے کی آپ کے اندر موجود ہے۔ مگر سب کچھ ہاتھ میں آنے کے بعد سب چھوڑ دینا، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور ہی مقصد تھا اور کوئی اور ہی جہان تھا جو آپ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ہمیشہ مال و دولت کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ اپنے لیے کبھی کچھ پس انداز نہ کیا۔ پس آپ کے لیے دُنیا کے مال و دولت کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں اور جب حضرت خدیجہؓ سے شادی ہوئی تو پھر تو ناممکن تھا کہ مزید کی طلب ہو۔ جو کچھ اچکا تھا وہ آپ کی ضروریات سے بہت بڑھ کر تھا اور اس کا ثبوت وہ سخاوت ہے جو حضرت خدیجہؓ کے اپنا مال آپ کی خدمت میں پیش کرنے پر آپ نے دکھائی۔

پس آپ کی دُنیا سے بے نیازی اور بے رغبتی، اور اس پر ضرورت سے بہت زیادہ مال اور محبت کرنے والے اہل خانہ ایک پُر سکون زندگی گزارنے اور آپ کو دُنیا سے مزید بے نیاز کرنے کے لیے بہت تھا۔ آپ تو پہلی دولت بھی لٹاتے پھر رہے تھے۔ بظاہر ہر قسم کی فکر سے آزاد اس پُر سکون اور خاموش سے انسان کے لیے مزید کس چیز کی ضرورت تھی جس کے لیے ساری قوم کی دُشمنی مول لے لی؟ کیا ضرورت تھی جس کے لیے ایک مکمل طور پر پُر سکون زندگی کو آپ نے چھوڑ دیا؟ اور پھر سیادت اور قیادت اور پہلے سے بہت بڑھ کر مال و دولت کی پیشکش، اور پیشکش بھی ایسی کہ جس سے مزید دُنیاوی ترقیات کے دروازے کھل جاتے، اس دَور میں ایک دُنیا دار انسان کے لیے طاقت اور قیادت اور دولت ہی تو آخری منزل ہے اور یہ سب کچھ آپ بارہا ٹھکرا چکے تھے۔ پس دُنیا طلبی

سے بہت بڑھ کر کوئی اور مقصد تھا جو آپ کو اس جدوجہد پر قائم رکھے ہوئے تھا اور ہر قسم کی دُنیاوی عزت اور وجاہت اور مال و دولت کی پیشکش پر بھی آپ نے قرآن کریم سے اُن آیات کو نکالنا قبول نہ کیا جن میں غیر اللہ کی پرستش سے منع کیا گیا ہے اور ان کی کمزوریاں ظاہر کی گئی ہیں۔ بلکہ جیسا کہ ذکر گزرا کہ گزشتہ سطور میں درج شیطانی آیات کا قصہ تو ظاہر کرتا ہے کہ کفار مکہ تو اتنے پر بھی راضی تھے کہ کچھ نہ نکالا جائے بس قرآن کریم میں ایک دو آیات ہی اُن کے بتوں کی تعریف میں ڈال دی جائیں۔ وہ اسی پر خوش ہو کر سجدہ میں گر جاتے۔ پس اور کون سا ایسا مرحلہ پیش آسکتا تھا کہ آپ قرآن کریم میں کوئی تحریف کر دیتے؟

یہاں پر مختصر طور پر یہ بھی بیان کر دینا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرتی رحم دلی کی وجہ سے بنی نوع انسان کی ناگفتہ بہ حالت سے ناخوش تھے اور اس لیے معاشرتی اصلاح کے لیے اپنی طرف سے معاشرتی مسائل کے حل کے طور پر یہ سب تعلیم گھڑی تھی۔ چونکہ وہ ایک انتہائی ذہین انسان تھے اس لیے انہوں نے دُنیاوی حالات پر غور و خوض کر کے اس وقت کے مسائل کا یہ حل نکالا۔ پس قرآن کریم آپ کے ذہن کی اختراع ہے نہ کہ کلام الہی (نعوذ باللہ)۔ یہ فلسفہ بگھارنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا تھا تو پھر کیا یہ سب شان و شوکت اور قیادت اور طاقت حاصل کرنے کے بعد معاشرتی اصلاح میں پیش آنے والی روکوں کو آسانی سے دور نہیں کیا جاسکتا تھا؟ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، وہ جب معاشرہ کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے گا تو مدد کہاں سے حاصل کرے گا؟ ظاہری سی بات ہے معاشرہ سے ہی حاصل کرے گا۔ پھر کیوں پہلے یہ غلطی کر دی کہ حضرت خدیجہ سے تحفہ حاصل ہو، اہمال غرباء میں تقسیم کر دیا اور پھر جب معاشرہ نے اتنی بڑی پیش کش کی تو اسے ٹھکرادیا؟ غزوہ حنین کے بعد مال کا ڈھیر تقسیم کرتے کرتے اپنی چادر بھی لوگوں کو دے دی! کس کے بھروسے سب کچھ رد کر دیا؟ اگر خدا تعالیٰ کی پشت پناہی حاصل نہ تھی تو پھر ایک طاقتور حکومت بناتے اور اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اس مال کو حکومت کے فلاحی کاموں میں لگاتے۔ یہ سب کچھ ٹھکرادینا تو بہت بڑی نادانی تھی جس کی کسی ادنیٰ سی عقل کے انسان سے بھی توقع نہیں کی جاسکتی۔ ایک طرف کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین انسان تھے تو ایسی بے مثل تعلیم پیش کر دی جو گزشتہ الہی تعلیمات کو بھی مات دے گئی اور پھر اُس کلام کو محفوظ رکھنے کا انتظام بھی ایسا اعلیٰ درجہ کا کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے بھی اپنی کسی تعلیم کو محفوظ رکھنے کا ایسا انتظام نہ کیا۔ یوں گویا (نعوذ باللہ) اپنی ذہانت اور لیاقت سے خدا تعالیٰ کو بھی مات دے دی اور دوسری طرف آپ کی ذات سے ایسی نادانی منسوب کرتے ہو۔ یہ بات بلاشبہ درست ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب عقلمندوں سے بڑھ کر عقلمند تھے اور یہی عقل و خرد آپ کو یہ سبھاتی تھی کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی محبوب ہستی ایسی نہیں ہو سکتی جس کی خاطر سب دُنیا چھوڑ دی جائے۔

آنحضرت ﷺ نے ہر قسم کی تکلیف کا مقابلہ کیا مگر قرآن میں رد و بدل قبول نہ کیا

مندرجہ بالا سطور میں یہ حقیقت تو ثابت ہوگئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس پیغام کی حفاظت اور اس امانت کو بنی نوع تک پہنچانے کے لیے ایک عیش و عشرت والی زندگی کو ترک کرنا بھی گوارا کر لیا جو کہ کسی بھی دُنیا دار کا خواب ہوتی ہے۔ مگر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ آپ نے اس مقصد کے حصول کے لیے نہ صرف پُر آسائش زندگی کو ٹھکرایا بلکہ دوسری انتہاء کا بھی مقابلہ کیا یعنی ہر قسم کی تکالیف کا مقابلہ بھی کیا۔ کیا اپنے اور کیا بیگانے سب آپ کی راہ کے کانٹے بن گئے۔ ریکز ارب عرب کا ذرہ ذرہ آپ کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا مگر آپ نے اولوالعزمی اور شجاعت اور مردانگی اور وقار و استقامت سے ان سب مشکلات کا مقابلہ کیا۔ ابولہب ___ آپ کا چچا ___ آپ کی تبلیغی مہمات میں آپ کے پیچھے پیچھے یہ اعلان کرتا جاتا کہ نعوذ باللہ آپ پر مرض جنون نے حملہ کر دیا ہے یا کبھی یہ کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس کی بیوی آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی۔ گلیوں بازاروں میں آپ کے خلاف ایک عام تحریک شروع ہوگئی۔ طائف کی سرزمین پر جو سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا وہ کس مستشرق کی نظروں سے پوشیدہ ہے؟ محاورہ نہیں بلکہ حقیقتہً سر سے لے کر پاؤں تک لہولہان ہو گئے۔ خون جوتوں میں بھر گیا اور چلنا دو بھر ہو گیا۔ (بخاری کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائكة)

جب آپ نے انعام و اکرام، جاہ و حشمت، سرداری، مال و دولت اور اعلیٰ حسب و نسب والی خوبصورت عورت سے شادی کی پیش کش کو ٹھکرا دیا تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سلسلہ کسی دُنیاوی لالچ یا طمع کے لیے شروع نہیں کیا گیا تو پھر ایک دوسری انتہا مقابل پر کھڑی کر دی گئی۔ ظلم و ستم انتہا پر پہنچا دیا گیا۔ اس ظلم و سفاکی کے دور کا ایک حصہ وہ تین سال ہیں جب آپ اور آپ کے ساتھ دینے والوں کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ (بخاری کتاب وجوب الحج باب شعب ابی طالب) یہ سوشل بائیکاٹ کی ایسی بہیمانہ شکل تھی کہ تاریخ عالم اس قسم کی دوسری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے سروسامانی اور فاقہ کشی کا شکار، بے بس کمزور اور لاغر انسانوں نے تین سال تپتی گرمیاں اور ٹھٹھرتی سردیاں ایک پہاڑی گھاٹی میں گزاریں۔ لیکن کسی کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ معترض بتا سکتا ہے کہ کونسی حرص دُنیا یا ہوا و ہوس تھی جس کی خاطر یہ لوگ اپنا سب کچھ داؤ پر لگائے ہوئے تھے؟

پھر ایک دَور ایسا بھی آیا کہ تمام مکہ کے قبائل کے نمائندے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے گھر کے باہر آپ کو قتل کرنے کی نیت سے اکٹھے ہو گئے۔ یہ ہجرت کا مشہور واقعہ ہے۔ گزشتہ انبیاء کے ذریعہ آنے والے عالمی نبی کے بارہ میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ تُوَزُّوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ (الفتح: 10) یعنی اس کی مدد کرنا اور اس کی عزت کرنا۔ مگر

اہل مکہ مسلسل اس عہد شکنی کی مرتکب ہو رہے تھے۔ اس صورت میں ان سے کیے گئے عہد پورے کرنا آپ کا فرض نہیں ہو سکتا تھا۔ ہجرت کا وقت وہ وقت تھا کہ تمام سردار مل کر اپنے اپنے قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس امانت میں خیانت کر رہے تھے اور آپ کو قتل کر کے اس سلسلہ کی جڑ کاٹ دینے کے درپے تھے۔ اس وقت اہل مکہ اُس امین کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھوائے ہوئے تھے۔ کوئی بھی ایسے موقع پر سارے کام بھول کر اپنی زندگی بچانے کی فکر کرتا تو اس پر کوئی حرف نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن اس موقع پر اہل نظر نے کیا دیکھا؟! آپ اُن کی امانتوں کی واپسی کی فکر میں غطاں تھے۔ ایسے میں آپ نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا اور ہجرت کا مصمم ارادہ کر لیا لیکن اپنے زیر سایہ پرورش پانے والے اور بہت ہی محبوب چچا زاد علیؑ کو اپنے بستر پر لٹا دیا تاکہ اگلے دن لوگوں کی امانتیں بحفاظت واپس کر کے مدینہ آجائیں۔ (بخاری کتاب المناقب باب مناقب علیؑ)

کیا اس سے پہلے کوئی آنکھ ایسی خوش نصیب ہوئی ہے جو ایسا واقعہ دیکھنے کا دعویٰ کرتی ہو؟ کیا کوئی قوم ایسا قابل فخر اور عظیم تاریخی واقعہ پیش کر سکتی ہے؟ نظر بار بار تاریخ کے صفحات سے تھکی ہاری لوٹ آتی ہے۔ ہاں ایک واقعہ ہے جو صرف نوعیت کے لحاظ سے ہی کچھ مشابہ ہے مگر کیفیت میں کہیں کم ہے تاہم دیگر انبیاء کے ہجرت کے واقعات کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کے کچھ قریب ہے۔ ہم حضرت موسیٰ کے واقعہ کو دیکھتے ہیں جو ہے تو ہجرت کا ہی لیکن حالات کی سنگینی اور خطرات کے لحاظ سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پیش آنے والے واقعہ سے کہیں کم۔ کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں ہے لیکن تاریخ موازنہ کرنے کے لیے اور کوئی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں کرتی جو اس واقعہ سے بعینہ مشابہ ہو۔ اس لیے بامر مجبوری اسی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی اپنی قوم کو ظلم اور ستم کی وجہ سے اہل ستم کی بستی سے نکال کر لے جانا پڑا۔ لیکن آپ نے کیا انتظام کیا؟

تورات کے مطابق آپ نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی کی زادراہ کے لیے اپنے مصری ہمسایوں سے کسی نہ کسی بہانہ سے عاریتاً زیور وغیرہ لو (عہد نامہ جدید کتاب خروج باب 12 آیت 35، 36)۔ تورات کے مطابق خدا کا نبی اپنی قوم کو امانتیں لے کر بھاگ جانے کا کہتا ہے۔ جبکہ ادھر کیا ہی حسین نمونہ ہے۔ زادراہ مانگنے کا سوال ہی نہیں۔ مکہ کے لوگ اس امین کے پاس اپنی امانتیں رکھوائے ہوئے ہیں۔ اسوۂ موسوی تو ان امانتوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے مگر اسوۂ محمدی کی رو سے سب سے بڑا مرحلہ ان امانتوں کو واپس کرنے کا ہے۔ حضرت موسیٰ اکیلے نہیں تھے بلکہ قوم ساتھ تھی۔ ادھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اُس رات گھر سے اکیلے نکلنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جان کا خطرہ نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تنہا ہوئی ننگی تلواروں کے محاصرہ میں تھے لیکن ان امانتوں کی حفاظت کتنی عزیز تھی جو اس قوم کی تھیں جو کہ بذات خود الہی امانت میں خیانت کی مرتکب ہو رہی تھی۔ پھر انتظام بھی کیا خوب کیا کہ اپنے چچا زاد کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ جو آپ کے بیٹوں کی طرح تھا کیوں کہ

آپ کی آغوش میں پلا بڑھا تھا۔ جس سے آپ کی محبت کا اندازہ اس طرح ہوتا تھا کہ بعد میں آپ نے اپنی محبوب بیٹی کے لیے اسے چٹا۔ گویا امانت کی ادا یگی اپنی اور اپنے اعزاء و اقرباء کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ پس اس درجہ کا امانت دار انسان جو اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کی امانتوں کے حق بھی اُن سے بڑھ کر ادا کرنے والا تھا وہ کس طرح خدائی امانت میں خیانت کا مرتکب ہو سکتا تھا؟ آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہر شک کو نابود کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اس درجہ اعلیٰ اخلاق پر فائز انسان۔ جو ادنیٰ ادنیٰ معاملات میں صداقت اور دیانت کا دامن نہیں چھوڑتا اور اس کے لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگانے سے نہیں ہچکچاتا، کیسے ممکن ہے کہ الہی امانت میں خیانت کا مرتکب ہو جائے؟ کھڑکھڑ کر غور کیجیے کہ جس دولت کو بے حیثیت قرار دے کر قدم قدم پر ٹھکرایا، جب وہ امانت کے طور پر آپ کے پاس آئی تو اس قدر اہم ہو گئی کہ اپنی جان کے خطرہ کے باوجود اس امانت کو اسکے اہل تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ جس الہی امانت کی اہمیت اپنی اور اپنے پیاروں کی جانوں کی قیمت سے بھی زیادہ تھی۔ جس پیغام کے لیے اتنی مشکلات برداشت کیں اور اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کی اور اپنے پیاروں کو مہیب خطروں میں ڈالا اور انکی جانیں تک اس امانت کی حفاظت کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیں، جس کے لیے دُنیا کی جاہ و حشمت اور دولت و ثروت کی قربانی دی، اس میں خیانت کے مرتکب ہو جاتے اور بعد میں کبھی رُو بدل کر دیتے؟ وہ تپتی دھوپ میں بھاری بھر کم پتھروں کے بوجھوں تلے دبے ہوئے نڈھال جانثار، پیاس اور گرمی سے مُونہوں سے باہر لٹکتی زبانیں، وہ کونکوں پر زندہ جلتے، تڑپتے پیارے، وہ شہداء کے چرے ہوئے بدن، وہ انتہائی درندگی سے شہید کی گئی پردہ دار مقدس خواتین کے لاشے، یہ سب تو رُو بدل اور تحریف نہ کر اسکے۔ پھر اور کون سی قیامت باقی تھی جو تحریف کا موجب ہو جاتی؟

پھر ایک مرتبہ وحی قرآن کی اشاعت ہو جانے کے بعد تو رُو بدل ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ جب وحی تحریری صورت میں مشتہر ہو گئی، حفظ کر لی گئی اور مسلمانوں میں عام ہو گئی تو پھر تو رُو بدل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس وقت رُو بدل کرنا تو اس سلسلہ کی موت تھی۔ یہ تمام ثبوت دیکھ کر لازماً یہی نتیجہ نکالتا ہے کہ رسول کریم نے قرآن کو بعینہ ویسا ہی ہم تک پہنچایا جیسا کہ آپ کو ملا تھا۔ قاری غور کرے کہ ایک طرف دولت مل رہی ہے اور دوسری طرف انتہائی تنگ دستی اور مفلسی منہ کھولے کھڑی ہے۔ ایک طرف سیادت ہے اور دوسری طرف سماجی بائیکاٹ۔ یعنی ایک طرف معاشرہ آپ کو اپنے معزز ترین افراد میں شمار کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو ایک ناکارہ عضو کی طرح کاٹ کر پھینک دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ایک طرف عزت اور مرتبہ ہے اور دوسری طرف ہر شرف سے محرومی۔ ایک طرف وطن کی سرداری ہے اور دوسری طرف جلا وطنی۔ ایک طرف اعلیٰ حسب نسب کے باختیار خاندان سے رشتہ داری اور دوسری طرف مصائب میں پھنسنے ادنیٰ غلاموں سے دُنیاوی اعتبار سے بظاہر

غیر منفعت بخش تعلق اور وہ تعلق بھی ٹوٹنا دکھائی دے رہا ہے اور غلام بھی ایسے جو خود پر بھی حق نہیں رکھتے تھے۔ ایک طرف اعلیٰ حسب و نسب اور طاقت کا حامل اپنا خاندان ہے، اور دوسری طرف ہر خاندان سے ناصر و قطع تعلق بلکہ ایک ایسے معاشرہ میں جہاں قبیلہ کے سہارے کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، تنہا زندگی گزارنے کا المناک خوف۔ ایک عام شخص کے لیے جو ان نعمتوں سے پہلے ہی محروم ہو، ان سب نعمتوں کو ٹھکرانا شاید اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ کیونکہ آپ کو یہ نعمتیں اور شرف حاصل تھا۔ آپ معاشرہ میں بہت باعزت اور اعلیٰ اور بلند مرتبہ پر فائز تھے۔ اعلیٰ حسب و نسب والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو صدیوں سے علاقہ کا قائد اور سید تھا۔ پس ان سب نعمتوں کو چھوڑنا ایک آنے والی نعمت کا چھوڑنا نہیں تھا بلکہ اب تک جو کچھ بھی زندگی سے کمایا تھا اس سے محرومی تھی۔ اس ظلم اور تعدی، مشکلات اور مصائب کے ہولناک دور میں اس طرح تمام تر عزت و مرتبت، دولت و شرف، سیادت و قیادت کو ٹھوکر مار دینا اور قرآن کے ایک ایک شعشعہ کو سینہ سے چمٹائے رکھنا، کیا یہ سب ثابت نہیں کرتا کہ ہر قیمت چکانے والے یہ لوگ ہرگز کوئی رد و بدل اور تحریف قبول نہیں کریں گے؟

گزشتہ صفحات میں کی گئی اس بحث کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زندگی بخش حسین و جمیل پیرایہ میں دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں:

”انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روشی ایسی بدیہی اور ثابت ہے کہ اگر سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے ہی روشن ہو رہی ہے مثلاً اگر کوئی منصف اور عاقل ان تمام براہین اور دلائل صدق نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کتاب میں لکھی جائیں گی قطع نظر کر کے محض ان کے حالات پر ہی غور کرے تو بلاشبہ انہیں حالات پر غور کرنے سے ان کے نبی صادق ہونے پر دل سے یقین کرے گا اور کیونکر یقین نہ کرے وہ واقعات ہی ایسے کمال سچائی اور صفائی سے معطر ہیں کہ حق کے طالبوں کے دل بلا اختیار ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ خیال کرنا چاہیے کہ کس استقلال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ نبوت پر باوجود پیدا ہو جانے ہزاروں خطرات اور کھڑے ہو جانے لاکھوں معاندوں اور مزاحموں اور ڈرانے والوں کے اول سے اخیر دم تک ثابت اور قائم رہے برسوں تک وہ مصیبتیں دیکھیں اور وہ دکھ اٹھانے پڑے جو کامیابی سے بکلی مایوس کرتے تھے اور روز بروز بڑھتے جاتے تھے کہ جن پر صبر کرنے سے کسی دنیوی مقصد کا حاصل ہو جانا وہم بھی نہیں گزرتا تھا بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے

سے از دست اپنی پہلی جمعیت کو بھی کھو بیٹھے اور ایک بات کہ کر لاکھ تفرقہ خرید لیا اور ہزاروں بلاؤں کو اپنے سر پر بلا لیا۔ وطن سے نکالے گئے۔ قتل کے لیے تعاقب کیے گئے۔ گھر اور اسباب تباہ اور برباد ہو گیا۔ بارہا زہر دی گئی اور جو خیر خواہ تھے وہ بدخواہ بن گئے اور جو دوست تھے وہ دشمنی کرنے لگے اور ایک زمانہ دراز تک وہ تلخیاں اٹھانی پڑیں کہ جن پر ثابت قدمی سے ٹھہرے رہنا کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں اور پھر جب مدت مدید کے بعد غلبہ اسلام کا ہوا۔ تو ان دولت اور اقبال کے دنوں میں کوئی خزانہ اکٹھا نہ کیا۔ کوئی عمارت نہ بنائی۔ کوئی بارگاہ طیار نہ ہوئی۔ کوئی سامان شاہانہ عیش کا تجویز نہ کیا گیا۔ کوئی اور ذاتی نفع نہ اٹھایا۔ بلکہ جو کچھ آیا وہ سب یتیموں اور مسکینوں اور بیوہ عورتوں اور مقروضوں کی خبر گیری میں خرچ ہوتا رہا اور کبھی ایک وقت بھی سیر ہو کر نہ کھایا اور پھر صاف گوئی اس قدر کہ توحید کا وعظ کر کے سب قوموں اور سارے فرقوں اور تمام جہان کے لوگوں کو جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے مخالف بنا لیا۔ یہودیوں سے بھی بات بگاڑ لی۔ کیونکہ ان کو طرح طرح کی مخلوق پرستی اور پیر پرستی اور بد اعمالیوں سے روکا۔ حضرت مسیح کی تکذیب اور توہین سے منع کیا جس سے ان کا نہایت دل جل گیا اور سخت عداوت پر آمادہ ہو گئے اور ہر دم قتل کر دینے کی گھات میں رہنے لگے۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی خفا کر دیا گیا۔ کیونکہ جیسا کہ ان کا اعتقاد تھا۔ حضرت عیسیٰ کو نہ خدا کا بیٹا قرار دیا اور نہ ان کو پھانسی مل کر دوسروں کو بچانے والا تسلیم کیا۔ آتش پرست اور ستارہ پرست بھی ناراض ہو گئے۔ کیونکہ ان کو بھی ان کے دیوتوں کی پرستش سے ممانعت کی گئی اور مدارجات کا صرف توحید ٹھہرائی گئی۔ اب جائے انصاف ہے کہ کیا دنیا حاصل کرنے کی یہی تدبیر تھی کہ ہر ایک فرقہ کو ایسی ایسی صاف اور دلآزار باتیں سنائی گئیں کہ جس سے سب نے مخالفت پر کمر باندھ لی اور سب کے دل ٹوٹ گئے اور قبل اس کے کہ اپنی کچھ ذرہ بھی جمعیت بنی ہوتی یا کسی کا حملہ روکنے کے لیے کچھ طاقت بہم پہنچ جاتی سب کی طبیعت کو ایسا اشتعال دے دیا کہ جس سے وہ خون کرنے کے پیاسے ہو گئے؟ زمانہ سازی کی تدبیر تو یہ تھی کہ جیسا بعضوں کو جھوٹا کہا تھا ویسا ہی بعضوں کو سچا بھی کہا جاتا۔ تا اگر بعض مخالف ہوتے تو بعض موافق بھی رہتے۔ بلکہ اگر عربوں کو کہا جاتا کہ تمہارے ہی لات و عزلیٰ سچے ہیں تو وہ تو اسی دم قدموں پر گر پڑتے اور جو چاہتے ان سے کراتے۔ کیونکہ وہ سب خویش اور اقارب اور حمیت قومی میں بے مثل تھے اور ساری بات مانی منائی تھی صرف تعلیم بت پرستی سے خوش

ہو جاتے اور بدل و جان اطاعت اختیار کرتے۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یکنخت ہر یک خویش و بیگانہ سے بگاڑ لینا اور صرف توحید کو جو ان دنوں میں اس سے زیادہ دنیا کے لیے کوئی نفرتی چیز نہ تھی اور جس کے باعث سے صد ہا مشکلیں پڑتی جاتی تھیں بلکہ جان سے مارے جانا نظر آتا تھا مضبوط پکڑ لینا یہ کس مصلحت دنیوی کا تقاضا تھا اور جبکہ پہلے اسی کے باعث سے اپنی تمام دنیا اور جمعیت برباد کر چکے تھے تو پھر اسی بلا انگیز اعتقاد پر اصرار کرنے سے کہ جس کو ظاہر کرتے ہی نو مسلمانوں کو قید اور زنجیر اور سخت سخت ماریں نصیب ہوئیں کس مقصد کا حاصل کرنا مراد تھا؟ کیا دنیا کمانے کے لیے یہی ڈھنگ تھا کہ ہر ایک کو کلمہ تلخ جو اس کی طبع اور عادت اور مرضی اور اعتقاد کے برخلاف تھا؟ سنا کر سب کو ایک دم کے دم میں جانی دشمن بنا دیا اور کسی ایک آدھ قوم سے بھی بیوند نہ رکھا۔ جو لوگ طامع اور مکار ہوتے ہیں کیا وہ ایسی ہی تدبیریں کیا کرتے ہیں کہ جس سے دوست بھی دشمن ہو جائیں؟ جو لوگ کسی مکر سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں کیا ان کا یہی اصول ہوا کرتا ہے کہ بیکبارگی ساری دنیا کو عداوت کرنے کا جوش دلاویں اور اپنی جان کو ہر وقت کی فکر میں ڈال لیں۔ وہ تو اپنا مطلب سادہ صاف کرنے کے لیے سب سے صلح کاری اختیار کرتے ہیں اور ہر ایک فرقہ کو سچائی کا ہی سٹیکٹ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے یکرنگ ہو جانا ان کی عادت کہاں ہوا کرتی ہے خدا کی وحدانیت اور عظمت کا وہ کچھ دھیان رکھا کرتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض کیا ہوتی ہے کہ ناحق خدا کے لیے دکھ اٹھاتے پھریں؟ وہ تو صیاد کی طرح وہیں دام بچھاتے ہیں کہ جو شکار مارنے کا بہت آسان راستہ ہوتا ہے اور وہی طریق اختیار کرتے ہیں کہ جس میں محنت کم اور فائدہ دنیا کا بہت زیادہ ہو۔ نفاق ان کا پیشہ اور خوشامدان کی سیرت ہوتی ہے۔ سب سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور ہر ایک چور اور سادھ سے برابر رابطہ رکھنا ان کا ایک خاص اصول ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے اللہ اللہ اور ہندوؤں سے رام رام کہنے کو ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور ہر ایک مجلس میں ہاں سے ہاں اور نہیں سے نہیں ملاتے رہتے ہیں اور اگر کوئی میر مجلس دن کو رات کہے تو چاند اور گینٹیاں دکھلانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں ان کو خدا سے کیا تعلق اور اس کے ساتھ وفاداری کرنے سے کیا واسطہ اور اپنی خوش باش جان کو مفت میں ادھر ادھر کا غم لگا لینا انہیں کیا ضرورت؟ استاد نے ان کو سبق ہی ایک پڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو یہی بات کہنا چاہیے کہ جو تیرا راستہ ہے وہی سیدھا ہے اور جو تیری رائے ہے وہی درست ہے اور جو تو

نے سمجھا ہے وہی ٹھیک ہے غرض ان کی راست اور ناراست اور حق اور باطل اور نیک اور بد پر کچھ نظر ہی نہیں ہوتی بلکہ جس کے ہاتھ سے ان کا کچھ منہ میٹھا ہو جائے وہی ان کے حساب میں بھگت اور سدھ اور جنٹلمین ہوتا ہے اور جس کی تعریف سے کچھ پیٹ کا دوزخ بھرتا نظر آوے اس کو مکتی پانے والا اور سرگ کا وارث اور حیات ابدی کا مالک بنا دیتے ہیں۔ لیکن واقعات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر نظر کرنے سے یہ بات نہایت واضح اور نمایاں اور روشن ہے کہ آنحضرت اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطن اور خدا کے لیے جان باز اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے اور محض خدا پر توکل کرنے والے تھے کہ جنہوں نے خدا کی خواہش اور مرضی میں محو اور فنا ہو کر اس بات کی کچھ بھی پروا نہ کی۔ کہ توحید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آوے گی اور مشرکوں کے ہاتھ سے کیا کچھ دکھ اور درد اٹھانا ہوگا۔ بلکہ تمام شدتوں اور سختیوں اور مشکلوں کو اپنے نفس پر گوارا کر کے اپنے مولیٰ کا حکم بجالائے اور جو جو شرط مجاہدہ اور وعظ اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب پوری کی اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے واقعات میں ایسے مواضع خطرہ اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلا کھلا شرک اور مخلوق پرستی سے منع کرنے والا اور اس قدر دشمن اور پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں۔ پس ذرہ ایمان داری سے سوچنا چاہیے کہ یہ سب حالات کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں۔“

(براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 108 تا 110 ایڈیشن اول ص 116 تا 121)

اس گواہی کو تو منگمگامی واٹ جیسا متعصب انسان بھی تسلیم کرتا ہے۔ لکھتا ہے:

His readiness to undergo persecutions for his beliefs, the high moral character of the men who believed in him and looked up to him as leader, and the greatness of his ultimate achievement—all argue his fundamental integrity.

(W. Montgomery Watt: Muhammad at Mecca, Oxford 1953, p.52)

آپ کا اپنے عقائد کی پاداش میں ہر قسم کی تکالیف اٹھانے کے لیے تیار رہنا، آپ کے پیروکاروں، جنہوں نے ہر موقع پر آپ سے راہنمائی لی، کا اعلیٰ اخلاقی معیار اور آخر کار آپ کی عظیم الشان فتح یہ تمام باتیں بنیادی طور پر آپ کے دیانت دار ہونے کی دلیل ہیں۔

فتوحات کے بعد کی زندگی آنحضرتؐ کے رد و بدل نہ کرنے پر دلیل ہے

بعض مستشرقین یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تمام اخلاق محض غلبہ اور کامیابی کے حصول تک ایک دکھاوایا کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ اور ایک قسم کا اسلحہ تھے۔ اس لیے وہ وقت بھی تو دیکھیں کہ جب آپ کو فتوحات ملنا شروع ہوئیں تو اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا؟ کیونکہ اگر یہ سب کچھ محض غلبہ اور حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا تو پھر فتح کے بعد آپ کا رویہ بدل گیا ہوگا۔

آنحضرتؐ کی سوانح حیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی فتح کے بعد کی زندگی بھی اس وسوسہ کو ایسا دور کرتی ہے کہ اس کی دھجیاں بھی نہیں ملتیں۔ چنانچہ جب آپ فاتح شہنشاہ کے روپ میں دُنیا کے سامنے آتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے اخلاق کریمانہ آپ کے ہر فعل میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ غزوات جیسے نازک مواقع پر بھی آپ کے اخلاق فاضلہ کی عمدہ مثالیں اسی آب و تاب سے سامنے آتی ہیں۔

فاتحین عالم کے حالات پڑھ کر دیکھیے۔ حالت جنگ میں کہیں آپ کو آبادیاں ویران اور قلعے مسمار ہوتے نظر آئیں گے تو کہیں انسانی لاشوں کے ڈھیر دکھائی دیں گے۔ کہیں انسانی کھوپڑیوں کے مینار نظر آئیں گے تو کہیں عزت و عصمت کی بربادی کے قبیح اور قابل شرم نظارے۔ قرآن کریم جنگ کے بعد کے حالات کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَ
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ O (النمل: 35)

یعنی جب بادشاہ فاتحانہ حیثیت سے کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں

اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک مواقع پر اپنے عملی نمونہ سے جو عظیم درس دیے ان میں امانت، بے مثل دیانت اور صداقت بھی شامل تھی۔ فتح خیبر کے موقع پر قلعہ ناعم کے ایک یہودی سردار نے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر بعض مسلمانوں کی شکایت کی کہ مسلمان ہمارے جانور ذبح کر کے کھا رہے ہیں، ہمارے پھل اجاڑ رہے ہیں اور ہماری عورتوں پر بھی سختی کی جا رہی ہے۔ دشمن ہونے کے باوجود یہ یہودی منصف مزاج رسول اللہؐ سے انصاف کی توقع لے کر آیا تھا۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کیا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور جنگ کا یہی دستور ہے؟ نہیں! بلکہ آنحضرتؐ سے اس یہودی کی یہ سچی توقع پوری بھی ہوئی اور نبی کریمؐ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے فرمایا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر یہ اعلان کریں

کہ جنت صرف مومنوں کو ملے گی نیز سب کو نماز کے لیے بلانے کا ارشاد فرمایا جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میں حرام کر دیا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں مگر یاد رکھو اس کے علاوہ بھی مجھے اوامر و نواہی دیئے گئے ہیں۔ سنو! اللہ تعالیٰ تمہیں بلا اجازت اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہونے اور ان کے پھل کھانے کی اجازت نہیں دیتا جب کہ وہ اپنا حق ادا کر رہے ہوں جو ان کے ذمہ ہے۔ (زرقانی جلد ۲ صفحہ ۲۲۶)

بخاری کی حدیث کے مطابق واقعہ یوں ہے کہ جب آپ کو علم ہوا کہ بعض لوگوں نے مال غنیمت کی تقسیم سے قبل خیبر کے کچھ جانور پکڑ کر ذبح کر لیے ہیں اور ان کا گوشت پکایا جا رہا ہے آپ نے فوراً وہ ہانڈیاں توڑ دینے اور گوشت کو گرا دینے کا حکم دیا۔ (بخاری کتاب المغازی باب غزوة خیبر)

سنن ابی داؤد میں اس عظیم اسوہ کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے:

عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاصاب الناس حاجةً شديدةً وجهداً فاصابوا غنماً فانتهبوها فان قُدُوراً نأ لتغلي اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي با كفاء القُدور لقوسيه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال ان النهبة لیسست باحل من الميئة۔

(سنن ابی داؤد کتاب الجهاد باب فی النهی عن النهبة اذا كان فی الطعام ...)

یعنی عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی بیان کرتے تھے کہ ایک غزوہ میں ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک موقع پر لوگوں کو بہت سخت بھوک لگی اور سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے انہوں نے ایک بکریوں کا ریور ڈ دیکھا اور اس میں سے چند بکریاں پکڑ لیں اور ذبح کر کے انکا گوشت پکانا شروع کر دیا۔ گوشت ابھی ہانڈیوں میں پک رہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے آتے ہی اپنی کمان سے ہماری ہانڈیوں کو الٹ دیا۔ آپ بوٹیوں کو مٹی میں مسلتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے کہ لوٹ کا مال اسی طرح حرام ہے جیسا کہ مردار یا اس سے بھی بدتر ہے۔

کیا ہی عجیب نظارہ ہے۔ فاتحین بھوکے ہیں اور مفتوح قوم آرام سے ہے۔ یوں آپ نے مسلمانوں کے جذبات، ان کی بھوک اور فاقہ کی قربانی تو دے دی لیکن مفتوح قوم کے اموال جن کی حفاظت کی ذمہ داری اب آپ پر تھی، کما حقہ ادا کی اور امانت اور دیانت کو قربان کرنا گوارا نہ کیا۔ ساتھ ہی یہ سبق بھی دے دیا کہ اسلامی جنگوں کی بنیاد محض خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے دین کی سر بلندی ہے نہ کہ کوئی دنیوی منفعت۔ اس لیے کوئی مجاہد

کسی قسم کی دنیاوی یا ذاتی منفعت حاصل کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔

فتح خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عظمتِ اخلاق کا حسین، روشن اور بلند ترین مینار نظر آتا ہے۔ اس واقعہ سے جہاں فاتحین عالم کے برخلاف محمد مصطفیٰؐ کے خلق کی وہ عظیم الشان فتح نظر آتی ہے جو مفتوح قوم کے ساتھ حسن سلوک، عفو، رحم اور احسان سے عبارت ہے۔ وہاں آپؐ کے امین ہونے کا ایک روشن ثبوت بھی ہے اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپؐ کے مد نظر کسی قسم کی ذاتی منفعت کبھی نہ تھی۔ فتوحات کا مقصد بھی وہی تھا جس مقصد کے لیے آپؐ نے اندوہناک مظالم سہے تھے۔ ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کی اور اسے اپنے اعلیٰ مقصد کے حصول کی راہ میں کبھی حائل نہ ہونے دیا۔ ہردوادوار میں آپؐ کے مد نظر کوئی بھی دنیاوی فائدہ نہ رہا۔ آپ کی سیرت کا بغور مطالعہ کرنے والے مخالفین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور کھلم کھلا بیان کرتے ہیں۔

فتح مکہ کا واقعہ کیا ہی عظیم الشان شہادت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صداقت پر اور اس بات پر کہ آپؐ کا مقصد کوئی ذاتی یا دنیاوی نوعیت کا نہیں تھا اور اب بھی وہی مقصد تھا جو آپؐ اب سے 22 برس پہلے بیان فرماتے تھے یعنی خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور آپؐ کی جان کے دشمن بے بس ہو کر اور کٹی ہوئی خشک ٹہنیوں کی طرح آپؐ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے تو آپؐ اب مکمل طور پر صاحب اختیار تھے کہ اپنے اور اپنے جانشینوں پر ڈھائے گئے تمام مظالم کا بدلہ لے لیں۔ مگر آپؐ کے عام اعلانِ معافی نے یہ ثابت کر دیا کہ آپؐ اپنے اور اپنے ساتھیوں پر کیے جانے والے مظالم کا انتقام لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپؐ کا مقصد تو خدا کے دین کی فتح اور اشاعت تھی اور آج اس مقصد کے حصول کے رستے میں حائل ایک بڑی روک دور ہو گئی تھی۔ یہ فتح تو ایسی فتح تھی کہ آج تک اس کے نقارے اہل سماعت کے کانوں میں گونجتے اور انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور گواہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ان سب فتوحات کا مقصد ذاتی منفعت نہیں تھا بلکہ الہی پیغام کی اشاعت تھا اور آپؐ کبھی بھی اس پیغام کی حفاظت اور پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اس کی اشاعت سے غافل نہیں ہوئے۔ Stanley Lane-Poole آپؐ کے مکہ میں لوٹنے کے مناظر بیان کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ یہ فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف الہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کی اور کوئی ذاتی منفعت نہ حاصل کی۔ سٹینلی لین پول کہتا ہے کہ یہ فتوحات انسانی نہیں ہو سکتیں اور کوئی دنیاوی شہنشاہ کبھی ایسی فتوحات کا نظارہ نہ دکھا سکا اور نہ آئندہ دکھا سکے گا۔ آپؐ کے کردار اور اخلاق کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ لازماً آپؐ خدا کے رسول تھے اور اس بات کا آپ کو دیگر تمام لوگوں سے زیادہ یقین تھا۔

(Stanley Lane-Poole: The Speeches and Table-Talk of the Prophet Mohammad, London 1882, Introduction, pp. 46,47)

اسلامی تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ نظارہ بھی تو یاد کریں جب غزوہ حنین کے بعد مالِ غنیمت کی تقسیم کے موقع پر نو مبایعین (نئی نئی بیعت کر کے مشرف باسلام ہونے والوں) میں سے کسی نے عدم تربیت کی وجہ سے آپؐ کے ذاتی استعمال کی چادر بھی آپؐ کے بدن سے اُتار لی تھی۔ معلوم انسانی تاریخ میں کسی دُنیاوی بادشاہ کا یہ نمونہ نظر نہیں آتا۔

اسی حقیقت کا اعتراف Washington Irving ان الفاظ میں کرتا ہے:

"His military triumphs awakened no pride nor vain glory, as they would have done had they been effected for selfish purposes. In the time of his greatest power he maintained the same simplicity of manners and appearance as in the days of his adversity. So far from affecting a regal state, he was displeased if, on entering a room, any unusual testimonials of respect were shown to him. If he aimed at universal dominion, it was the dominion of the faith; as to the temporal rule which grew up in his hands, as he used it without ostentation, so he took no step to perpetuate it in his family.

(Washington Irving: Mahomet and his Successors, Printers: George Bell & Son Londons, York St., Covent Garden, 1909, pg. 199)

یعنی آپؐ (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کی جنگی فتوحات نے نہ تو آپؐ میں کسی قسم کا تکبر پیدا کیا اور نہ ہی نخوت جو کہ ذاتی غرض کے حصول کی خاطر حاصل کی گئی فتح سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ اپنی طاقت کے عروج پر بھی آپؐ نے اپنے اطوار میں اور ملنے جلنے میں وہی سادگی اور متانت برقرار رکھی تھی جو کہ مصائب کے دور میں آپؐ کی شان تھی۔ شان و شوکت تو کجا، آپؐ کے کمرے میں داخل ہونے پر اگر کوئی خاص طور سے استقبال کرتا تو آپؐ اسے بھی ناپسند فرماتے۔ پس اگر کوئی عالمی سلطنت آپؐ کے مد نظر تھی تو وہ محض عالمِ روحانی کی سلطنت تھی کیونکہ جو دُنیاوی سلطنت آپؐ کے ہاتھوں میں تھی اسے آپؐ نے کبھی بھی ظاہری شان و شوکت کے لیے استعمال نہیں کیا اور نہ اسے اپنے خاندان میں جاری رکھنے کے لیے کوئی اقدامات کیے۔

کیا اس درجہ کا امانت دار انسان جو دشمنوں سے حالت جنگ میں بھی اخلاقیات کے انتہائی اعلیٰ نمونے دکھاتا ہے، جو کسی قسم کی ذاتی یا دُنیاوی منفعت کو اپنی بعثت کے مقصد کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیتا۔ جو کمزوری اور کمپرسی کے ایام میں بھی کبھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہو اور اس کی فتوحات کے بعد کی زندگی بھی ایک عملی ثبوت ہے کہ اس نے ان فتوحات سے کوئی ذاتی فائدہ نہ اٹھایا، جو یہ دکھاتی ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیغامِ الہی کی اشاعت تھی۔ صاف دکھائی دیتا ہے کہ کوئی حالات کی نرمی یا تنگی آپؐ کی توجہ اس مقصد سے پھیر نہ سکی

اور آپؐ اپنی بعثت کے مقصد کو کبھی نہ بھولے۔ پس آپؐ کی ساری زندگی گواہ ہے کہ ان فتوحات کے بعد بھی آپؐ کے اخلاق و کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ پہلے سے زیادہ اعلیٰ شان کے ساتھ دنیا کے سامنے جلوہ گر ہوئے۔

پھر ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ وہ انسان، جس نے اتنی تکالیف اٹھانے اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کے باوجود قرآن کریم میں کوئی رد و بدل قبول نہ کیا۔ وہ جب فاتحانہ شان سے زندگی گزارتا ہے تو کیا اب اس خدائی امانت میں خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے، جبکہ خوف اور کمزوری کی حالت بھی پہلے ہی نہیں رہی تھی؟ غور کیا جائے تو فتح کے بعد تو کوئی بھی وجہ نظر نہیں آتی کہ کلام الہی میں کوئی تحریف کردی جائے۔ جس پیغام کے لیے اتنی مشکلات برداشت کیں اور اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کی اور اپنے پیاروں کو مہیب خطروں میں ڈالا اور انکی جانیں تک اس امانت کی حفاظت کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیں، جس کے لیے دنیا کی جاہ و حشمت اور دولت و ثروت کی قربانی دی، کیسے ممکن تھا کہ اس کے معاملہ میں کسی خیانت کے مرتکب ہو جاتے یا بعد میں کبھی رد و بدل کر دیتے؟ وہ تپتی دھوپ میں بھاری پتھروں کے بوجھوں تلے دبے ہوئے ٹڈھال جانثار، پیاس اور گرمی سے مونیوں سے باہر لکتی زبانیں، وہ کونکوں پر زندہ جلتے، تڑپتے پیارے، وہ شہداء کے چرے ہوئے بدن، وہ انتہائی درندگی سے شہید کی گئی پردہ دار مقدس خواتین کے لاشے، یہ سب تو رد و بدل اور تحریف نہ کرا سکے۔ پھر اب فاتحانہ زندگی میں کون سی قیامت ٹوٹی تھی جو تحریف کا موجب ہو جاتی؟ معمولی سی سمجھ بوجھ والا انسان بھی باسانی سمجھ سکتا ہے کہ مصائب اور مشکلات کے دور کے بعد کسی سے مرعوب ہوئے بغیر قرآن کریم کی محافظت میں مدد غلبہ حاصل ہو جانے کے بعد بلا وجہ مفتوح قوم کو خوش کرنے کی خاطر کلام الہی میں تحریف کیونکر کر سکتا ہے؟ یہ تو ادنیٰ سی عقل کے حامل انسان سے بھی بعید ہے کہ ایہ کہ اسے محمد ﷺ کی طرف منسوب کیا جائے۔ پس فتح کے بعد کے دور میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حالات کا مطالعہ آپؐ کے بارہ میں تمام تر شکوک کو جڑھ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔

مندرجہ بالا بحث کا خلاصہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زندگی بخش الفاظ میں درج ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں:

اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح کو دو حصوں پر منقسم کر دیا۔

ایک حصہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتحیابی کا۔ تا مصیبتوں کے وقت

میں وہ خلق ظاہر ہوں جو مصیبتوں کے وقت ظاہر ہوا کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں

وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے۔ سو ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے وارد ہونے سے کمال وضاحت

سے ثابت ہو گئے۔ چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مکہ

معظمہ میں شامل حال رہا۔ اس زمانہ کی سوانح پڑھنے سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق جو مصیبتوں کے وقت کامل راستباز کو دکھلانے چاہئیں یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جزع فزع سے کنارہ کرنا اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے رعب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلا دیئے جو کفار ایسی استقامت کو دیکھ کر ایمان لائے اور شہادت دی کہ جب تک کسی کا پورا بھروسہ خدا پر نہ ہو تو اس استقامت اور اس طور سے دکھوں کی برداشت نہیں کر سکتا۔

اور پھر جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ، تو اس زمانہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا۔ دکھ دینے والوں کو بخشا اور شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا۔ ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک خدا کی طرف سے اور حقیقۃً راستباز ہو یہ اخلاق ہرگز دکھلا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پرانے کینے یکنخت دور ہو گئے۔ آپ کا بڑا بھاری خلق جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر کے دکھلا دیا وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہے۔ قُلْ اِنْ صَلَوَتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [الانعام: 163] یعنی ان کو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اس کے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہے تا میرے مرنے سے ان کو زندگی حاصل ہو۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 447 پانچواں سوال: زیر عنوان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوزمانے)

آنحضور ﷺ کی صداقت کا ایک ثبوت آپ کا ایمان کامل

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اوپر نازل ہونے والی تعلیم پر کامل ایمان اس بات کا ثبوت ہے کہ جبکہ آپ قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یقین کرتے تھے آپ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر متزلزل ایمان کے بارہ میں فرماتا ہے: اَمَّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ (البقرة: 286) کہ سب سے پہلے اپنے پر نازل ہونے والی تعلیم پر خود رسول کامل ایمان لایا اور مومن بھی۔ چنانچہ اس حوالہ سے جب آپ کی سوانح پر نظر دوڑائیں تو حضرت ابوطالب کے پاس

آکر سردارانِ عرب کا یہ مطالبہ کرنا اسلامی تاریخ کے کس طالب علم سے پوشیدہ ہے کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ صرف ہمارے بتوں کو بُرا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ پس باوجود بار بار اصرار کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے میں اسے بعینہ بیان کرنے کا پابند ہوں کیوں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ میں اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہوں اور نہ ہی اسے بدل سکتا ہوں۔ (سیرۃ ابن ہشام باب مباداة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قومہ وما کان منہم) اور نہ ہی یہ ممکن تھا کہ خدا سے بدل دے کیوں کہ کسی کا خوف یا ناپسندگی اسے اپنا کلام بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ پھر خدا تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا تھا وہ حتمی تھا اور خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بار بار اپنا کلام بدلتا پھرے کیوں کہ وہ علیم اور خبیر ہے۔ وہ جو بات بھی پہلی بار کرے گا وہ لازماً درست ہوگی اور کم عقل انسان کی طرح اسے اپنے کلام کی نظر ثانی کی ضرورت نہیں۔

ذرا شعب ابی طالب کی تکالیف، اہل طائف کا ظلم، جانثاروں کی اندوہناک تکالیف کو ذہن میں دہرائیے اور پھر فتح مکہ کے دوران بلند کیے جانے والے نعرہ ”لَا تَشْرِيْبَ عَلَیْكُمْ الْيَوْمَ“ (یوسف: 93) پر غور کیجیے۔ کیا یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ آپ اور آپ کے صحابہ ان تمام مظالم کا انتقام خدا کے حوالے کرتے اور تمام فتوحات کو خدا تعالیٰ ہی کی طرف پھیرتے تھے؟ کیا تاریخ اس بات کا روشن ثبوت نہیں کہ ان فتوحات سے ذاتی انتقام یا ذاتی منفعت حاصل کرنا کبھی بھی مد نظر نہیں رہا تھا؟ کیا یہ یقین نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ تمام مظالم سہنا کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تھا؟ ورنہ دنیاوی جنگی دستور کے مطابق ضرور انتقام لیتے اور وہی سلوک مخالفین سے روار کھتے جو مخالفین نے آپ سے اور آپ کے جانثاروں سے روار کھا۔ اہالیانِ طائف کا ظلم کون بھلا سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں اس واقعہ کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کی

حکایت فرماتے ہوئے دیکھا۔ جس کو اس کی قوم نے لہو لہان کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے

خون پونچھتے جاتے تھے اور دُعا کرتے جاتے تھے کہ اے خدا! میری قوم کو بخش دے۔ وہ نادان ہے۔

(بخاری استنابہ المرتدین باب اذا عرض الذی.....)

پھر ذرا ہجرت کے واقعہ پر نظر ڈالیے۔ جب دشمن تعاقب کرتا ہوا اُس غار کے بالکل دہانے پر آکھڑا ہوا جس میں آپ اپنے یار غار ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ وہ اتنا قریب تھے کہ ان کی باتوں کی آوازیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو اس غار میں ہیں یا پھر آسمان پر چلے گئے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ دشمن آپ کے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور حضرت ابو بکر آپ کی حفاظت کے خیال سے گھبرائے تب بھی آپ نے انہیں تسلی دی کہ لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ پر کامل توکل کا عظیم الشان اسوہ دکھایا جو آپ کی صداقت پر ایک بہت عظیم الشان گواہ ہے کہ آپ سر سے پاؤں تک اس یقین میں گندھے ہوئے تھے کہ آپ خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ یقیناً سچا ہے کہ وہ آپ کو بحفاظت مکہ سے نکال

لے جائے گا اور فاتح کی حیثیت سے لوٹائے گا۔

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ اس واقعہ کے بارہ میں فرماتے ہیں:

اللہ اللہ کیسا توکل ہے۔ دشمن سر پر کھڑا ہے اور اتنا نزدیک ہے کہ ذرا آنکھ نیچی کرے اور دیکھ لے لیکن آپ کو خدا تعالیٰ پر ایسا یقین ہے کہ باوجود سب اسباب مخالف کے جمع ہو جانے کے آپ یہی فرماتے ہیں کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ خدا تو ہمارے ساتھ ہے پھر وہ کیونکر دیکھ سکتے ہیں۔

کیا کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو اس یقین اور ایمان کو لے کر دُنیا میں آیا ہو؟ یہ جرأت و بہادری کا سوال نہیں بلکہ توکل کا سوال ہے خدا پر بھروسہ کا سوال ہے۔ اگر جرأت ہی ہوتی تو آپ یہ جواب دیتے کہ خیر پکڑیں گے تو کیا ہوا، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ مگر آپ کوئی معمولی جرنیل یا میدان جنگ کے بہادر سپاہی نہ تھے۔ آپ خدا کے رسول تھے اس لیے آپ نے نہ صرف خوف کا اظہار نہ کیا بلکہ حضرت ابو بکر کو بتایا کہ دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس کے حکم کے ماتحت ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ پھر ان کو طاقت ہی کہاں مل سکتی ہے کہ یہ آنکھ نیچے کر کے ہمیں دیکھ سکیں۔

یہ وہ توکل ہے جو جھوٹے انسان میں نہیں ہو سکتا۔ جو ایک پُر فریب دل میں نہیں ٹھہر سکتا۔ شاید کوئی مجنون ایسا کر سکے کہ ایسے خطرناک موقعہ پر بے پرواہ رہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ مجنوں فقداں حواس کی وجہ سے ایسا کہہ تو لے لیکن وہ کون ہے جو اس کے مجنونا نہ خیالات کے مطابق اس کے متعاقبین کی آنکھوں کو اس سے پھیر دے اور متعاقب سر پر پہنچ کر پھر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکیں؟

(سیرت النبی ﷺ از حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحبؒ ایڈیشن اول صفحہ: 68، 69)

اسی ہجرت کے دوران پھر ایک مرتبہ دُنیا نے آپ کے ایمانِ کامل کا نظارہ دیکھا جو آپ کو اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی الہی پر تھا۔ جب غار حرا تک آ کر ناکام لوٹنے پر کفار مکہ نے آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر کر دیا۔ اس انعام کے لالچ میں سراقہ بن مالک بن جعشم تعاقب کرتا ہوا کسی طرح آپ کے قریب آپہنچا۔ حضرت ابو بکرؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے پریشان ہو گئے اور بار بار مُڑ کر پیچھے دیکھتے تھے۔ مگر اپنے رب کے وعدوں پر کامل ایمان رکھنے والے ہمارے کوہ وقار و متانت آقا بے فکر ہیں اور ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھتے کہ کیا ماجرا ہے بلکہ گاہے گاہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے تھے کہ گھبرانے کی بات نہیں خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حفاظت فرمائی، یہ دیکھ کر سراقہ کو بھی یقین ہو گیا کہ آپ

لازمًا خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہیں۔

وحشی۔۔ جس نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی نعش مبارک کی بہیمانہ طور سے بے حرمتی کی تھی، جب مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ سے بھاگ کر طائف چلا گیا۔ جب اہل طائف نے بھی اطاعت قبول کر لی تو وحشی کے لیے یہ بھی مآ من نہ رہا۔ چنانچہ جب طائف والوں کا وفد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ چلا آیا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنیجیوں سے برا سلوک نہیں کرتے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو وحشی ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے حمزہ کو شہید کیا تھا؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ تمام حقیقت حال کا آپ کو علم ہو چکا ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا اور صرف یہ کہا کہ کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ زندگی بھر میرے سامنے نہ آئے؟

(بخاری کتاب المغازی باب قتل حمزہ)

صلح حدیبیہ کے زمانہ میں ایک دفعہ 80 آدمیوں کا ایک دستہ منہ اندھیرے جبل تلعیم سے اتر آیا۔ وہ لوگ چھپ کر آنحضور ﷺ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اتفاق سے یہ گرفتار ہو گئے مگر حضور نے ان کو چھوڑ دیا اور کچھ تعرض نہ کیا۔

(ترمذی ابواب تفسیر باب تفسیر سورة فتح)

اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار آرہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورة ہود سورة النباء وغیرہ نے ہی بوڑھا کر دیا ہے چنانچہ سنن ترمذی میں لکھا ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ شَبَّتْ - قَالَ: شَبَّيْتَنِي هُوْدٌ، وَالْوَأَقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -

(ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورة الواقعة)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ! آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے سورة ہود، سورة الواقعة، سورة المرسلات، عمّ يتساءلون (سورة النبا) اور وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (سورة التکویر) نے بوڑھا کر دیا ہے۔

ان سورتوں میں ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے شرارت کرتے ہوئے انبیاء کو جھٹلایا جس کی پاداش میں خدا نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پس ان واقعات سے کسی قدر اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کریم کا اپنے منجانب اللہ ہونے پر ایمان کس قدر غیر متزلزل تھا۔ اسی لیے تو اپنے بے پایاں جذبہ رحم کی وجہ سے اس غم میں غلطاں رہتے تھے کہ

گزشتہ رسولوں کو جھٹلانے کی پاداش میں جس طرح اقوام ہلاک ہوئیں اسی طرح ظلم اور شرارت کی راہ سے میری تکذیب کرنے کی وجہ سے بھی دُنیا کی مختلف اقوام بھی ہلاک نہ کر دی جائیں۔

اور آپ کا یہ ایمان اور یقین آخر دم تک قائم رہا کہ آپ پر نازل ہونے والا کلام بلاشبہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اس یقین کی ایک مثال بہت عجیب ہے۔ اسی کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا اور تو اپنی طبعی عمر پوری کرے گا اور کسی مخالف کوشش کے نتیجے میں تیری وفات نہیں ہوگی اور نہ تجھے قتل کیا جاسکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة: 68)

یعنی اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدہ کی صداقت پر کامل ایمان تھا۔ چنانچہ جنگ حنین کے موقع پر جب ایک دفعہ اسلامی لشکر میں انتہی کے آثار پیدا ہوئے اور لشکر بکھر گیا۔ صرف گئے چٹے چند جانثار آپ کے پاس رہ گئے اس وقت ایک بے نظیر شجاعت اور مردانہ شان کے ساتھ آپ نے گھوڑے کو دشمن کی طرف ایڑ لگاتے ہوئے باواز بلند لاکارا کہ:

انا النبی لا کذب

انا ابن عبد المطلب

(بخاری کتاب المغازی ابواب غزوه حنین)

یعنی میں خدا کا نبی ہوں اور ہرگز جھوٹا نہیں ہوں۔ ہاں میں ہی وہ نبی ہوں جو عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ اگر اپنی جان کی حفاظت کے الہی وعدے کی صداقت پر اپنے زندہ ہونے سے زیادہ یقین نہ تھا تو کیوں میدان کارزار میں دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہونے کے باوجود اور لشکر اسلام کے بکھر جانے کے باوجود آپ اس شان سے دشمن کو اپنی صداقت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ بہت سے واقعات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام کے سچا ہونے کا کس قدر یقین تھا اور آپ ایمان کے کس اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح کا مطالعہ کرنے والوں کی نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ وفات کے وقت فی الرفیق الاعلیٰ (بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی و وفاته) کا بطور عادی ہر اتے چلے جانا بھی یہی بتاتا ہے کہ آخر دم تک اپنے منجانب اللہ ہونے اور اپنی صداقت پر یہ یقین قائم رہا۔ یہ گواہی اتنی مضبوط اور ناقابل تردید ہے کہ مخالفین کو بھی ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار رسول خدا کا کردار تھا اور ہر دور کی طرح موجودہ دور میں بھی محققین نے بلا امتیاز مذہب و عقیدہ اس حقیقت کو کھلم کھلا تسلیم کیا ہے۔ جان ڈیون پورٹ کی گواہی ملاحظہ کیجیے۔ کہتے ہیں:

محمد (ﷺ) کو بلاشک و شبہ اپنے مشن کی سچائی پر یقین تھا۔ وہ اس پر مطمئن تھے کہ اللہ کے فرستادہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ملک کی تعمیر و اصلاح کی ہے۔ ان کا اپنا مشن نہ تو بے بنیاد تھا اور نہ فریب دہی، جھوٹ اور افترا پر مبنی تھا بلکہ اپنے مشن کی تعلیم و تبلیغ کرنے میں نہ کسی لالچ یا دھمکی کا اثر قبول کیا اور نہ زخموں کی دُکھن اور تکالیف کی شدتیں ان کی راہ کی رکاوٹ بن سکیں۔ وہ مسلسل سچائی کی تبلیغ کرتے رہے۔

(John Davenport: An Apology for Mohammad and the Koran, p.52,53)

ڈاکٹر Marcus Dods لکھتے ہیں:

Certainly he had two of the most important characteristics of the prophetic order. He saw truth about God which his fellowmen did not see, and he had an irresistible inward impulse to publish this truth. In respect of this latter qualification, Mohammed may stand in comparison with the most courageous of the heroic prophets of Israel. For the truth's sake he risked his life, he suffered daily persecution for years, and eventually banishment, the loss of property, of the goodwill of his fellow-citizens, and of the confidence of his friends; he suffered, in short, as much as any man can suffer short of death, which he only escaped by flight, and yet he unflinchingly proclaimed his message. No bribe, threat or inducement, could silence him. 'Though they array against me the sun on the right hand and the moon on the left, I cannot renounce my purpose.' And it was this persistency, this belief in his call, to proclaim the unity of God, which was the making of Islam.

(Dr. Marcus Dods: Mohammed, Buddha, and Christ, pg. 17,18)

یقیناً آپ (ﷺ) میں سلسلہ انبیاء کی دو بہت واضح خصوصیات موجود تھیں۔ (اول) آپ نے خدا کے بارہ میں وہ سچائی دیکھی جو آپ کے ہم عصر نہیں دیکھ سکے اور (دوسری یہ کہ) ایک طبعی اور بے ساختہ جذبہ کہ آپ اس حقیقت کی خوب اشاعت کر دیں۔ اس دوسری خصوصیت نے آپ کو بنی اسرائیل کے جرات مند انبیاء کی صف میں لاکھڑا کیا۔ سچائی کی خاطر آپ نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ سا لہا سال تک بلا ناغہ ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ جس کا انجام جلا وطنی کی صورت میں ظاہر ہوا جبکہ آپ کو اپنی جائداد سے، بستی والوں کی تائید اور دوستوں کے اعتماد سے ہاتھ دھونا پڑا۔ غرض یہ کہ آپ نے اتنی تکالیف برداشت کیں جتنی کہ موت سے ورے کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے۔ ہجرت کر کے اپنی جان بچائی مگر پھر بھی کبھی اشاعتِ اسلام سے نہ

رُکے۔ کوئی دھمکی، رشوت یا لالچ آپ کو خاموش نہ کرا سکا۔ ”میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تو بھی میں اپنے مقصد سے نہ ہٹوں گا“ یہ تھا آپ کا استقلال اور اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی پر ایمان کہ خدا کی توحید کی طرف بلا یا جائے۔ جو کہ اسلام کی بنیاد بنا۔

سٹیپلی لین پول رقم طراز ہیں:

He was the messenger of the one God, and never to his life's end did he forget who he was or the message which was the marrow of his being. He brought his tidings to his people with a grand dignity sprung from the consciousness of his high office together with a most sweet humility...

(Stanley Lane-Poole: The Speeches and Table-Talk of the Prophet Mohammad, Introduction, pp. 27-30.)

وہ واحد و لا شریک خدا کے رسول تھے (ﷺ)، اور تادم واپسیں کبھی بھی وہ اپنی اس شناخت اور اپنے پیغام کی اہمیت کو نہیں بھولے۔ انہوں نے ایسے اعلیٰ طریق اور عظمتِ کردار کے ساتھ خوشخبریاں اور بشارتیں اپنی قوم کو دیں جس کے ساتھ ایک بیٹھا انکسار بھی شامل تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا پر ایمان کو دیکھتے ہوئے MAJOR A. LEONARD لکھتے ہیں:

If ever any man on this earth has found God; if ever any man has devoted his life for the sake of God with a pure and holy zeal then, without doubt, and most certainly that man was the Holy Prophet of Arabia.

(Islam, its Moral and Spiritual Values, p. 9; 1909, London)

اگر روئے زمین پر بسنے والے کسی شخص نے خدا کو پایا ہے؛ اگر کسی شخص نے کبھی حقیقی طور خالص اور پاکیزہ جذبہ کے ساتھ خدا کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، تو بلاشبہ اور تمام تر وثوق کے ساتھ وہ ایک شخص مقدس نبی عربی (ﷺ) ہے۔

W. Montgumry Watt اپنے تمام تر تعصب کے باوجود لکھتا ہے:

Had it not been for his gifts as seer, statesman, and administrator and, behind these his trust in God and firm belief that God had sent him a notable chapter in the history of mankind would have remained unwritten.

(Mohammad At Madina Page 336)

(ترجمہ از اسوۃ انسان کامل) غیب پر اطلاع پانے، مدبر اور منتظم ہونے کے علاوہ اگر آپ کا اس بات پر محکم ایمان نہ ہوتا کہ خدا نے آپ کو بھیجا ہے تو انسانی تاریخ کا ایک قابل ذکر باب

ضبط تحریر میں آنے سے رہ جاتا۔

پھر اس پہلو سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانِ کامل کا مشاہدہ کیجیے کہ قرآن کریم کے بارہ میں آپ کا رویہ اس رویہ سے بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے جو آپ کا اپنے اقوال کے بارہ میں تھا۔ جہاں تک اپنے کلام کا تعلق ہے تو اگر کسی معاملہ کا آپ کو علم نہ ہوتا تو کھل کر اپنے اصحاب سے کہہ دیتے اور اگر بشری کمزوری کی وجہ سے آپ سے کبھی دُنیاوی اعتبار سے کسی معاملے میں غلطی ہوئی تو آپ نے کھل کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور فرمایا کرتے انتم اعلم بامور دنیا کم (بخاری کتاب التفسیر باب هل کنت الالبشر ارسولا) یعنی تم اپنے دُنیاوی معاملات میں مجھ زیادہ صاحبِ علم ہو لیکن جہاں تک قرآنی وحی کا تعلق ہے تو اس کے بارہ میں کبھی تردد نہ ہوا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی ہے اور کبھی کلامِ الہی کو نہیں بدلا۔ یہ شانِ انسانی طاقت سے بالا ہے اور بلاشبہ پیغمبرانہ شان ہے۔ واضح نظر آتا ہے کہ قرآن کریم کو آپ واقعی الہی کلام یقین کرتے تھے اور اسے اپنے کلام سے الگ اور بالا اور ممتاز سمجھتے تھے۔ انسان روزِ مرہ معاملات میں غلطی کے امکان کو پیش نظر رکھتا ہے اور اسی بشری کمزوری کی وجہ سے نظر ثانی کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے روزِ مرہ معاملات میں اسکی ضرورت پڑی جس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مگر قرآن کریم براہِ راست خدا تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس بشری کمزوری سے پاک اور بالا رہا۔ یہ اس بات کا بہت روشن ثبوت ہے کہ قرآن کریم بشری کاوش نہیں ہے ورنہ بار بار نظر ثانی اور تبدیلی کی ضرورت پڑتی۔

اسی طرح قرآن کریم کی کتابت کے بیان میں یہ ذکر بھی گزر چکا کہ آپ قرآنی وحی لکھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے جب کہ اس کے برعکس اپنے ارشادات اور اقوال کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا تاکہ آپ کے اقوال قرآن کریم کے متن کے ساتھ مل نہ جائیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو جلانے کا حکم بھی دیا۔ یہ طرزِ عمل بھی واضح کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلام میں اور اس کلام میں جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا تھا فرق کرتے تھے اور جو عزت اور تکریم آپ کلامِ الہی کو دیتے تھے اور جس خصوصیت سے اس کی حفاظت کا التزام فرماتے تھے وہ خصوصیت اپنے کلام کو ہرگز نہیں دیتے تھے۔

یہاں یہ ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی نفسانی کلام نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ بھی الہی راہنمائی کے مطابق ہی ہوتے تھے اس امر کی گواہی اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں دیتا ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝
ذُو بَرَّةٍ ط فَاسْتَوَىٰ ۝ (النجم: 4 تا 7)

ترجمہ: اور وہ خواہشِ نفس سے کلام نہیں کرتا۔ یہ تو محض ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے۔

اسے مضبوط طاقتوں والے نے سکھایا ہے۔ (جو) بڑی حکمت والا ہے۔ پس وہ فائز ہوا۔

قرآن کریم کے متن کو اپنے اقوال سے بالا اور ممتاز رکھنے کی اس کوشش اور طرزِ عمل کے مشاہدہ سے غیر مسلم مغربی محققین بھی چونک اُٹھے ہیں:

Dr. Maurice Bucaille لکھتے ہیں:

Finally, It must be pointed out that Muhammad's own attitude was quite different towards the Qur`an from what it was towards his personal sayings. The Qur`an was proclaimed by him to be a divine Revelation. Over a period of twenty years, the Prophet classified its sections with the greatest of care, as we have seen. The Qur`an represented what had to be written down during his own lifetime and learned by heart to become part of the liturgy of prayers. The hadiths are said, in principle, to provide an account of his deeds and personal reflections, but he left it to others to find an example in them for their own behaviour and to make them public however they liked.

(The bible The Qura`n and Science (translation from French by Alastair D. Pannel and The Ahthor) Under Heading Conclusions Pg 250-251)

بالآخر یہ واضح رہے کہ محمد (ﷺ) کا قرآن کریم کے بارہ میں رویہ اُس رویہ سے بالکل مختلف تھا جو کہ آپ کا اپنے فرمودات کے بارہ میں تھا۔ قرآن کریم کے بارہ میں آپ کا دعویٰ تھا کہ یہ وحی الہی ہے۔ بیس سال سے زائد عرصہ میں نبی (ﷺ) نے بذاتِ خود حد درجہ احتیاط کے ساتھ اسے متعلقہ حصوں میں تقسیم کیا تھا جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ قرآن وہ چیز ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بطور خاص لکھا جاتا اور حفظ کر لیا جاتا تھا تا کہ فرض نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاسکے۔ جبکہ احادیث کے بارہ میں عمومی خیال یہ ہے کہ یہ آپ کے روزمرہ افعال اور معمولات کا احاطہ کرتی ہیں۔ جن سے راہنمائی لینا اور لوگوں میں ان کی اشاعت کرنا آپ نے دوسروں پر چھوڑ رکھا تھا کہ جیسے چاہے وہ کریں۔

اس موضوع پر جان ڈیون پورٹ کی گواہی درج کر کے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

ممکن ہے یہ سوچا جائے کہ وہ آدمی جس نے اتنی بہت سی اور تادیر قائم رہنے والی اصلاحات کیں، انواع و اقسام کی بُت پرستی کے بدلے، جس میں لوگ مدتوں سے مبتلا تھے، ایک خدا کی عبادت کا داعی بنا۔ جس نے دختر گشی کی رسمِ قبیح کو مٹایا۔ شراب اور دوسری نشہ آور اشیاء کو حرام ٹھہرایا۔ جوئے کی ممانعت، نسبتاً ایک دائرہ میں رہتے ہوئے تعددِ ازاواج کو محدود کیا، وغیرہ

وغیرہ.... کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا خدائی مشن اس کے ذہن کی محض اختراع تھی؟ اور کیا وہ جھوٹ کو جانتے بوجھتے نبھاتا رہا؟ نہیں! ہرگز نہیں! محمد (ﷺ) کو درحقیقت سچے مذہبی ادراکات اور روحانی احساسات حاصل تھے جن کے سبب انہوں نے اپنے مشن کو انتہائی مستقل مزاجی، پامردی و استقلال سے آگے بڑھایا اور نہ اس کے جھٹلائے جانے کی پروا کی اور نہ اس کی راہ میں مصائب و مشکلات کی۔ یہ سچائی، یہ حق کی معرفت انہیں شروع سے آخر تک حاصل رہی یعنی حضرت خدیجہؓ کے سامنے پہلی وحی کے نزول سے لے کر حضرت عائشہؓ کی باہوں میں آخری سانس لینے تک۔

(John Davenport: An Apology for Mohammed and the Koran, London: 1869 P. 17.)

آنحضرت ﷺ کی صداقت کا ثبوت: صحابہ کا غیر متزلزل ایمان

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیر متزلزل، پختہ اور روز افزوں ترقی کرتا ہوا ایمان بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ قرآن کریم بلا تحریف و تبدل اُن تک پہنچ رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک لمحہ اُن کے سامنے تھا اور وہ کامل طور پر اس ایمان پر قائم تھے کہ آپ جو کلام الہی، ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ حرف بحرف وحی الہی ہے اور ہر قسم کے رد و بدل سے پاک ہے۔ ان کا ایمان اس بات کا گواہ ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے مانتے تھے کہ یہ سلسلہ خدائی ہے اور پوری دیانت داری اور حفاظت کے ساتھ ان تک پہنچ رہا ہے تبھی تو ایمان کے ایسے اعلیٰ نظارے دکھائے جو عدیم الظہیر ہیں۔ چنانچہ بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے معاملے میں صحابہؓ بہت زیادہ حساس تھے۔ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا دار و مدار ہستی باری تعالیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام الہی کی سچائی پر تھا۔ وہ اپنے سردھڑکی بازی اسی ایمان کی حرارت کی وجہ سے لگاتے تھے۔ ماؤں کے دلارے اور باپوں کے سہارے، بہنوں کے پیارے اور بیویوں کے سہاگ اسی ایمان کی چٹنگلی کی وجہ سے خدا کی راہ میں قربان ہونے کو مچل رہے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنے کامل ایمان والے تحریف کی کسی ادنیٰ سی کوشش پر بھی خاموش رہتے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور مجسم قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے تھے کہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی، دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ ہماری لاشوں کو نہ روند ڈالے۔ (بخاری کتاب المغازی باب اذ تستغیثون ربکم....)

اور اس شان سے یہ وعدے ایفا کیے کہ جب بھی کوئی اس الہی پیغام کی حفاظت میں جان کا نذرانہ پیش کرتا تو فُزْتُ

بِرَبِّ الْكُفْبَةِ كَانِعْرَه لگاتے ہوئے دُنیا چھوڑتا۔ (بخاری کتاب المغازی باب غزوة الرجیع...) اُن کے بارہ میں خدا تعالیٰ نے یہ گواہی دی تھی کہ مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ (الاحزاب: 24) یعنی اُن میں سے کچھ اپنے عہد پورے کر چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں کہ جانثاری کا موقع ملے اور عہد پورے کریں۔ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان سے کیے جانے والے تمام وعدے الہی ہیں اور ان میں کوئی بھی بشری دخل نہیں ہے۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت پر حرف آنے کے ادنیٰ سے شک پر بھی وہ خاموش رہتے؟ وہ کہ جو مرتے وقت یہ شعر پڑھا کرتے کہ:

فلسٲ ابالی حین اقلٲ مسلما
جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل ہو رہا ہوں تو مجھے پروا نہیں
علی ای جنب کان لله مصرعی
کہ خدا کی راہ میں، میں کس پہلو پر گرتا ہوں
وذلك فی ذات الاله وان یشاء
یبارک علی اوصال شلو ممزع
اور یہ شہادت تو باری تعالیٰ کی خاطر ہی ہے پس اگر وہ چاہے
تو میں کٹ کر جس پہلو پر بھی گروں اسی میں وہ حرکت ڈال دے گا
(بخاری کتاب المغازی فضل من شہد بدرا)

یہ وہی جانثار تھے کہ دورانِ قید جب انہیں یہ کہا گیا کہ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ آج محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری جگہ ہوتے اور تم چین سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو دشمنوں کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے وہ عاشقانِ جانثار کس طرح ٹرپ کر کہتے کہ ہمیں تو یہ بھی منظور نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے ہوں اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں راہ چلتے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ (بخاری کتاب المغازی فضل من شہد بدرا) ایک طرف دشمن کی قید میں ایمان کا یہ نمونہ ہے کہ اپنی جان کے بدلہ میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہے اور دوسری طرف کیا نظارہ ہے، ذرا نظر دوڑائیں! بائبل میں یسوع کے اس حواری کا ذکر ملے گا جس نے اپنی جان بچانے کی خاطر یسوع کو دشمنوں کے نرغہ میں بے بس اور لاچار، زخموں کی تکالیف سے بے حال آہ و بکا کرتے دیکھا تو بھی اس کا ایمان جوش میں نہ آیا اور اس مشکل وقت میں بھی اس نے مسیح سے لاطلفی کا اظہار کر دیا۔ ان خاص الخاص حواریوں سے کہیں بڑھ کر وہ عورت، مریم مگدر لینی نکلی جو یسوع سے تعلق کا دم بھرتی رہی اور اس تعلق کی خاطر زمانہ کی پروا نہیں کی جو آج تک اس تعلق پر حیران ہے۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بستر مرگ پر بے قراری سے اس حسرت کا اظہار کرنا کہ میں تو جب بھی جنگ کے میدان میں اُترا، شوقِ شہادت لے کر اُترا۔ لیکن یہ خواہش حسرت ہی رہی۔ میرے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں جس نے راہِ اسلام میں زخم نہ کھایا ہو لیکن آج میں بے بس بستر مرگ پر پڑا جان دے رہا ہوں۔ ذرا تاریخ کے اوراق چھانیے اور دیکھیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے علاوہ اور کس نبی کے پیروکاروں کی طرف سے خدا

کی راہ میں جان قربان کرنے کی تمنا کا اس شدت اظہار اور پھر عملی نمونہ سے اس تمنا کو سچا کر دکھانا اور اپنے نبی پر اس شان کے ایمان کا نمونہ ملتا ہے۔ ایمان تو کجا، بائبل کے مطابق تو موسیٰ کی قوم نے چالیس سال صحرا میں دھکے کھانا قبول کر لیا مگر موسیٰ کی معیت میں خدا کی راہ میں آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یسوع کے خاص حواریوں میں سے ایک حواری نے چند روپوں کے عوض جنت کی کنجیوں کی ٹھکرا دیا اور یسوع مسیح کی مخبری کر کے انہیں گرفتار کر دیا۔

پس کیسے ممکن تھا کہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ اسی خلق عظیم کی کتابی صورت میں کوئی ادنیٰ سا بھی بگاڑ یا رد و بدل برداشت کر لیتے؟ بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ حفاظت قرآن کے بارہ میں ادنیٰ ادنیٰ سی غلط فہمی پر وہ بپھرے ہوئے شیروں کی طرح اٹھ کھڑے ہوتے۔ کیا ابن وراق نے وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جب حضرت عمرؓ اسلام سے قبل غصہ کی حالت میں اپنی بہن کو مار رہے تھے۔ بہن کا لہو دیکھ کر جب آپے میں آئے تو قرآن کے وہ اوراق مانگے جو وہ پڑھ رہی تھیں۔ کس طرح وہ مظلوم عورت صاف انکار کر دیتی ہے کہ تم اس حالت میں قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اس تکلیف دہ چوٹ کے بعد بھی کہ جب لہو بہہ رہا تھا قرآن کی تکریم کس درجہ عزیز تھی۔ کس طرح ممکن ہے اس درجہ ایمان پر فائز جانثار تحریف قرآن کی کسی بھی کوشش پر خاموشی اختیار کرتے۔

پھر وہ واقعہ بھی ابن وراق کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمرؓ کے سامنے ایک صحابی ہشام بن حکیم بن حزامؓ نے قرآن کی چند آیات اس انداز میں پڑھیں جو حضرت عمرؓ کے نزدیک درست نہیں تھا۔ اس پر آپؓ ان کو چادر سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت رسول کریمؐ نے فرمایا کہ عمر اسے جانے دو یہ درست پڑھ رہا ہے۔ (بخاری کتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن علی سبعة احرف)

اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک آیت کو اور انداز میں سن کر پڑھنے والے کو لے کر فوراً رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپؐ نے وہی فیصلہ فرمایا جو حضرت عمرؓ کے معاملہ میں فرمایا تھا (بخاری کتاب فضائل القرآن باب اقرئوا القرآن ما تلتف قلوبکم)۔

صحابہؓ نے تو قدم قدم پر جانثاری اور اعلیٰ ایمان کے نظارے دکھائے:

حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام جب ایمان لائے تو امیہ ان کو دوپہر کے وقت جبکہ آسمان سے آگ برس رہی ہوتی اور مکہ کا پتھر بلا میدان بھٹی کی طرح تپ رہا ہوتا، باہر لے جاتا اور رنگا کر کے زمین پر لٹا دیتا۔ بڑے بڑے گرم پتھران کے سینے پر رکھ کر کہتا کہ لات اور عزیٰ کی پرستش کر اور محمدؐ سے علیحدہ ہو جاوے نہ اسی طرح عذاب دے کر مار دوں گا۔ حضرت بلالؓ زیادہ عربی نہ جانتے تھے۔ صرف اتنا کہتے احد احد یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ ایک ہی ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ اور بھڑک اٹھتا اور ان کے گلے میں رسہ ڈال کر

انہیں شریر لڑکوں کے حوالہ کر دیتا۔ وہ ان کو مکہ کے پتھر یلے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے جس سے ان کا بدن لہو لہان ہو جاتا مگر ان کی زبان سے سوائے احد احد کے اور کوئی کلمہ نہ ادا ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر ڈھائے جانے والے یہ ظلم و ستم دیکھ کر ایک بڑی قیمت دے کر انہیں خرید اور آزاد کر دیا۔

(اسد الغابۃ زیر حالات حضرت بلالؓ)

ہجرت کے ساتویں سال کے سفر کے وہ واقعات دیکھیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے بعض رؤیا اور کشوف کی بنا پر یہ سمجھے کہ اس سال مسلمان حج کر کے لوٹیں گے۔ صحابہ کس درجہ پر یقین تھے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے اور ایک ذرہ بھی ان میں شک کا عنصر نہ تھا۔ کیا ایک جھوٹے کی بات سن کر ایسا یقین ہوتا ہے؟ اس وقت جب حج نہ ہو سکا تو شدید صدمہ کا شکار ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے یہی سوال اٹھایا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں اور اللہ کا وعدہ سچا نہیں؟ (بخاری کتاب المغازی باب غزوة الحديبية) صلح حدیبیہ کے موقع پر الہی خبروں پر یقین کرتے ہوئے صحابہؓ پورے طور پر متیقن تھے کہ وہ ضرور خانہ کعبہ کا حج کریں گے۔ مگر جب ایسا نہ ہوا تو ان جاثاروں کا شدید صدمہ کا شکار ہو جانا اس بات کا کیسا واضح ثبوت ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ بات نہ آئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی خبروں میں کوئی شک بھی ہو سکتا ہے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زبان سے کوئی ناحق بات بھی نکل سکتی ہے۔ چنانچہ جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے مطابق یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ اسی سفر میں وہ حج کریں گے تو کس طرح ان کے دل تسلی پا گئے۔ اسی یقین کی دولت پر تو خدا نے صلح حدیبیہ جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ اور صحابہ کا یہ ایمان دن بدن بڑھ ہی رہا تھا کم نہیں ہو رہا تھا اور عمر بھر کے تجربہ کے بعد انہوں نے یقین میں اور ترقی کی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے:

حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے چھٹے نمبر پر اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی اس لیے سادس الاسلام کہلائے۔ آپ آہن گرمی کا کام کرتے تھے مشرکین مکہ آپ کو سخت تکالیف دیتے حتیٰ کہ آپ کی بھٹی سے کولے نکال کر ان پر آپ کو لٹا دیتے اور چھاتی پر پتھر رکھ دیتے تاکہ آپ ہل بھی نہ سکیں۔ آپ نے ایک لمبے عرصہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہیں پہنا کر آپ کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا اور زرہیں دھوپ میں انکارہ ہو کر آپ کو جھلساتیں۔ آپ بے حال ہو جاتے مگر استقامت کا کوہ وقار بنے رہتے۔ آپ نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر بھی گھسیٹا جاتا پھر میری کمر کی چربی

اور خون سے وہ آگ بجھتی۔ ان کے حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس بات پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں اس دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔

(اسد الغابہ زیر حالات حضرت خباب بن الارتؓ)

پس اس نظر سے بھی دیکھیں کہ مسلمان جو قرآن کریم کو الہی کلام سمجھ کر اس کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں دے رہے تھے، اگر اس میں ذرہ سا بھی رد و بدل ہوتا یا رد و بدل کا ادنیٰ سا شک بھی ہوتا تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے جانی دشمن ہو جاتے کہ جس کی خاطر بظاہر اپنی دنیا برباد کر لی، ہر ظلم برداشت کیا، پیاروں کی جدائی قبول کر لی، بھائی نے بہن کو چھوڑا، خاوند بیوی سے الگ ہوا، ماؤں کے بڑھاپے کے سہارے ان کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے، اپنے پیارے انتہائی کسمپرسی کی حالت میں مبتلا ہوئے جائدادیں تباہ ہو گئیں اور عمروں کے اثاثے ہاتھوں سے نکل گئے، وہ سب فراڈ تھا!!! وہ جس پر جانیں نچھاور کر رہے تھے صرف دھوکہ تھا!!! قرآن کریم کے معاملہ میں ادنیٰ سے اختلاف پر تو وہ بھڑک اٹھتے تو رد و بدل کی کسی کوشش یا سازش پر کیوں کر سب کے سب خاموش رہ سکتے تھے؟ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے صحابہؓ کا آپ پر اور آپ پر نازل ہونے والے کلام پر غیر منزل ایمان، محبت، عشق اور ان کی فدایت گواہ ہے کہ وہ تمام تر اس یقین اور ایمان سے گندھے ہوئے تھے کہ قرآن کریم ایک الہی تعلیم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس کے معتبر ترین محافظ ہیں۔

صرف یہی نہیں۔ مکی زندگی کے بہیمانہ ظلم و ستم سے بھرے ہوئے تیرہ سالوں کے وہ تپتے دن اور تاریک راتیں گواہ ہیں۔ مدنی دور کی بے چین راتیں اور ہیبت ناک ابتلا شاہد ہیں کہ آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہؓ سستی زندگی کے ان شب روز میں بھی اس الہی امانت کی تن وہی سے حفاظت کرتے رہے۔ اگر کوئی تحریف کرنا ہی تھی تو مشکلات کے اس دور میں اپنی اور اپنے جاٹاروں کی حالت زار دیکھ کر نہ کر لیتے؟ خاص کر جبکہ مخالفین کی طرف سے یہ کھلا پیغام تھا کہ یہ ظلم ستم بھی ختم ہو جائے گا اور ہم آپ کو سینوں سے لگالیں گے۔ مال و دولت، عزت و جاہ اور سرداری سے نوازیں گے۔ بس آپ ہمارے معبودوں کے بارہ میں اپنے پر نازل ہونے والے کلام میں سے سخت الفاظ نکال دیں یا تعریفی کلمات شامل کر دیں۔

پھر اس حوالہ سے بھی دیکھیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس شان کارجم اور کریم جو انسان تو درکنار کسی بلکتے ہوئے جانور کو دیکھ کر بھی بے قرار ہو جایا کرتا تھا۔ تڑپتی اور سستی ہوئی انسانیت کے دکھوں کا مداوا یعنی کلام الہی اپنے ہاتھوں سے زیروز بر کردے؟ نیز یہ کہ اس درجہ کارجم انسان جس کا وجود جہاں دشمنوں کے لیے بھی دُعا ہی دُعا تھا اگر اس کے

سامنے اس کے کسی ایک بھی جانثار کو بھی کوئی ادنیٰ سی تکلیف پہنچائی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ برداشت کر لے؟ ایسے جانثار جو مشکلات اور مصائب کی آندھیوں میں بھی یہ نعرے بلند کرتے ہوئے آگے بڑھا کرتے تھے کہ:

” (اے خدا کے رسول!) ہم آپ سے وہ کچھ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ (علیہ السلام) سے کہا ’جاؤ اور تیرا رب جا کر ان دشمنوں سے جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔‘ بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی۔ آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی اور خدا کی قسم! دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک ہماری لاشوں کو نہ روند لے۔“

(بخاری کتاب المغازی باب اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لہم)

___ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بھی گوارا نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ چلتے کوئی کانٹا بھی چُھ جائے۔ اگر رد و بدل کرنا ہوتا تو کیا ممکن نہیں تھا کہ ان جانثاروں کی تکالیف دیکھ کر آپ ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کوئی تبدیلی کر لیتے۔ Stanley Lane-Poole لکھتا ہے اور کیا خوب لکھتا ہے:

"He was the most faithful protector of those he protected,
(Stanley Lane-Poole: The Speeches and Table-Talk of the Prophet Mohammad, Introduction, pp. 29.)

یعنی آپ محافظوں میں سب سے زیادہ ایمان دار محافظ تھے۔

پس کیوں نہ قرآن کریم میں ادنیٰ سے تبدیلی کر کے اپنے جانثاروں کو محفوظ کر لیا؟ اسی لیے ناکہ یہ معتبر محافظ ہی تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نبھار ہا تھا۔ کوئی تبدیلی ممکن ہی کس طرح تھی؟

پس صرف صداقت اور امانت ہی دو ایسے اخلاق نہیں کہ جن کی رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کامل پیدا ہوتا ہے بلکہ من حیث الجمع آپ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے حامل۔ ایک انسان کامل تھے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں اور اخلاقیات کے ہر میدان میں اتنا بلند اور عظیم نمونہ دکھایا کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے کے دل میں یہ بات آہنی میخ کی طرح کامل طور پر گڑ جاتی ہے کہ اس شان کا انسان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے بھی ذکر گزرا کہ بیوی تو جلوت و خلوت کی ساتھی اور انسان کی تمام خامیوں اور خوبیوں سے واقف ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کے بارہ میں ایک بیوی حضرت خدیجہؓ، جو کہ غم و الم کے دور کی ساتھی تھیں، کی گواہی گزر چکی ہے۔ ان کی گواہی کے بعد اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گواہی بھی دیکھیے جو کہ فاتحانہ زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ فرماتی ہیں:

من حدثك ان محمدا كتم شيئا مما انزل الله عليه فقد كذب۔ واللہ

يقول "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... الآية

(بخاری کتاب تفسیر القرآن باب یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک)

یعنی اگر کوئی تم سے کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے کوئی آیت چھپا کر رکھی تھی تو وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... الآية" (المائدہ: 68) یعنی اے رسول جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے اسے آگے پہنچا دے۔

اس روایت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچی تھیں کہ ناممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کی حکم عدولی کریں اور اس کی طرف سے آنے والی کوئی وحی بنی نوع انسان کے سپرد نہ کریں۔

پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپؐ نے تمام موجود صحابہؓ سے اس امر کی گواہی لی کہ آپؐ نے الہی امانت کو ان تک کامل اور مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ دُنیا کی کوئی بھی عدالت چند گواہوں پر ہی فیصلہ کر دیتی ہے۔ پس ان لاکھوں گواہوں کی گواہی کیوں کر جھٹلائی جاسکتی ہے؟ قدم قدم پر ایسی گواہیاں ہیں کہ باقی تاریخ میں کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو اس شان کی ایک گواہی بھی نصیب نہیں ہوئی جو مثال میں ان گواہیوں سے میل کھائے۔ پس آپؐ کے قریبی عزیز اور اقربا جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر آپؐ کے اسوہ کا گہری نظر سے مشاہدہ کیا تھا، آپؐ کے بارہ میں کامل طور پر اس ایمان پر قائم تھے کہ آپؐ بلاشبہ ایک راست باز انسان تھے اور خدا کے سچے نبی تھے جس نے خدا کے پیغام کو بنی نوع تک پہنچایا اور اس کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

پھر صحابہؓ اپنے آقاؐ کے عشق میں فنا ہونے کے باوجود آپؐ کے کلام اور کلام الہی میں واضح فرق کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا عاشق رسولؐ جب کلام الہی کی حفاظت کا سوال آتا ہے تو اپنے محبوب آقاؐ کے اقوال جلانے کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ بھی دوسرے واقعات کی طرح صحابہؓ کے ایمان کامل کا کیسا اعلیٰ اور لطیف ثبوت ہے۔

صحابہؓ کے عدیم النظیر ایمان کے بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانی صدق دکھلایا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی آبروؤں کو اسلام کی راہوں میں نہایت اخلاص سے قربان کیا اس کا نمونہ اور صدیوں میں تو کجا خود دوسری صدی کے لوگوں یعنی تابعین میں بھی نہیں پایا گیا اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی تو تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مرد صادق کا منہ دیکھا

تھا جس کے عاشق اللہ ہونے کی گواہی کفار قریش کے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گئی اور روز کی مناجاتوں اور پیار کے سجدوں کو دیکھ کر اور فنا فی الاطاعت کی حالت اور کمال محبت اور دلدادگی کے منہ پر روشن نشانیاں اور اس پاک منہ پر نور الہی برستا مشاہدہ کر کے کہتے تھے عشق محمد علی ربہ کہ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے اور پھر صحابہؓ نے صرف وہ صدق اور محبت اور اخلاص ہی نہیں دیکھا بلکہ اس پیار کے مقابل پر جو ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دل سے ایک دریا کی طرح جوش مارتا تھا خدا تعالیٰ کے پیار کو بھی تائیدات خارق عادت کے رنگ میں مشاہدہ کیا تب ان کو پتہ لگ گیا کہ خدا ہے اور ان کے دل بول اٹھے کہ وہ خدا اس مرد کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس قدر عجائبات الہیہ دیکھے اور اس قدر نشان آسمانی مشاہدہ کئے کہ ان کو کچھ بھی اس بات میں شک نہ رہا کہ فی الحقیقت ایک اعلیٰ ذات موجود ہے جس کا نام خدا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک امر ہے اور جس کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں اسی وجہ سے انہوں نے وہ کام صدق و صفا کے دکھلائے اور وہ جانفشانیاں کیں کہ انسان کبھی کر نہیں سکتا۔ جب تک اس کے تمام شک و شبہ دور نہ ہو جائیں اور انہوں نے پنچشم خود دیکھ لیا کہ وہ ذات پاک اسی میں راضی ہے کہ انسان اسلام میں داخل ہو اور اس کے رسول کریم کی بدل و جان متابعت اختیار کرے تب اس حق الیقین کے بعد جو کچھ انہوں نے متابعت دکھلائی اور جو کچھ انہوں نے متابعت کے جوش سے کام کئے اور جس طرح پر اپنی جانوں کو اپنے برگزیدہ ہادی کے آگے پھینک دیا یہ وہ باتیں ہیں کہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ انسان کو حاصل ہو سکیں جب تک کہ وہی بہار اس کی نظر کے سامنے نہ ہو جو صحابہ پر آئی تھی۔

(روحانی خزائن جلد ششم شہادۃ القرآن صفحہ 347, 348)

پس ثابت ہوا کہ آپ کا اور آپ کے جانثاروں کا ایمان اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ قرآن کریم محفوظ ترین ہاتھوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کی سیرت کے اور بھی بہت سے پہلو اس بات کے ثبوت میں پیش کیے جاسکتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی آپ کی ذات سے بعید از قیاس تھی۔ مگر اس لحاظ سے مطالعہ مضمون کو بہت ہی طویل کر دے گا۔ ساری زندگی ایک روشن مینار ہے اور ہر قسم کے شکوک کو رفع کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھ کر کوئی دیانت دار شخص، دوست یا مخالف، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ جیسے عالی شان اسوہ کا حامل شخص بددیانتی کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے۔ جس نے بھی آپ کی زندگی کا بلا تعصب، دیانت داری سے مطالعہ کیا وہ آپ کا عاشق بن گیا اور اس ایمان پر قائم ہو گیا کہ آپ بلاشبہ بے عیب

کردار کے مالک انسان ہیں۔ آپ ہی انسان کامل ہیں۔
دوستوں اور مخالفوں کی گواہیاں گزر چکی ہیں مگر یہ گواہیاں ایسی نہیں کہ ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہو۔ بلکہ یہ
سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے: اپنی بسنت رقم طراز ہیں:

It is impossible for anyone who studies the life and character of the great Prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty Prophet, one of the great messengers of the Supreme.

(Annie Besant: The Life and Teachings of Muhammad. Madras 1932, p. 4.)

یہ بات ناممکن ہے کہ ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے اس عظیم الشان پیغمبر کے بارہ میں انتہائی ادب اور احترام کے جذبات کے علاوہ کسی قسم کے دوسرے جذبات پیدا ہوں جس نے اس عظیم المرتبت نبی عربی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سیرت و سوانح کا مطالعہ بھی کر رکھا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ آپ نے کس طرح قوم کی تعلیم و تربیت کی اور آداب زندگی سکھائے اور عملی زندگی کیسے گزاری اور کیسا اسوۂ حسنہ پیش کیا۔

ٹامس کارلائل لکھتا ہے:

During three-and-twenty years of rough actual trial, I find something of a veritable hero necessary for that myself.

(Thomas Carlyl: On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, p.62)

اس کامل انسان کی زندگی کے حقیقتاً المناک ابتلاؤں سے بھرے ہوئے 23 سالہ دورِ حیات

کے مطالعہ سے مجھے اپنی ذات کے لیے ہر قسم کی راہنمائی کا سامان ملتا ہے۔

There is something so tender and womanly, and with all so heroic, about the man that one is in peril of finding the judgment unconsciously blinded by the reeling of reverence, and well-nigh love, that such a nature inspires.

(John Davenport: An Apology for Mohammad and the Koran, pp. 52, 53)

آپ کی شخصیت ایسی مسرور کن ملاحظت اور مردانگی کا موقع تھی کہ مطالعہ کرنے والے کے دل میں لاشعوری طور پر انتہائی ادب کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ایک ایسی شدید محبت میں کھویا جاتا ہے جو کہ ایک ایسی ہی ہستی سے ہو سکتی ہے۔

The greatest success of Mohammad's life was effected by sheer moral force.

(Edward Gibbon and Simon Oakley in 'History of the Saracen Empire,' London, 1870.)

محمد (ﷺ) کی زندگی کی تمام تر عظیم فتوحات میں آپ کے اخلاق عالیہ کا پہلو سب سے بڑھ کر کارفرما نظر آتا ہے۔

مشہور فرینچ شاعر اور مفکر LaMartine نے کیا ہی خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ہے:

Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas of a cult without images, the founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire, that is Muhammad. As regards all standards by which human greatness may be measured we may well ask, is there any man greater than he.

(Lamartine: Historie de la Turquie, Pari 1854, vol. 2, pp. 276-277.)

فلاسفہ، دانش ور، رسول، مقتن، جنگجو، دلوں کو تسخیر کرنے والا، دین کو منطقی بنیادوں پر استوار کرنے والا، ایک بت شکن مذہب کا بانی، ایک روحانی اور بیس دُنیاوی سلطنتوں کا بانی۔ یہ ہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ اُن تمام پیاموں کی رو سے جن سے کسی بھی انسان کی عظمت کو ماپا جاسکتا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا محمد (ﷺ) سے بڑھ کر بھی کوئی شخص عظیم ہو سکتا ہے!!!

بے شمار گواہیاں ہیں اور ہر گواہی درج کرنے کو جی چاہتا ہے مگر یہ تو ایک مکمل جہان ہے اور ایک ناپیدا کنارہ سمندر۔ ہزاروں ہزار صفحات لکھے جا چکے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد کسی بھی دیانت دار غیر متعصب شخص کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ ان گواہیوں میں اضافہ کیے بنا رہ سکے۔

اس درجہ کی عظمت کا حامل انسان جو اخلاق عالیہ کے بلند ترین مراتب پر فائز اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں جانی دشمنوں سے بھی اس شان کا اخلاقی رویہ دکھاتا ہے کہ تاریخ کے صفحات ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ کیا گمان کیا جاسکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا معاملہ آئے گا تو کسی بددیانتی کا مرتکب ہوگا؟ کیا ساری معلوم تاریخ میں کوئی اور کتاب اس درجہ استناد کو پہنچے ہوئے منبع سے نکلی ہے؟ کوئی معیار صداقت تو ہوگا جس کو بنیاد بنا کر سچ اور جھوٹ میں تمیز کی جاسکے۔ کوئی معیار تو پیش کرو اور اگر کوئی نہیں تمہارے علم میں، تو یہ معیار صداقت جو ہم پیش کرتے ہیں، اس کو جھٹلا دو یعنی قانون شہادت — یہ صداقت معلوم کرنے کا ایک ایسا معیار ہے جس پر تمام دُنیا کی تاریخ کی بنیاد ہے۔ اس کو رد کر دینا تمام تواریخ کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ خاص طور پر جب

حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس میدان میں قدم رکھیں تو تمام دُنیا کے تاریخ کی مستند ترین بات ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کوئی اس درجہ استناد کو نہیں پہنچا کہ مخالف اور موافق ہر ایک اس کی صداقت کا گواہ بن جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

افسوس کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان روا رکھ کر یہ خیال نہیں کرتے کہ اس سے ایک عالم کی کسر شان لازم آتی ہے۔ کوئی اپنی عقل پر ناز کرے یا بزعم خود کسی دوسرے نبی کا تابع بن بیٹھے۔ اس کے لئے یہی سیدھا راستہ ہے کہ اول انتہا کی کوشش کر کے قرآن شریف کے حقائق و معارف کے مقابلہ پر اپنی عقل یا اپنی الہامی کتاب میں سے ویسے ہی حقائق حکیمہ نکال کر دکھلا دے پھر جو چاہے بکا کرے۔ مگر قبل اس کے جو اس مہم کو انجام دے سکے جو کچھ وہ کسر شان قرآن شریف کرتا ہے یا جو الفاظ تحقیرانہ حضرت خاتم الانبیاء کے حق میں بولتا ہے۔ وہ حقیقت میں اسی نادان ناقص العقل پر یا اس کے کسی نبی و بزرگ پر وارد ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر آفتاب کی روشنی کو تاریکی قرار دیا جائے تو پھر بعد اس کے اور کون سی چیز رہے گی جس کو ہم روشن کہہ سکتے ہیں۔
(براہین احمدیہ حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 358، 359 یڈیشن اول صفحہ 308)

پس اس شان کا امین انسان راوی ہو اور مومن تو کیا جانی دشمنوں کی گواہی بھی موجود ہو تو اس صورت میں محقق کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ تسلیم کرے اور رد کرنے کی صورت میں تمام دُنیا کی مذہبی اور غیر مذہبی تاریخ کو رد کرنا پڑتا ہے کیونکہ تمام مذہبی صحائف میں صرف قرآن ہی ہے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ باقی صحائف قبل از تاریخ کے زمرہ میں آتے ہیں اور مذہبی تاریخ کے علاوہ دوسری تاریخ بھی اس درجہ استناد کو نہیں پہنچتی۔ جب بھی تاریخ کو مانیں گے قرآن کو مانیں گے اور اگر ثابت شدہ تاریخی صداقتوں کو جھٹلانا بھی شروع کریں تو تمام تاریخ کے بعد قرآن کریم کی سمت نظر کرنا پڑے گی۔

پھر تاریخی پہلو کے علاوہ بھی بی شمار ایسے پہلو ہیں جن کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً تاریخی استناد کو پس پشت بھی ڈال دیا جائے تو ہر زمانہ میں نازل ہونے والی قرآن کریم کی تاثیرات قدسیہ اس کی صداقت کے ثبوت میں سامنے آکھڑی ہوتی ہیں۔ پھر وہ علوم جو قرآن میں بیان ہیں اور انسانی پہنچ سے باہر ہیں اور ایسے ہیں کہ جو صرف خدا تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے، گواہی دیں گے کہ قرآن کریم کلام الہی ہے۔ پھر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں وصال الہی کے مرتبہ کو پانے والے اس کے متبعین قرآن کریم کی صداقت کے گواہ کے طور پر آ موجود ہوں گے جو ہر زمانہ میں اس بات کے ثبوت کے طور پر موجود رہے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ کلام الہی ہے جو آج بھی اپنے متبعین کو اولین سے ملاتا ہے اور ان میں صحابہ کی خصوصیات پیدا کر دیتا ہے۔ پس قرآن کریم کی حفاظت

پر بے شمار ناقابل تردید دلائل ہیں اور ہر دلیل اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔

حفاظت قرآن کی خاطر اختیار کیے گئے الہی وسائل پر ایک اجمالی نظر ہم ڈال چکے ہیں۔ اگر اس تمام تراحتیاط کے باوجود جھوٹ راہ پاسکتا ہے تو پھر تو بدرجہ اتم ماننا پڑے گا کہ کتاب "Why I Am Not A Muslim" جھوٹ کا ایک غلیظ پلندہ ہے کیونکہ مصنف بار بار دجل اور فریب سے کام لیتا ہے اور یہ بات بلا مبالغہ کہی جا رہی ہے۔ قاری اس کی مثالیں بار بار دیکھے گا کہ ابن وراق کس طرح دجل اور فریب سے کام لیتا ہے اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ رکھنے والا اگر اس کتاب کے کوئی سے دس صفحات بھی پڑھے گا تو اسے ضرور جھوٹ کی ایک چھوڑ میسیوں مثالیں مل جائیں گی۔

قرآن کریم میں مختلف آیات کے بارہ میں مختلف آراء رکھنے والے محققین اور مفسرین نے ہمیشہ آزادی کے ساتھ اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ مگر آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ. (الحجر: 10) کے بارہ میں ہر دور کے عظیم مسلمان محققین نے ہمیشہ ایک ہی رائے رکھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دکھایا۔ اسلامی تاریخ میں اعلیٰ علمی مقام کا حامل کوئی ایک بھی ایسا محقق نہیں ملتا جو حفاظت قرآن کے موضوع پر کبھی شک میں مبتلا ہوا ہو۔ پس کیسے ممکن ہے کہ ہر معمولی سے معمولی بات کو نوٹ کرنے والے صحابہ اور پھر بعد میں آنے والے محققین کوئی ایسا قرینہ موجود پاتے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کریم میں کوئی رد و بدل کی ہے اور پھر خاموشی اختیار کرتے؟ خاص طور پر اس صورت میں کہ جب دُنیا کے مختلف حصوں میں آزادانہ تحقیق ہوئی اور ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہ ہونے کے باوجود تمام نامی گرامی مسلم محققین ایک ہی نتیجے پر پہنچے۔

ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اور آپ کے جانثاروں کا پاک اسوہ، اور پھر اس پر دیانت داری سے تحقیق کرنے والے اپنوں اور غیروں کی گواہیاں بھی۔ اور دوسری طرف اس قوم کو دیکھیے جو آپ کی مخالفت پر کمر بستہ تھی۔ جہاں وہ رسول کریم کے صداقت اور امانت و دیانت اور دوسرے اخلاق عالیہ پر فائز ہونے کا اقرار کرتے رہتے تھے وہاں کبھی کبھی دے لفظوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بالمقابل اپنے دجل اور فریب کا اقرار بھی کرتے تھے۔ ابوسفیان کا اقرار درج ہو چکا ہے۔ پھر اسلام سے قبل کا اور اسلام کے نزول کے دور کا ادب جاہلی عربوں کی زبان سے ان کی اخلاقی زبوں حالی کی داستان ہے جس کی تصدیق ہر مؤرخ نے کی ہے۔ یہی حال آج کے مخالفین اسلام کا ہے۔ بہت سے مغربی محققین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کی قوم تحقیق کے نام پر اسلام کے خلاف شرمناک بددیانتی اور جھوٹ کی مرتکب ہوئی ہے۔ پس جب مخالف خود اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر رہا ہو اور اپنی اخلاقی پستی کا گواہ ہو اور ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے اخلاق عالیہ کا مداح ہو اور آپ کے سچا ہونے پر دل و جان سے متفق ہو تو پھر آج کے متعصب سے متعصب انسان کے پاس بھی اس کے سوا اور کیا چارہ ہو سکتا ہے کہ تسلیم کر لے اور تعصب کسی اور جگہ نکالے۔ اگر تسلیم نہیں کرنا تو پھر ایک ہی حل ہے کہ ابن وراق کے پاس چلا جائے۔ دُنیا سے چھپ جائے۔ آخر بد باطن کو دُنیا کا ہی ڈر تو ہوتا ہی ہے لیکن کیا ہی بد نصیبی ہے کہ دُنیا کے لیے جھوٹ سے لپٹے تو پھر دُنیا سے ہی چھپنا پڑا۔

پس ابن وراق کا یہ کہنا کہ شیطانی آیات کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی بددیانتی کی تھی، غلط بات ہے۔ درحقیقت یہ واقعہ تو کفار مکہ کی بددیانتی کا ثبوت ہے۔ رسول کریم کی حیات مطہرہ کا مطالعہ کرنے والا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے نعوذ باللہ کوئی غلط بات کی۔ یہ تو کسی بد بخت مخالف کی بددیانتی تھی جس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ حرکت کر دی۔ اگر (نعوذ باللہ) رسول کریم کا مقصد کفار کو خوش کرنا ہی ہوتا تو کسی ایسے موقع پر کرتے جب ضرورت تھی۔ مثلاً جب وہ حضرت ابوطالب کے پاس شکوہ لے کر آئے اور کسی بڑے رد و بدل کا مطالبہ نہ کیا بلکہ صرف یہ کہا کہ ہمارے بتوں کو بُرا بھلا نہ کہو اور جن آیات میں بتوں کی مذمت ہے انہیں نکال دو۔ ہم اسی میں خوش ہو جائیں گے اور تمہیں انعام و اکرام سے بھی اور آئندہ کے لیے ترقی کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ عزت و وجاہت سے بھی نوازیں گے تو آپ ان کی بات مان لیتے۔ جب شعب ابی طالب میں محصور تھے اس وقت کوئی رد و بدل کرتے۔ جب طائف میں لہولہان ہوئے اس وقت کوئی رد و بدل کرتے۔ جب جانثاروں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اس وقت کوئی رد و بدل کرتے۔ جب گنے چنے جانثار شہید ہو رہے تھے اس وقت خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ کیا کہ بیٹھے بیٹھے نہ کوئی مطالبہ ہوا اور نہ ہی کوئی ظلم اور یک دم رد و بدل کر دیا۔ پس اصل بات تو وہی ہے جو امام الزماں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں گزر چکی کہ ”پس یہی تو سیاہ باطنی کی نشانی ہے اور اسی سے تو ان کی اندرونی خرابی مترشح ہو رہی ہے انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راستبازی کی قوی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا، پس شیطانی آیات کے واقعہ سے اس بار ابن وراق کی ہی سیاہ باطنی اور اندرونی خرابی مترشح ہو رہی ہے۔“

رسول کریم ﷺ کو قرآن کریم میں کسی رد و بدل کا موقع میسر نہیں تھا

اسی بحث کے اس ایک پہلو پر تو ہم نے بات کی کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق فاضلہ کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ کی ذات سے کسی قسم کی بددیانتی کا تصور بھی محال ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اخلاق فاضلہ اور مقام عالیہ کو اپنے تعصب اور اندھے پن کی وجہ سے دیکھنے سے انکار کرتا ہے تو بھی اس کے لیے قرآن کریم

کو محفوظ ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب کوئی وحی الہی ایک بار دنیا کے سامنے پیش کر دیتے تھے تو پھر اُس میں کوئی رد و بدل محال ہو جاتا تھا۔ اس کی وجوہات جمع القرآن کی تاریخ کی بحث میں گزر چکی ہیں۔ ذیل میں ہم مختصر طور پر نمبر وار درج کر دیتے ہیں کہ کیوں رد و بدل محال تھا۔

1- قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تحریری شکل میں محفوظ کروا دیتے اور پھر ان مستند تحریرات سے صحابہ کثرت سے اپنے لیے نقول تیار کر لیتے۔ پس کسی بھی تبدیلی کی صورت میں اتنے نسخوں میں تبدیلی کروانی ہوتی جو کہ ناممکن بھی تھی اور تاریخ میں ایک بھی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ کبھی آپ نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی ہو۔

2- تحریر کے ساتھ ہی آپ چنیدہ صحابہ کو وحی الہی حفظ کروا دیتے اور ان کے حفظ کی درستگی کا یقین کر لینے کے بعد ان کا فرض ہوتا کہ وہ کثرت سے دیگر صحابہ کو حفظ کروادیں۔ اس طرح نزول کے معاً بعد حفظ کے ذریعے کلام الہی بہت سے سینوں میں محفوظ ہو چکا ہوتا۔

3- پھر صرف حفاظ ہی حفاظت قرآن کے محافظ نہیں تھے بلکہ نماز میں بھی تلاوت قرآن فرض تھی اس لیے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہوتا تھا جو نماز میں لوگوں کے سامنے تلاوت کیا جاتا۔ پھر ہر رمضان میں اس کی دہرائی ہوتی۔

4- پھر جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہوئی تھی یعنی آنحضور کے صحابہؓ، انکا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایمان کے کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ مطالعہ کرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ لازماً قرآن کریم کو الہی کلام سمجھتے تھے اور اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ وہی نہیں سکتا کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو جو قرآن کریم کے معاملہ میں ذرہ سی بھی بددیانتی کی ادنیٰ سی بھی کوشش پر خاموشی اختیار کر سکتا ہو اور نہ ہی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے۔ بلکہ جہاں ادنیٰ سی بھی غلط فہمی پیدا ہوئی تو پھر بھرے ہوئے شیروں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ جب انفرادی طور پر یہ حالت ہے تو کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی بددیانتی ہو اور اس پر ساری قوم نے خاموشی اختیار کی ہو؟ یہ تو قومی بددیانتی بن جاتی ہے اور کسی بھی قوم کا اس طرح خاموشی سے کسی قومی بددیانتی پر متفق ہو جانا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ہرگز ممکن نہیں۔ تاریخ ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ایسی بددیانتی کی مرتکب تو وہ قوم اس وقت بھی نہ ہو سکی جب کہ اخلاقی، ذہنی، روحانی اور دنیاوی لحاظ سے انتہائی درجہ کی پستی میں گری ہوئی تھی، جب پہلے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچائی پر اس قوم سے قومی گواہی طلب کی، تو اب کیونکر ممکن تھا کہ اخلاقی، روحانی اور دنیاوی آداب کے نئے اور اعلیٰ پیمانے قائم کرنے والی قوم اس قومی بددیانتی کی مرتکب ہو جاتی؟ صحابہ کی وفاداری اور جانثاری کا اندازہ ان کے حالات سے ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے پیغام الہی کی

حفاظت کے لیے ایسے اعلیٰ نمونے دکھائے کہ تاریخ ان سے پہلے ان نمونوں کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے ہولناک مظالم برداشت کیے کہ پڑھ کر ہی انسان کی روح تک میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔

5- کثرت اشاعت کی وجہ سے اپنے اور بیگانے سب گواہ بن جاتے تھے۔ اس لیے کسی بھی تبدیلی کی صورت میں مخالفین شور مچا دیتے۔

6- ناصر یہ کہ مخالفین شور مچا دیتے بلکہ آپؐ پر ایمان لانے والے صحابہ بھی فوری طور پر آپؐ کے مخالف ہو جاتے کیونکہ وہ آپؐ پر اسی لیے تو ایمان لائے تھے کہ آپؐ خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ صلح حدیبیہ کی مثال گزر چکی ہے کہ ادنیٰ سی غلط فہمی ہوئی اور کس طرح صحابہؓ بے چین ہو گئے۔

حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے مبارک الفاظ سے اس موضوع کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں:

”لازم ہے کہ جو شخص اپنے تئیں منصف سمجھتا ہے اب وہ اپنا انصاف دکھاوے اور جو اپنے تئیں حق کا طالب جانتا ہے اب وہ حق کے قبول کرنے میں توقف نہ کرے ہاں نفسانی آدمی کو ایسی صداقت کا قبول کرنا جس کے ماننے سے اس کی شیخی میں فرق آتا ہے ایک مشکل امر ہوگا مگر اے ایسی طبیعت کے آدمی!! تو بھی اس قادر مطلق سے خوف کر جس سے آخر کار تیرا معاملہ ہے اور دل میں خوب سوچ لے کہ جو شخص حق کو پا کر پھر بھی طریقہ ناحق کو نہیں چھوڑتا اور مخالف پر ضد کرتا ہے اور خدا کے پاک نبیوں کے نفوس قدسیہ کو اپنے نفس امارہ پر قیاس کر کے دنیا کے لالچوں سے آلودہ سمجھتا ہے حالانکہ کلام الہی کے مقابلہ پر آپؐ ہی جھوٹا اور ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے ایسے شخص کی شقاوت اور بدبختی پر خود اس کی روح گواہ ہو جاتی ہے کہ جو اس کو ہر وقت ملزم کرتی رہتی ہے اور بلاشبہ وہ خدا کے حضور میں اپنی بے ایمانی کا پاداش پائے گا کیونکہ جو شخص نہایت سخت اور جلانے والی دھوپ میں کھڑا ہے وہ ظل ظلیل کا آرام نہیں پاسکتا۔“

(براہین احمدیہ چہار حصص روحانی خزائن جلد اول صفحہ 354، 353 ایڈیشن اول صفحہ 304)

ترتیب قرآن کریم

قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں بلکہ الہی کلام ہونے کی وجہ سے عام کتب سے منفرد اور ممتاز حیثیت کی حامل ہے لہذا قرآنی فرمودات کی ترتیب اور اس کے اسلوب کا بھی اپنا دستور ہے جو عام کتب کے دستور بیان سے مختلف اور فی ذاتہ منفرد اور ممتاز ہے۔ ترتیب قرآن کریم کے موضوع کے دو بنیادی پہلو ہیں۔

اول: قرآن کریم کی آیات اور سورتوں کی ظاہری ترتیب کا تاریخی پہلو

دوم: قرآن کریم کی معنوی ترتیب اور اس کا اسلوب بیان

معارضین بھی عام طور پر دو قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک قرآن کریم کی ظاہری ترتیب پر اور دوسرا اس کی ترتیب مضامین اور اسلوب بیان پر۔ جبکہ اہل فکر جن میں مسلمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی، قرآن کریم کی معنوی ترتیب اور اس کے اسلوب بیان پر غور و فکر کرتے ہیں۔

قرآن کریم ظاہری طور پر آیات (Verses)، رکوع (Ruku)، سورتوں (Chapters) اور اجزا (Parts) میں منقسم ہے۔ اس تقسیم میں آیات اور سورتوں کی ترتیب الہی راہنمائی اور منشاء کے مطابق حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لگوائی تھی جس میں تاحال کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

آیات اور سورتوں کی ظاہری ترتیب کے لحاظ سے بھی قرآن کریم تمام دُنیا کی کتب میں ایک ممتاز اور الگ مقام رکھتا ہے۔ ترتیب کے حوالہ سے ایک حقیقت بہت غیر معمولی ہے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب وہ ترتیب نہیں ہے جس میں یہ نازل ہوا تھا بلکہ وہ ترتیب محض اُس دور کے مطابق تھی جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ نزول کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی راہنمائی میں اس کو اس دائمی ترتیب میں مرتب کرواتے رہے جو کہ آئندہ زمانے کے لیے مناسب اور ضروری تھی اور جو آج رائج ہے۔ اس ترتیب میں آیات کی ترتیب بھی شامل ہے اور سورتوں کی ترتیب بھی۔ قرآن کریم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (القیامۃ: 18)

یعنی اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے۔

ترتیب آیات

جہاں تک آیات کی ترتیب کا تعلق ہے تو تمام مسلمان محققین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی ترتیب اپنی نگرانی میں خود مقرر فرمائی تھی نیز یہ کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب

جمع کا کام بھی یقیناً وحی الہی کے مطابق اور خدا تعالیٰ کی دائمی حکمتوں اور منشا کے تحت ہوا ہے اور ہر وحی کے ساتھ جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اس بات سے بھی آگاہ فرماتے تھے کہ اس حصہ وحی کو کس سورت میں کس جگہ لکھا جائے اور آپ اسی ترتیب کے مطابق اپنے سامنے کتابوں سے لکھواتے تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ:

كان النبي ﷺ لما تنزل الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول
له ضع هذه الآية في سورة التي يذكرونها كذا وكذا
(سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب من جهر بها)

یعنی جب کوئی آیات نازل ہوتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان (کاتبین وحی) میں سے کسی کو بلا بھیجتے جو آپ کے زیر نگرانی وحی الہی تحریر کیا کرتے تھے اور انہیں ہدایات دیتے کہ اس آیت کو فلاں سورۃ میں فلاں جگہ رکھ دو۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت عثمانؓ کا یہ قول روایت کیا ہے:

”بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر بیک وقت مختلف سورتوں کے حصے نازل ہوتے تھے۔ جب بھی کوئی وحی قرآن نازل ہوتی تو آپ کسی لکھنے والے کو جو آپ کے سامنے بیٹھ کر لکھتا تھا بلا کر فرماتے کہ اس حصہ کو فلاں سورت میں اس جگہ شامل کر کے لکھو جہاں فلاں فلاں مضمون بیان ہوا ہے اور اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ لکھو۔“

(مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 75 حدیث عثمان بن عفان)

پس ترتیب آیات کے بارہ میں مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آیات کی موجودہ ترتیب خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آیات کو مختلف سورتوں میں ان کی جگہوں پر رکھتے تھے۔ مستشرقین یہ تو نہیں مانتے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اس لیے ترتیب آیات کے بارہ میں یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ آیات کی یہ ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ہے۔

ترتیب سور

اکثر مسلمان علماء یقین رکھتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب بھی تو قینی یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے۔ مگر بعض کے نزدیک اس بات کے کافی شواہد نہیں ملتے کہ تمام سورتوں کی ترتیب خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے بلکہ ان کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بعض سورتوں کی ترتیب خود مقرر فرمائی تھی اور باقی سورتوں کو امت کی صوابدید پر چھوڑا تھا کہ جیسے چاہیں مرتب کر دیں۔ مستشرقین بھی اکثر یہی موقف اختیار کرتے ہیں کہ سورتوں کی

ترتیب صحابہ کی لگائی ہوئی ہے اور یہ کہ دائمی ترتیب میں جمع کرتے ہوئے ترتیب نزولی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ ابن وراق نے اس معاملہ میں بھی ہرزہ سرائی کی ہے۔ کہتا ہے:

The Koran is written in Arabic and divided into chapters (suras or surah) and verses (ayah; plural, ayat). There are said to be approximately 80,000 words, and between 6,200 and 6,240 verses, and 114 suras in the Koran. Each sura, except the ninth and the Fatihah (the first sura) begins with the words "In the name of the Merciful, the Compassionate." Whoever was responsible for the compilation of the Koran put the longer suras first, regardless of their chronology, that is to say, regardless of the order in which they were putatively revealed to Muhammad.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg 105)

یعنی قرآن عربی زبان میں لکھا ہوا ہے اور مختلف سورتوں اور آیات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80000 الفاظ، 6200 سے 6240 تک آیات ہیں۔ نویں سورت اور الفاتحہ کے علاوہ جو کہ پہلی سورت ہے، تمام سورتیں ان الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ جس نے بھی قرآن مدون کیا ہے اس نے زیادہ لمبی سورتیں شروع میں رکھی ہیں بلکہ ترتیب نزول یعنی اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا جس میں کہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن محمد (ﷺ) پر نازل کیا گیا۔

یہ کہنا کہ ”6200 سے 6240 تک آیات ہیں“ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا آیات میں کسی قسم کی کمی بیشی کا شبہ ہے یعنی کچھ نسخوں میں کچھ آیات کم ہیں اور کچھ میں کچھ آیات زیادہ ہیں۔ جیسا کہ ابن وراق نے اعتراض بھی کیا ہے۔ دراصل ایسا بالکل نہیں ہے۔ آیات کے شمار میں اکوڑ کا فرق محض اس لیے ہے کہ بعض علما کے نزدیک ایک جگہ آیت ختم ہوتی ہے اور بعض اگلی آیت کو بھی گزشتہ آیت کا ہی حصہ سمجھتے ہیں اس طرح شمار کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے مگر اس سے یہ مراد نہیں کہ الفاظ یا حروف کم یا زیادہ ہیں۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو یہ فرق بھی معنوی وسعت کا باعث ہے۔ پھر آیات کے شمار کے فرق کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض علما بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو ہر سورت کی پہلی آیت شمار نہیں کرتے اس لیے ان کے شمار میں ہر سورت کی ایک آیت ان لوگوں کے شمار سے کم ہوتی ہے جو بسم اللہ کو ہر سورت کی پہلی آیت شمار کرتے ہیں اور اس طرح سارے قرآن کریم میں 113 تک آیات کے شمار کا فرق پیدا ہو جاتا ہے مگر یہ صرف آیات کے نمبروں کے اندراج اور شمار کا اختلاف ہے۔ عالم اسلام میں شائع ہونے والے قرآن کریم کے تمام نسخہ جات میں بہر حال ہر سورت سے قبل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ درج کی جاتی ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ خواہ اسے سورت کی پہلی

آیت شمار کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ جماعت احمدیہ عالمگیر کی طرف سے شائع ہونے والے نسخہ ہائے قرآن کریم میں بسم اللہ شمار کر کے آیات کی تعداد 6347 اور رکوع کی تعداد 564 ہے۔ پس یہ ایسا کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے قرآن کریم کی حفاظت کے معاملہ میں شبہ پیدا ہو۔ جارج سیل لکھتا ہے:

Having mentioned the different editions of the Koran, it may not be amiss here to acquaint the reader, that there are seven principal editions, if I may so call them, or ancient copies of that book;.... Of these editions, the first of Medina makes the whole number of the verses 6,000; the second and fifth, 6,214; the third, 6,219; the fourth, 6,226; and the last, 6,225. But they are all said to contain the same number of words, namely, 77,639; and the same number of letters, vis., 323,015

(George Sale: The Koran; The Preliminary Discourse; Section 3; pg: 45,46)

یہ کہنا کہ قرآن کریم کے مختلف متن ہیں ان سے کہیں قاری غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ گویا سات مختلف بڑے متن ہیں۔ اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں کہ سات قدیم نسخہ جات ہیں (تو درست ہوگا) ان میں سے پہلا جو مدینہ میں تھا اس کی آیات کا شمار 6,000؛ دوسرے اور پانچویں کی آیات کا شمار 6,614 تیسرے کی آیات کا شمار 6,619 چوتھے کی آیات کا شمار 6,226 اور آخری یعنی چھٹے کی آیات کا شمار 6,225 ہے۔ مگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان سب کے الفاظ کی تعداد ایک ہی ہے یعنی 77,639 اور یہاں تک کہ حروف کی تعداد بھی ایک ہی ہے یعنی 323,015۔

اس وضاحت کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہاں سے ابن وراق اپنے اس دجل کی بنیاد بنا رہا ہے کہ قرآن کریم کے بہت سے متن تھے جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے۔ آئندہ بھی حقائق کو الفاظ کے جامے میں اس طرح لپیٹے گا کہ قاری غلط فہمی کا شکار ہوتا چلا جائے۔

اسی طرح ابن وراق کی یہ بات بھی درست نہیں کہ سوائے نویں سورۃ اور الفاتحہ کے جو کہ پہلی ہے تمام سورتیں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ سے ہی شروع ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ پھر ابن وراق حفاظت قرآن کریم پر حملہ کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش میں ہے کہ اگر واقعی قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا بھی تھا تو بھی اب موجودہ قرآن وہ نازل شدہ قرآن نہیں ہے کیونکہ علاوہ دوسری تبدیلیوں کے، اس کی اصل ترتیب یعنی ترتیب نزولی بھی بدل دی گئی ہے۔ کہتا ہے: ”جس کسی نے بھی قرآن مدون کیا ہے اس نے زیادہ لمبی سورتیں شروع میں رکھی ہیں بلا ترتیب نزول...“ ابن وراق ”جس کسی نے

بھی قرآن مدون کیا ہے“ کے الفاظ سے یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ موجودہ ترتیب کے بارہ میں بھی شک ہے کہ کس نے لگائی۔ چنانچہ جب معلوم ہی نہیں کہ کس نے قرآن مدون کیا نیز جب اصل ترتیب ہی بدل دی گئی تو کس طرح قرآن کریم کو محفوظ کلام الہی مانا جائے؟

ذیل کی سطور میں ہم یہ اس حقیقت کے ثبوت پیش کریں گے کہ سورتوں کی ترتیب بھی خدا تعالیٰ کی مقرر شدہ ہے اور رسول کریم نے الہی راہنمائی میں اپنی نگرانی میں لگوائی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورتوں کو نزول کے ساتھ ہی ایک خاص ترتیب سے لکھواتے اور حفظ کروادیتے تھے اور قرآن کریم آج بھی بعینہ اسی ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔

اس حقیقت کے ثبوت میں قرآن کریم کی اندرونی گواہی بھی موجود ہے کہ سورتوں کی ترتیب خدا کی مقرر کردہ ہے اور بہت سے تاریخی دلائل بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ذیل میں دونوں قسم کے ثبوت درج کیے جاتے ہیں:-

سورتوں کی ترتیب پر قرآن کریم کی اندرونی گواہی

سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی جمع اور اشاعت کے تمام مراحل خدا تعالیٰ کے ذمہ ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے: رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً. (الفرقان: 33) یعنی ہم نے اس قرآن کی ترتیب بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی رکھی ہے۔ تمام عربی لغات ترتیل کے معنوں میں تالیف یعنی ترتیب سے جمع کرنے کے معنی بھی بیان کرتی ہیں۔ لسان العرب میں ہے رتل الكلام: احسن تالیفه یعنی کلام کی تالیف کو بہترین بنایا۔ پھر فرمایا:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (القيامة: 18)

یعنی اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے۔

پس کیسے ممکن ہے کہ اتنے واضح ارشادات کی موجودگی میں یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک اور ترتیب سے قرآن کریم نازل فرماتا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے سورتوں کی ترتیب بدل دیتے تھے اور اُس ترتیب سے نہیں رکھتے تھے جس میں وہ نازل ہو رہی تھیں جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جمع قرآن اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا پس جو بھی ترتیب اللہ تعالیٰ لگاتا تھا یہ محال تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بدلتے۔ اللہ تعالیٰ اس وسوسہ کو رد کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ فرماتا ہے:

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاثِتٍ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ

عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (يونس: 16)

ترجمہ: وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آیا اسے ہی تبدیل کر دے۔ تو کہہ دے کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ میں نہیں پیروی کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں یقیناً ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

مطلب یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے متعلق تمام باتیں وحی الہی سے کرتا ہوں اور اس میں خود کوئی دخل نہیں دیتا۔ لہذا میں کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ہر سورۃ سے پہلے لکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حکم سے ہے نہ کہ وحی سے۔ یا ترتیب قرآن اور سورتوں کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خود رکھے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے فرماتا ہے کہ قرآن مجید سے متعلق میں ہر بات کو وحی سے ہی طے کرتا ہوں اور یہ کہنا کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو وحی الہی سے ایسا کرتے تھے مگر صحابہؓ نے اپنی مرضی سے بعض تغیرات کر دیئے۔ بالکل ہی خلاف عقل ہے۔ کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں تھا تو صحابہ کو کیسے یہ حق حاصل ہو سکتا تھا اور وہ سوائے اس کے کہ نعوذ باللہ انہیں مرتد قرار دیا جائے کب ایسا کر سکتے تھے؟

(تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 45)

حضرت امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر کے تحت یہ بیان فرماتے ہیں:

سورۃ یونس کی اس آیت کے تحت کئی مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب خود خدا تعالیٰ نے قائم تھی اور اپنے رسول کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں دیا تھا کہ اپنی مرضی سے ترتیب قرآن میں کوئی تصرف کرتے۔

(تفسیر کبیر رازی ج 7، صفحہ 55، 56 ناشر دارالکتب العلمیہ تہران طبع دوم)

تفسیر القرطبی میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔

یہ آیت اس بارہ میں ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ قرآن کو کسی اور ترتیب سے پیش کریں مگر آپ کو اس کا اختیار نہ تھا۔..... اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ جو کچھ بھی آپ فرماتے تھے جب کہ وہ وحی پر مبنی تھا تو وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا نہ

اب یہاں اللہ تعالیٰ دس سورتیں بنانے کا چیلنج دیتا ہے۔ موجودہ ترتیب میں سورۃ ہود گیارہویں سورت ہے۔ گویا جس نے یہ چیلنج دیا ہے اسے علم تھا کہ دائمی ترتیب میں اس سے قبل دس سورتیں درج ہوں گی۔ اسی طرح سورۃ حج میں آیت ہے اِحْلَلْتُ لَكُمْ الْاَنْعَامَ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (الحج: 31) اب اس آیت میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تم پر یہ مضامین حلال و حرام کے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس آیت میں جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ما قبل مضامین کا ہے اور موجودہ ترتیب میں یہ مضامین سورۃ حج سے قبل کی سورتوں میں ہی بیان ہوئے ہیں۔ یعنی سورۃ البقرۃ، مائدۃ، انعام، نحل اور اس سورت کے بعد سورۃ الناس کی ”س“ تک یہ مضامین بیان نہیں ہوئے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ ترتیب خدا تعالیٰ کی مقرر فرمودہ ہی ہے اور بدلی نہیں گئی کیونکہ خدا تعالیٰ موجودہ ترتیب کے حوالہ سے ہی بات کر رہا ہے۔ پس صحابہؓ نے قرآن کریم کی جو بھی ترتیب پیش کی وہ وہی تھی جو خدا تعالیٰ کی مقرر فرمودہ تھی۔

سورتوں کی ترتیب کے توفیقی ہونے پر سورتوں کا باہمی تعلق اور ترتیب مضامین قرآن کریم کی ایک عظیم الشان اندرونی گواہی اور الہی شہادت ہے۔ مثلاً سورۃ الفاتحہ کے تمام تر مضامین سورۃ البقرۃ میں قدرے تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اگر سورتوں میں کوئی ترتیب نہیں تھی تو پھر ان کے مضامین کیسے ایک دوسرے سے مربوط ہو گئے؟ اسی طرح مقطعات کے حوالہ سے سورتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں ایک جیسے مقطعات کی سورتیں ایک ترتیب سے درج ہیں۔

سورتوں کی ترتیب پر احادیث اور روایات سے دلائل

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ زمانہ نبوی میں بھی قرآن مجید کی سورتوں کی ایک معروف، مشہور اور مستعمل ترتیب ضرور تھی جو ترتیب نزول سے مختلف تھی۔ اسی ترتیب کے مطابق حفاظ تلاوت کرتے، اسی کے مطابق نمازوں میں تلاوت ہوتی تھی اور ہر سال رمضان میں اسی ترتیب کے مطابق جس قدر حصہ قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا دور مکمل کیا کرتے تھے اور اپنی زندگی میں آنے والے آخری رمضان میں آپؐ نے ایک کی بجائے دو مرتبہ دور مکمل کیا۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اَسْرَّ اِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلِّ سَنَةٍ وَاِنَّهُ عَارِضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ
وَلَا اُرَاهُ اِلَّا حَضَرَ اَجْلِي

بخاری کتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہؓ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں میرے ساتھ قرآن کریم کا دور مکمل کرتے تھے اور اس سال دو مرتبہ دور مکمل کیا ہے۔ ضرور میری وفات کا وقت قریب ہے۔

اسی طرح بخاری کی ہی روایت ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک مرتبہ قرآن کریم پیش کیا جاتا تھا اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال دو مرتبہ آپ کے سامنے قرآن کریم پیش کیا گیا۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب کان جبریل يعرض القرآن على النبي ﷺ)

اسی طرح ایک اور روایت میں ہے:

ان جبریل کان يعارضني القرآن كل سنة مرة و أنه عارضني الآن مرتين
(زرقانی شرح مواهب الدنیہ جلد ۸ صفحہ ۲۵۰، ۲۶۳)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل ہر سال ساتھ میرے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتا اور اس (یعنی آخری) سال دو مرتبہ دور کیا۔

کتب حدیث میں کثرت سے ملنے والی اس مستند حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً سورتوں کی کوئی نہ کوئی ترتیب تو ضرور تھی جس کے مطابق یہ دہرائی کی جاتی تھی نیز کاتب رسول حضرت زید بن ثابتؓ بھی اس ”الْعُرْضَةُ الْأَخْيِرَةَ“ یعنی آخری دور قرآن میں شریک تھے اور اپنی وفات تک لوگوں کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں جمع قرآن کے لیے آپؐ پر اعتماد کرنے کی ایک وجہ آپ کو حاصل ہونے والی یہ سعادت بھی تھی۔ یہ وہ ترتیب تھی جو آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کے تحت نزول کے ساتھ ساتھ لگا رہے تھے اور اسی کو رائج فرما رہے تھے۔

(البرهان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 237)

پس ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس ترتیب میں قرآن کریم جمع کیا گیا وہ صحابہؓ نے اپنی صوابدید پر اپنی مرضی سے نہیں لگائی تھی بلکہ الہی راہنمائی اور منشا کے عین مطابق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی تھی اور کاتبین وحی کو آپ اسی ترتیب سے قرآن کریم لکھواتے اسی ترتیب سے حفظ کرواتے۔ ہر رمضان میں رسول کریمؐ جبرائیل کی معیت میں اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کا دور مکمل فرماتے اور یہی ترتیب آج بھی رائج ہے۔

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”رمضان المبارک میں اس وحی کا آغاز ہوا ہے اور پھر جتنا جتنا قرآن کریم نازل ہوتا رہا رمضان المبارک میں اس کی باقاعدہ دہرائی ہوتی رہی اور جب سے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے

اس کے بعد ہر اگلے رمضان میں جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اس وقت تک جتنی وحی نازل ہو چکی ہوتی تھی اسے دہراتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شروع سے ہی قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ترتیب کا ایک دور جاری تھا اور وہ ترتیب ساتھ ساتھ مکمل ہوتی جا رہی تھی۔“

(خطبہ جمعہ فرمودہ 7 اپریل 1989)

رسول کریم ﷺ کی لگوائی ہوئی ترتیب بدلی نہیں گئی

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مانا کہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی ہی لگائی ہوئی تھی یا جو یہ نہیں مانتا کہ قرآن کریم کلام الہی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ مانا کہ ترتیب آنحضرت نے لگائی تھی مگر کیا دلیل ہے کہ وہ ترتیب اب تک قائم ہے؟ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو ہم سورتوں کی ترتیب پر قرآن کریم کی اندرونی گواہی کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں جس کا ایک نمونہ گزشتہ سطور میں درج کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس حقیقت کے اثبات میں روایات اور تاریخ سے بھی بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے:

ابن مسعود یقول فی بنی اسرائیل والکھف و مریم و طہ والانبیاء انھن من العتاق الاول وھن من تلادی

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب تالیف القرآن)

سورتہائے بنی اسرائیل کہف، مریم، طہ، انبیاء عتاق اول میں سے ہیں اور میرا خزانہ ہیں۔

موجودہ ترتیب میں یہ سورتیں اسی ترتیب سے ہیں۔ پھر ذکر ملتا ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت نے ایک ہی تہجد میں قرآن شریف کی پہلی پانچ سورتوں یعنی سورت بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ یا انعام کی جو مجموعی طور پر قرآن کریم کے پنجم حصہ کے برابر بنتی ہیں، اکٹھی بالترتیب قراءت فرمائی تھی (ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب ما یقول الرجل فی رکوعہ وسجودہ) ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے صلوٰۃ الکسوف پڑھاتے ہوئے بالترتیب بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ کے کچھ حصے تلاوت فرمائے (ابواب الجمعة باب ماجاء فی صلاة الكسوف) آج بھی یہ سورتیں اسی ترتیب سے ہیں۔

اسی طرح صحابہ کثرت سے سبع طوال کی اصطلاح استعمال کرتے تھے جس سے قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی سات سورتیں مراد ہوتی تھیں جو آج بھی اسی ترتیب سے ہیں۔

(اتقان فی علوم القرآن: نوع ثامن عشر جمعہ و ترتیبہ، فصل سوم صفحہ 63)

بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے:

عن عائشۃ ان النبی ﷺ کان اذا اوی لی فراشہ کل لیلة جمع کفیه ثم نفث فیہما فقرا فیہما قل هو اللہ احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ

بَرَبِ النَّاسِ (بخاری کتاب تفسیر القرآن باب فضل المعوذتین)
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاں ہوتے تو ہرات
سوتے وقت بستر پر لیٹ کر ہمیشہ اپنی ہتھیلیوں پر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ کر پھونکتے۔

بخاری میں ایک مشہور واقعہ درج ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک
صحابیؓ نے نماز پڑھاتے ہوئے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی پھر وہ ختم ہوئی تو سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ (بخاری
کتاب الصلوٰۃ) وہ صحابیؓ اسی ترتیب سے سورتیں پڑھ رہے تھے جو کہ آج بھی رائج ہے۔
پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک صحابی ام کلثوم بن الہدمؓ نماز پڑھاتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی بھی
سورت کی تلاوت سے قبل سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اُن کو صحابہؓ نے ٹوکا۔ (صحیح بخاری کتاب
الاذان باب الجمع بین السورتین فی رکعة) حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ:

انّ صنيعه ذلك خلاف ما الفوه من النبي

(فتح الباری شرح بخاری کتاب الاذان باب الجمع بین السورتین فی رکعة)

یعنی اُن کا یہ فعل اُس ترتیب کے خلاف تھا جو صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب قرآن کا اس لحاظ سے
خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ تلاوت کے وقت بلاوجہ ترتیب سور کو نہ بدلا جائے۔

پھر قرآن کے تحریر کرنے کے بارہ میں احادیث میں 'تالیف' کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ کتب حدیث میں کثرت سے
قرآن کریم کی تالیف کے ابواب درج کیے گئے ہیں۔ مثلاً بخاری میں کتاب جمع القرآن باب تالیف القرآن میں امام
بخاری نے مختلف روایات درج کی ہیں جن میں رسول کریم کے زمانہ میں تالیف قرآن کا ذکر ہے۔ عربی میں تالیف
سے مراد ہے ترتیب سے جمع کرنا۔ پس امام بخاریؒ کا اپنی صحیح میں پورا ایک باب اس موضوع پر باندھنا اس بات کی
دلیل ہے کہ آپؐ کے نزدیک ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ترتیب ضرور تھی۔ رمضان میں
جبریلؑ کے ساتھ قرآن کریم کی دہرائی کا ذکر بھی اسی باب کے تحت کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپؐ کے نزدیک
بھی اس دہرائی کی ایک خاص ترتیب تھی۔ قرآن کے بارہ میں تالیف کا لفظ حضرت امام بخاریؒ نے ہی پہلی مرتبہ
استعمال نہیں کیا بلکہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ بھی یہی لفظ اپنی ایک روایت میں استعمال کرتے ہیں:

كنا عند رسول الله ﷺ نؤلف القرآن في الرقاع

(ترمذی کتاب المناقب عن رسول الله باب فی فضل الشام و الیمن)

(الاتقان: الجزء الاول؛ النوع الثامن عشر؛ جمع القرآن و ترتیبہ، صفحہ: 58)

(تفسیر روح المعانی جزء اول صفحہ 21 مکتبہ امدادیہ ملتان)

یعنی ہم رسول کریمؐ کے عہد مبارک میں ٹکڑوں پر قرآن کریم تالیف کیا کرتے تھے۔
علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں:

واخرج عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول انما الف القرآن على ما
كانو يسمعون من النبي ﷺ (وقال) بغوى في شرح السنة لصحابه
رضى الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي انزله الله على رسوله
من غير ان زادوا او نقصوا منه شيئا خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته
فكتبوه كاملا كما سمعوا من رسول الله ﷺ من غير ان قدموا شيئا او
اخرروا او وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله ﷺ و كان الرسول
الله ﷺ يلقين اصحابه و يعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب
الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل اياه... فثبت ان سعى
الصحابه كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه-

(اتقان في علوم القرآن: نوع ثامن عشر جمعه و ترتيبه، فصل سوم صفحہ 61)

وہب سے روایت ہے کہ انہوں نے مالک کو یہ کہتے سنا کہ قرآن کریم اسی ترتیب پر ہوئی
ہے جس پر (صحابہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے۔ علامہ بغوی سے شرح السنۃ میں لکھا
ہے کہ صحابہ نے قرآن کریم کو اسی ترتیب سے مجلد صورت دی تھی جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول پر نازل فرمایا تھا۔ انہوں نے نہ تو اس میں کوئی تقدیم و تاخیر کی اور نہ ہی اپنی طرف
سے کوئی ایسی ترتیب لگائی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کو اسی ترتیب کی تلقین کیا کرتے تھے اور وہی ترتیب سکھایا کرتے تھے جو آج بھی
ہمارے مصاحف میں پائی جاتی ہے اور جو آپ نے جبریل کی وساطت سے سیکھی تھی۔... پس یہ
امر ثابت شدہ ہے کہ صحابہ کی جمع قرآن کی کوشش کا تعلق ایک جگہ جمع کرنے سے تھا اور ترتیب
سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

پھر لکھتے ہیں:

واخرج ابن داشته في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن
سليمان بن بلال قال سمعت ربيعة يسأل لم قدمت البقرة و ال عمران و
قد نزل قبلهما بضع و ثمانون سورة بمكة و انما انزلتا بالمدينة فقال قدمت

و الف القرآن علی علم ممن الفہ بہ و من کان معہ فیہ و اجتماعہم علی علمہم بذلک فہذا مما ینتہی الیہ ولا یسئل عنہ۔

(اتقان فی علوم القرآن: نوع ثامن عشر جمعہ و ترتیبہ، فصل سوم صفحہ 63)

ابن داشر نے کتاب المصاحف میں ابن وہب کے حوالہ سے سلیمان بن بلال سے روایت کی ہے کہ ”میں نے ربیعہ سے کسی کو یہ سوال کرتے ہوئے سنا کہ بقرہ اور آل عمران کی سورتیں کیوں مقدم کی گئیں حالانکہ اس سے پہلے مکہ میں اسی (80) سے زائد سورتوں کا نزول ہو چکا تھا اور یہ دونوں مدینہ میں آ کر نازل ہوئیں؟ ربیعہ نے جواب دیا ”قرآن کی تالیف ان لوگوں کے علم پر ہوئی ہے جو اس کے مؤلف کے دیکھنے والے اور اس کی تالیف میں مؤلف کے ساتھ موجود تھے اور ان لوگوں کا اس کا علم رکھنے کے ساتھ اس پر اجماع بھی ہو گیا تھا۔ لہذا یہی بات اس بارہ میں کافی ہے اور اس سے زیادہ سوال کرنا غیر ضروری ہے۔“

مشہور شیعہ مفسر ابو فضل بن الحسن الطبرسی اپنی کتاب مجمع البیان میں علامہ مزنی کا قول اپنی تحقیق کی تائید میں پیش کرتے ہیں کہ:

و کذلک القول فی کتاب المزنی ان القرآن علی عہد رسول اللہ (ص) مجموعاً مؤلفاً علی ما ہو علیہ الان و استدلل علی ذلک بان القرآن کان یدرس و یحفظ جمیعہ فی ذلک الزمان حتی عین علیہ جماعة من الصحابہ فی حفظہم لہ و انہ کان یرض علی النبی (ص) و یتلی علیہ الان جماعة من الصحابہ مثل عبد اللہ بن مسعود و اُبی بن کعب و غیرہما ختموا القرآن علی النبی (ص) عدۃ ختمات و کل ذلک یدل بادی تامل علی انہ کان مجموعاً مرتباً غیر مبتور ولا مبثوث و ذکر ان من خالف فی ذلک من الامامیۃ و حشویہ لا یعتد بخلافہم فان الخلاف فی ذلک مضاف الی قوم من اصحاب الحدیث نقلوا اخباراً ضعیفۃ۔

(ابو الفضل بن الحسن الطبرسی: مجمع البیان جلد اول: مقدمۃ الكتاب: الفن

الخامس صفحہ 15 الناشر مکتبہ علمیہ الاسلامیہ ملتان)

یعنی اسی کے مطابق علامہ مزنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں.... کہ قرآن کریم دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی جمع ہو گیا تھا اور اسی طرح تالیف ہو گیا تھا جیسا کہ آج کے دور میں ہے اور اس پر یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید مکمل و مجموعی طور پر اس زمانہ میں پڑھا

جاتا تھا اور حفظ کیا جاتا تھا اور صحابہ کی ایک جماعت عبداللہ بن مسعودؓ اور اُبی بن کعب وغیرہ نے چند مرتبہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ختم کیا اور ان باتوں پر ادنیٰ تا مل اور تفکر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم مدون و مرتب ہے اور غیر مرتب نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ امامیہ اور حشویہ میں سے جن لوگوں نے اس رائے کی مخالفت کی ہے ان کی باقی لوگوں کے مقابل میں کوئی حقیقت اور شمار نہیں ہے کیونکہ یہ اختلاف صرف اصحاب حدیث کے ضعیف خبریں نقل کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔

اس کے بعد علامہ آلوسی اپنی تائید میں علامہ ابوبکر الانباری اور علامہ کرمانی وغیرہ کا قول درج کرتے ہیں۔

علامہ ابوبکر انباری کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سارا قرآن سماء دنیا تک اتارا پھر بیس سے زائد برسوں میں مختلف حصوں میں تقسیم کر کے (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر) اتارا۔ جب کوئی معاملہ وقوع پذیر ہوتا تو مسئلہ کی وضاحت کے لیے کوئی سورت نازل ہو جاتی یا کوئی شخص کوئی سوال پوچھتا تو اس کے جواب کے لیے کوئی آیت اترتی اور جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت یا سورۃ کی ترتیب کے لحاظ سے جگہ بتاتے۔ یوں ترتیب قائم ہوتی گئی۔ پس اب اگر کوئی اس ترتیب میں سے کسی حصہ کو آگے پیچھے کرے گا تو قرآن مجید کے مضامین کے ربط کو توڑ دے گا۔

اور علامہ کرمانی کا قول ہے کہ سورتوں کی جو ترتیب اب ہے یہی ترتیب اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں بھی ہے اور اسی ترتیب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبریل کے ساتھ اس حصہ کا دور فرمایا کرتے تھے جو اس وقت تک جبریل علیہ السلام کے ذریعہ آپ پر نازل ہو چکا ہوتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ اسی ترتیب کے مطابق دو دفعہ دور مکمل فرمایا۔ نیز طیبی نے بھی یہی کہا ہے اور علما کے ایک جم غفیر سے بھی یہی قول مروی ہے۔

(ابوالفضل بن الحسن الطبرسی: مجمع البیان جلد اول: مقدمة الكتاب: الفن

الخامس: جمع القرآن صفحہ 15 الناشر مکتبہ علمیه الاسلامیہ ملتان)

تفسیر خازن میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اسی ترتیب سے صحابہ کو سکھایا تھا جو ترتیب جبریل نے سکھائی تھی۔

(تفسیر خازن الجزء الأول مقدمة الكتاب صفحہ 9)

صاحب البرہان نے اس بارہ میں امام بیہقی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

ہم زید بن ثابت سے روایت درج کر آئے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب زمانہ نبویؐ میں ہوئی، اسے ایک ہی جلد میں جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں ہوا اور حضرت عثمانؓ کے دور میں اسے متعدد نسخوں میں نقل کیا گیا۔

(البرہان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 235)

اتقان میں علامہ سیوطیؒ نے کثرت کے ساتھ ایسی روایات، احادیث اور آراء درج کی ہیں جن میں علما اور بزرگان کے اس عقیدہ کا اظہار موجود ہے کہ سورتوں کی ترتیب آیات کی ترتیب کی طرح توقیفی ہے یعنی الہی راہنمائی کے مطابق آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوائی ہے۔ علامہ سیوطی کا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ سورتوں کی دائمی ترتیب توقیفی ہے۔

(الاتقان جز اول؛ النوع الثامن عشر؛ الفصل؛ جمعه ترتیبہ صفحہ 58)

پس روایات اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سورتوں کی معروف ترتیب تھی جو توقیفی تھی اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لگائی گئی تھی اور آپؐ نے امت کو سکھادی تھی۔ جبکہ دوسری جانب کہیں کوئی ایسی روایت تو نہیں ملتی جس میں خصوصیت سے یہ ذکر ہو کہ سورتوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں تھی نہ ہی کوئی ایسی روایت ملتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورتوں کی ترتیب لگانے کے ضمن میں صحابہ کو کوئی نصیحت فرمائی ہو۔ جبکہ بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ کئی سورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے تلاوت کیا کرتے تھے جس ترتیب سے وہ آج بھی موجود ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورتوں کی کوئی نہ کوئی ترتیب ضرور تھی۔

تمام سورتوں کی ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ کوئی ترتیب نہیں تھی۔ اگر تمام سورتوں کی ترتیب کے بارہ میں روایات نہ بھی ملیں بلکہ چند سورتوں کے بارہ میں ہی ملیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیلؑ کی معیت میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ایک خاص ترتیب تھی جس کے مطابق یہ دور ہوتا تھا اور جس کے مطابق صحابہ تلاوت کیا کرتے تھے اور نمازوں اور تراویح وغیرہ میں تلاوت ہوا کرتی تھی۔ آیات کے بارہ میں بھی تو روایات میں اصولی طور پر یہ طریق بیان کر دیا گیا کہ رسول کریم نئی نازل ہونے والی ہر آیت کی مخصوص جگہ کی وضاحت فرماتے اور بتاتے کہ فلاں سورت میں جہاں فلاں مضمون بیان ہو رہا ہے وہاں فلاں آیت سے قبل یا بعد میں یہ آیت لکھ دو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج تمام آیات کی ترتیب آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ راویوں نے سمجھانے کے لیے چند مثالیں محفوظ کر لیں ساری آیات کی ترتیب بیان نہیں کی۔ اسی طرح ترتیب سور کے ضمن میں بھی راویوں نے چند سورتوں کی مثال پیش

کر کے ترتیب سور کا ذکر کر دیا۔ یہ تمام روایات ترتیب سور کا ذکر تو کرتی ہیں مگر چونکہ یہ ترتیب رائج اور مستعمل تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی ترتیب نہیں تھی اس لیے تمام سورتوں کی ترتیب کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ جس طرح آیات کے بارہ میں اصولی طور پر ایک علم آگے منتقل کر دیا اسی طرح سورتوں کے بارہ میں اصولی طور پر بتا دیا کہ ان کی ترتیب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی رہنمائی کے مطابق لگائی۔ اگر ایک سے زیادہ ترتیبیں رائج ہوتیں تو ضرور ان کا الگ الگ ذکر کیا جاتا یا پھر ضرور سورتوں کا کسی دوسری ترتیب سے بھی ذکر ملتا نہ کہ ہمیشہ اسی ترتیب سے کہ جو آج بھی رائج ہے۔ تمام روایات کے مجموعی مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی نئی ترتیب نہیں سکھائی گئی بلکہ کسی ایک مخصوص ترتیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص کار سے لاہور گیا تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کہنے والے اور سننے والے کو علم ہے کہ کار کیا چیز ہے اور لاہور کیا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ سنانے والے کو سکھایا جا رہا ہے کہ کار کوئی چیز ہے اور لاہور کوئی جگہ ہے۔ صرف ایک خبر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ان روایات میں بھی صرف خبر دی جا رہی ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ایک ترتیب ہو اور کہنے والے اور سننے والے کو اس ترتیب کا علم ہو۔ پس اگر تمام روایات میں کچھ سورتوں کا ایک ہی ترتیب سے ذکر ملتا ہے تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی ترتیب رائج ضرور تھی اور جب وہی ترتیب آج بھی رائج ہے تو کیا یہ واضح ثبوت نہیں کہ آج بھی قرآن کریم کی ترتیب وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور بدلی نہیں گئی؟ پھر جب چند سورتوں کی ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس آیت ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (النجم: 4,5) کی موجودگی میں قرآن کریم کی ترتیب تو قیفی ترتیب ہی مانی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت امام رازی کی رائے گزر چکی ہے۔

یہ بات بھی زیر نظر رہے کہ اگر سورتوں کی ایک ترتیب نہ ہوتی تو پھر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت آسانی سے نہ کر پاتا۔ اس بات کو یوں سمجھا جاسکتا ہے آپ 1 سے لے کر 114 تک کبھی بنا کسی ترتیب کے گنتی گنیں۔ مثلاً 67، 83، 59، 01، 39، 81، 73 وغیرہ۔ اس طرح اول تو آپ گن ہی نہیں سکیں گے اور اگر بزم خود کسی طرح گن کر پورا کر بھی لیں تو سننے والا اگر غور سے سُن رہا ہو تو بتائے گا کہ آپ نے فلاں فلاں عدد چھوڑ دیا ہے بلکہ اسی طرح اگر آپ بنا کسی ترتیب کے لکھنا شروع کر دیں اور جب اپنے خیال کے مطابق مکمل لکھ لیں تو ان ہندسوں پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی عدد گنتی سے رہ گئے ہیں۔ پس 1 سے لے کر 114 تک بلا ترتیب گنتی گننا ممکن نہیں کجا یہ کہ قرآن کی 114 سورتوں کی زبانی تلاوت کی جائے۔

اگر سورتوں میں کوئی ترتیب نہ ہوتی تو پھر ضرور تھا کہ ترتیب لگاتے وقت اختلاف رائے ہوتا۔ کوئی کسی سورت کو آگے رکھتا اور کوئی کسی کو۔ مثلاً کچھ سورتوں کی ترتیب لگاتے وقت سب سے پہلے یہ مد نظر رکھا جاتا کہ ان کی ترتیب کتنے طریق پر لگائی جاسکتی ہے۔ فرض کیجیے کہ تین سورتوں کی ترتیب کا مسئلہ ہے۔ اگر ان کی ترتیب کے

مختلف انداز دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کو (6 = 2 x 3) چھ طریقوں سے مرتب کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہی معاملہ چھ سورتوں کی ترتیب میں پیش آئے تو ان کی 720 ترتیبیں لگائی جاسکتی ہیں۔ اب قاری سوچ لے کہ 114 سورتوں کی ترتیب میں امکانات کو ہی دیکھا جائے تو ترتیب کے لاتعداد امکانات تک بات جا پہنچتی ہے۔ پس اگر سورتوں کی کوئی ترتیب نہ ہوتی تو حضرت ابو بکرؓ کے جمع قرآن کے وقت جھگڑا کھڑا ہو جاتا اور لمبی بحثیں اُٹھتیں۔ کیونکہ ناممکن ہے کہ مسلمان قوم جو کہ قرآن کریم کے عشق میں جان کی بازی لگانے کی ان گنت مثالیں قائم کر چکی تھی اور اس معاملہ میں بہت حساس تھی، بلا وجہ خدا تعالیٰ کی نازل کردہ ترتیب کو بدلنے پر خاموش رہتی اور آرام سے ایک غیر معروف ترتیب پر متفق ہو جاتی۔ پس بہت خوفناک جھگڑا کھڑا ہو جاتا کیونکہ مختلف مجوزہ ترتیبیں سامنے آتیں۔ مختلف ترتیبوں کے حامی مختلف گروہ بن جاتے۔ مثلاً ترتیب نزولی یا سورتوں کے حجم کے لحاظ سے ترتیب۔ اس صورت میں بھی دو ترتیبیں ممکن تھیں یعنی بڑی پہلے اور چھوٹی بعد میں یا اس کے الٹ یعنی چھوٹی پہلے اور بڑی بعد میں۔ پھر کئی کہنے والے یہ بھی کہتے کہ جب کوئی ترتیب ہے ہی نہیں تو اس جھگڑے سے بہتر ہے کہ اسی ترتیب میں سورتوں کو لکھ لو جس ترتیب میں وہ نازل ہوئی ہیں۔ کیوں بلا وجہ ترتیب نزولی کو بدلتے ہو اور چند صحابہ کی رائے باقی صحابہ اور امت پر ٹھونسے ہو؟ اور پھر ترتیب بدلنے والے صحابہؓ دلائل دیتے اور پھر فیصلہ کیا جاتا کہ کون سی ترتیب بہتر ہے اور آیا بہتر ترتیب رکھی جائے یا وہی ترتیب رہنے دی جائے جو کہ نزول کے مطابق ہے۔ پھر ان دلائل کا روایات میں ذکر ہوتا اور بعد کے علماء یہ بحث نہ کرتے کہ ترتیب تو قیفی تھی یا صحابہ کی لگائی ہوئی تھی۔ بلکہ یہ بحثیں اُٹھتیں کہ دونوں گروہوں میں سے زیادہ درست بات کون سا گروہ کر رہا تھا۔ اگر نئی ترتیبیں لگانے والے گروہ حق پر تھے تو ان میں سے بہترین ترتیب کس کی تھی؟ بعد میں بھی تو علماء نے صرف اسی بات پر لمبی بحثیں کی ہیں کہ ترتیب تو قیفی ہے یا صحابہؓ نے لگائی ہے تو پھر جب ترتیب لگائی جا رہی تھی تو کیا اس وقت اختلافی بحثیں نہیں اُٹھنا چاہئیں تھیں؟ مگر ایسے کسی جھگڑے کا کھڑا نہ ہونا اور ایک یا ڈیڑھ سال کے قلیل عرصہ میں امت کا اتفاق رائے سے ایک عظیم الشان کارنامہ سرانجام دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے ایک ترتیب موجود تھی جس پر ساری امت متفق تھی۔ اگر یہ کام صحابہ کی صوابدید پر چھوڑا جاتا تو اتنا عظیم اختلاف پیدا ہوتا کہ تاریخ میں اس کا ذکر ضرور آتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں لکھے ہوئے قرآن کریم کے حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں دوبارہ لکھنے پر اس قدر احتیاط برتی گئی تو پھر کیسے ممکن تھا کہ ترتیب لگاتے وقت صحابہؓ سے رائے نہ لی جاتی؟ لازماً اختلاف پیدا ہونا چاہیے تھا اور کئی ایک گروہ بننے چاہئیں تھے۔ پھر ان گروہوں میں بحث و مباحثہ کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے تھا مگر اتنی خاموشی سے بنا کوئی دوسری بات کیے سارے صحابہؓ کا اس ترتیب پر متفق ہو جانا بتاتا ہے کہ ترتیب کے ضمن میں کوئی دوسری رائے تھی ہی نہیں اور ایک ہی مروج اور منفقہ ترتیب تھی اور وہی آج بھی مروج ہے کیونکہ آج بھی وہی ترتیب ہے جو روایات سے ثابت ہوتی ہے اور ایسا ذکر کہیں نہیں ملتا

کہ قرآن کریم کی ترتیب کبھی بدلی گئی ہو۔ پس حضرت ابو بکرؓ نے ترتیب قرآن کے باب میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو نیا تھا بلکہ ترتیب قرآن کے ضمن میں کوئی نیا قدم اٹھایا ہی نہیں۔

حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں بھی قرآن کریم کی ایک قراءت پر امت کو جمع کرتے وقت بھی ترتیب کی کوئی بحث نہیں اٹھی اور وہی ترتیب برقرار رکھی گئی جو پہلے سے چلی آرہی تھی۔ غور طلب امر یہ ہے کہ اختلاف قراءت پر تو صحابہ میں بحثیں اٹھیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت تھا تو کیا ترتیب بدلنے پر صحابہ خاموش رہ سکتے تھے؟ ضرور اس کا ذکر بھی روایات میں آنا چاہیے تھا۔ ضرور ذکر ملنے کی بات کس درجہ مضبوط ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اسلامی روایات کا کچھ مطالعہ رکھتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی مؤرخین اور راویوں نے ذکر کیے بغیر نہیں چھوڑا اور اس کا اعتراف مستشرقین بھی کرتے ہیں۔ پس کیسے ممکن ہے کہ اتنے باریک بین مؤرخین اور راوی ترتیب قرآن کے ضمن میں اتنی اہم بحث کو کلیتاً بھول جاتے اور دوسری طرف ایسے مخالفین بھی خاموش ہیں جن کی مخالفت کی مثال تاریخ مذاہب دینے سے قاصر ہے اور ترتیب کے ضمن میں ابتدائی دور میں جبکہ ترتیب کی بحث اٹھنی چاہیے تھی، کوئی اعتراض نہیں کرتے اور باوجود اس کے کہ قرآن ترتیب نزولی کے لحاظ سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد تیار تھا (حضرت علیؓ نے قریباً چھ ماہ کے عرصہ میں یہ نسخہ تیار کیا تھا) پھر بھی امت محمدیہ میں کوئی اختلاف تو کیا سرسری سا بھی ذکر نہیں ملتا کہ یہ آواز اٹھی ہو کہ قرآن کی ترتیب، ترتیب نزولی ہونی چاہیے اور بلاوجہ بدلنی نہیں چاہیے۔ حضرت علیؓ جنہوں نے ترتیب نزول کے مطابق قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا تھا کو بھی حضرت ابو بکرؓ اور عثمان رضی اللہ عنہما کے کام سے پورا اتفاق تھا۔ (روح المعانی جلد اول زیر عنوان جمع القرآن صفحہ 23 مکتبہ امدادیہ ملتان)

پس ثابت ہوا کہ یہ واضح حقیقت تھی اور گویا صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ایک دائمی ترتیب ہے اور وہ ترتیب، ترتیب نزولی نہیں ہے اور وہی دائمی ترتیب رسول کریم سے لے کر اب تک رائج ہے اور اس کے بدلنے کا سوال کبھی نہیں اٹھا۔

علامہ سیوطیؒ ابو بکر بن انباریؒ کا قول درج کرتے ہیں:

قال ابو بکر بن الانباری انزل الله القرآن كله الى سماء الدنيا ثم فرقه في
بضع وعشرين فكانت السورة تنزل لامر يحدث والآية جوابا
لمستخبر ويوقف جبريل النبي ﷺ على موضع الآية والسورة فاتساق
السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي ﷺ فمن قدم سورة او
اخرها فقد افسد نظم القرآن-

(اتقان في علوم القرآن: نوع ثامن عشر جمعه و ترتیبه، فصل سوم صفحہ 62)

ابوبکر بن انباری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سارا ایک ہی بار سماء و نیار نازل کیا اور پھر اسے بیس سے زائد برسوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے حسب موقع آیت آیت اور سورت سورت کر کے نازل کیا۔ جبریلؑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات اور سورتوں کی ترتیب بتاتے تھے۔ پس سورتوں کی ترتیب بھی آیات اور حروف کی ترتیب کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہے اور جو بھی کسی ایک بھی سورۃ کو آگے یا پیچھے کرے گا تو وہ قرآن کریم کا حسنِ نظم خراب کرے گا۔

پس یہ امر واضح ہے کہ تالیفِ قرآن، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی اور نگرانی میں آپ کی حیات مبارکہ میں ہی صحابہؓ نے کر دی تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راہنما خود خدا تھا اور ترتیب کے بارہ میں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا، بلکہ اجماع ہوا تھا۔ آخر میں سورتوں کی ترتیب کے توقیفی ہونے پر ایک اور مضبوط اور ناقابلِ تردید ثبوت پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں:

قرآن کریم کی احزاب یا منازل میں تقسیم

ترتیب سور کے توقیفی اور غیر مبدل ہونے ایک بہت بڑا اور ناقابلِ تردید ثبوت قرآن کریم کی احزاب اور منازل میں تقسیم ہے۔ قرآن مجید سات احزاب (منازل) میں تقسیم ہے۔ یہ تقسیم قرآن مجید کی تلاوت کا دور ایک ہفتہ میں مکمل کرنے کی غرض سے ہے۔ اس بات کی قطعی ثبوت ملتے ہیں کہ منازل کی یہ تقسیم صحابہ کرام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مروج تھی۔ جس سے ترتیب سور کا ایک اہم ثبوت ملتا ہے۔ علاوہ ازیں اسی روایت کے مطابق اجزاء یعنی پاروں کی تقسیم بھی ارشاد نبویؐ کی روشنی میں صحابہ کرامؓ سے ہی منسوب ہے۔ چنانچہ روایت ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ - قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَيَّ ذَالِكَ
(بخاری کتاب فضائل القرآن باب فی کم یقرأ القرآن)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک دور ایک ماہ میں مکمل کیا کرو۔ اس پر میں نے عرض کی کہ میں تو اپنے اندر اس سے بھی جلد و درمکمل کرنے کی ہمت پاتا ہوں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ میں ایک دور مکمل کیا کرو اس سے کم وقت میں نہیں۔ صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی تعمیل میں آپ کے دور مبارک میں ہی قرآن کریم کو

سات برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ چنانچہ روایت ہے:

عن حذيفة التقي قال فسألنا أصحاب رسول الله ﷺ قلنا كيف
تحزبون القرآن قالو نحزبه ثلاث سور و خمس سور و سبع سور و تسع
سور و احدى عشرة و ثلاث عشرة و حزب المفصل من ق حتى نختم
(سنن ابی داؤد کتاب الصلاة باب تحزيب القرآن 1158)

حضرت حذیفہ الثقفیؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے مسلمان ایک دفعہ وفد کی صورت میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے... ہم نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے قرآن کریم کے احزاب کے بارہ میں سوال کیا تو انہوں نے بتلایا کہ ہم نے تین اور پانچ اور
سات اور نو اور گیارہ اور تیرہ اور پھر سورۃ ق سے آخر قرآن تک سورتوں کے حزب بنائے ہوئے ہیں۔

اسی مضمون کی حدیث الفاظ کے ادنیٰ سے فرق کے ساتھ مسند احمد: مسند المدینین اجمعین حدیث اوس بن ابی
اوس الثقفی نمبر 15578 پر درج۔ اس تقسیم کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

- 1- الفاتحة تا النساء (پہلی چار سورتیں)
- 2- المائدہ تا التوبہ (اگلی پانچ سورتیں)
- 3- یونس تا النحل (اگلی سات سورتیں)
- 4- بنی اسرائیل تا الفرقان (اگلی نو سورتیں)
- 5- الشعراء تا یسین (اگلی گیارہ سورتیں)
- 6- الصافات تا الحجرات (اگلی تیرہ سورتیں)
- 7- سورۃ ق تا الناس (اگلی پینسٹھ سورتیں)

حضرت علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں:

فهذا يدل على ان ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان
على عهد رسول الله ﷺ قال ويحتمل ان الذي كان مرتبا-
(اتقان في علوم القرآن: نوع ثامن عشر جمعه و ترتيبه، فصل سوم صفحہ 63)

یہ تقسیم اس بات کی دلیل ہے کہ سورتوں کی ترتیب آج بھی وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے عہد مبارک میں رائج تھی اور اُس دور میں بھی قرآن کریم کی سورتوں کی یہی ایک ترتیب ہوا
کرتی تھی

علامہ الزرکشی کی بھی یہی رائے ہے۔ (البرهان فی علوم القرآن جزو اول صفحہ 311)

عرض الانوار صفحہ 41'42'43 از قاضی عبدالصمد سیوہاری مطبوعہ جمید برقی پریس دہلی 1359ھ طبع اول)

علامہ سیوطیؒ کا رجحان اس طرف ہے کہ سوائے سورۃ توبہ اور انفال کے باقی تمام سورتوں کی ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہی راہنمائی میں لگائی تھی۔ مذکورہ بالا تقسیم میں یہ دونوں سورتیں بھی شامل ہیں۔ نیز جب باقی سورتوں کی ترتیب ان روایات کی روشنی میں نیز عقلاً تسلیم کی جاسکتی ہے تو پھر سورۃ توبہ اور انفال کی ترتیب کو رسول کریم کی طرف کیوں منسوب نہیں کیا جاسکتا؟

بعض عیسائی مستشرقین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کی مکمل ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم فرمادی تھی اور اس باب میں بھی کوئی کمی باقی نہ تھی۔ مثلاً John Burton کہتا ہے:

(the Qur'an as we have it today is) "the text which has come down to us in the form in which it was organized and approved by the Prophet.... What we have today in our hands is the Mushaf of Muhammad."

(John Burton, The Collection of the Qur'an, Cambridge: Cambridge University Press, 1977, p.239-40)

یعنی جو متن ہم تک پہنچا ہے یعنی اسی صورت میں ہے جو نبی (کریم ﷺ) نے بذاتِ خود

مرتب اور منظور کیا۔ آج جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے یہ دراصل مصحف محمدی ہے۔

فرانسیسی مستشرق Dr. Maurice Bucaille لکھتے ہیں:

Over a period of twenty years, the Prophet classified its sections with the greatest of care, as we have seen. The Qur`an represented what had to be written down during his own life-time and learned by heart to become part of the liturgy of prayers.

(The bible The Qura`n and Science (translation from French by Alastair D. Pannel and The Ahtor) Under Heading Conclusions Pg 250-251)

بیس سال سے زیادہ عرصہ میں نبی (ﷺ) نے بذاتِ خود درجہ احتیاط کے ساتھ اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ قرآن وہ چیز ہے جو کہ آپ (ﷺ) کی حیاتِ مبارکہ میں بطور خاص تحریر کیا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا جاتا تھا تاکہ فرض نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاسکے۔

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”قرآن اُس وحی کی ظاہری صورت ہے جو حضرت جبریل کے ذریعہ (حضرت) محمد (ﷺ)

کو پہنچی۔ جس کو فوراً قلمبند کر لیا گیا اور اہل ایمان نے حفظ کر لیا۔ خود (حضرت) محمد (ﷺ)

نے اس کی سورتوں میں ترتیب قائم کی۔“

(The bible The Qura`n and Science (translation from French by Alastair D. Pannel and The Ahthor) Under Heading "The Books of Old Testament Pg 12)

گزشتہ سطور میں بیان کردہ ثبوتوں کا خلاصہ یہ ہے:

- ۱۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترتیب کے مطابق قرآن کریم لکھواتے تھے جو کہ ترتیب نزولی سے مختلف تھی۔
 - ۲۔ حفاظ اسی ترتیب کے مطابق حفظ کرتے جس ترتیب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھواتے اور اسی ترتیب کے مطابق تلاوت کرتے۔
 - ۳۔ نمازوں، درسوں، خطبات، تقاریر اور مجالس وغیرہ میں قرآن کی سورتوں کی تلاوت موجودہ ترتیب کے مطابق کی جاتی تھی۔
 - ۴۔ ہر رمضان میں قرآن کریم کی دہرائی ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری آنے والے رمضان میں دو مرتبہ ہوئی۔ یہ دہرائی اسی ترتیب کے ساتھ ہوتی تھی۔
 - ۵۔ منازل کی تقسیم رسول کریم کے دور میں رائج تھی اور اس تقسیم میں سورتوں کی جو ترتیب تھی وہی ترتیب آج بھی رائج ہے اور اس میں کسی زمانہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔
 - ۶۔ حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں جمع قرآن کے وقت امت کا ترتیب کے معاملہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا۔
 - ۷۔ حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں جمع قرآن کے وقت امت کا ترتیب کے معاملہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا۔
- پس یہ سب امور اس بات پر دلیل ہیں کہ ترتیب سورنہ صرف رائج تھی بلکہ انتہائی واضح امر تھا جیسا کہ آج کل ہے۔ پس آیات کی طرح سورتوں کی دائمی ترتیب بھی تو قینی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہی راہنمائی میں خود لگائی اور جس طرح امت نے اسے لگایا نہیں اسی طرح امت اسے بدل بھی نہیں سکتی۔
- اب ذیل میں ان روایات کا تجزیہ کرتے ہیں جن سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورتوں کی کوئی ترتیب تھی ہی نہیں یا جو ترتیب تھی وہ کبھی بعد میں بدل دی گئی اور صحابہؓ نے قرآن کریم میں سورتوں کی ترتیب لگائی تھی۔
- اس خلاف واقعہ خیال کے پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ وہ روایات ہیں جن میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا جمع کیا ہوا قرآن مجید غیر مجلد اور آن سلا تھا جس کے نتیجہ میں بعض لوگوں میں یہ غلط خیال بھی رواج پا گیا ہے کہ

قرآن کریم کی سورتوں میں کوئی ترتیب نہیں تھی ہاں ہر سورت کے اندر آیات باہم مرتب اور مربوط تھیں۔ مثلاً الاتقان میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے متعلق علامہ سیوطی ایک یہ روایت درج کرتے ہیں:

”حضرت ابو بکرؓ نے قرآن کو ”صحائف“ میں جمع کرایا اور سورتوں کے اندر آیات کو اسی ترتیب سے رکھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بتائی تھی بعد ازاں حضرت عثمانؓ نے اس کو ”مصحف واحد“ میں جمع کیا اور سورتوں کو باہم ترتیب بھی دی۔“

(الاتقان جزء اول نوع ثامن عشر: جمع القرآن و ترتیبہ فصل سوم صفحہ 58)

اس غلط خیال کی حمایت میں بخاری کی ایک روایت سے غلط طور پر تقویت حاصل کی گئی ہے۔ اس روایت میں بھی حضرت ابو بکرؓ کے جمع کردہ نسخہ کے لیے ”صحف“ اور حضرت عثمانؓ کے تیار کردہ نسخہ کے لیے ”مصحف“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن)

اس کی شرح میں فتح الباری شرح البخاری میں لکھا ہے:-

”صُحُفٌ اور مُصْحَفٌ“ میں فرق یہ ہے کہ وہ اُن سُلے اور اوراق جن میں حضرت ابو بکرؓ کے وقت قرآن جمع کیا گیا تھا اور جن میں سورتیں غیر مرتب اور منتشر تھیں اُن سُلے اور اوراق کو ”صُحُفٌ“ کہتے ہیں۔ اس میں ہر سورۃ الگ طور پر تھی اور گو ہر سورۃ میں آیات باہم ترتیب سے تھیں مگر سورتیں خود ترتیب سے نہ تھیں۔ پھر جب ان کو جلد کیا گیا اور سورتوں کو بھی باہم ترتیب دے دی گئی تو وہ مجلد شکل ”مُصْحَفٌ“ کہلاتی ہے۔

(حافظ ابن حجر العسقلانی: فتح الباری شرح البخاری کتاب فضائل القرآن باب

جمع القرآن جلد 9 صفحہ 118)

پھر علامہ بدرالدین محمد بن عبداللہ الزرکشیؒ نے ابوالحسین بن فارس کا یہ قول ان کی کتاب ”المسائل الخمس“ کے حوالہ سے درج کیا ہے:

”جمع قرآن کا کام تین مرتبہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پھر عہد صدیقی میں اور پھر تیسری مرتبہ عہد عثمانی میں ہوا جس میں سورتوں کو ترتیب دی گئی۔“

(البرہان فی علوم القرآن، الجزء الاول صفحہ 238 ”نسخ القرآن فی المصاحف“)

مذکورہ بالا رائے علامہ زرکشی کی نہیں ہے۔ آپ صرف ایک دوسری رائے کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کی رائے گزر چکی ہے کہ آپ کے نزدیک ترتیب سورتوں کو قیفی ہے۔ مندرجہ بالا حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ:-

۱۔ حضرت ابو بکرؓ نے قرآن کریم مکمل طور پر کاغذ پر لکھوایا،

۲۔ اس مجموعہ کو ایک جلد میں جمع نہیں کیا گیا تھا چنانچہ اس میں سورتوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ مگر مؤخر الذکر بات غلط ہے اور ایک غلط فہمی کے نتیجہ میں راہ پا گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہدِ خلافت میں قرآن کریم کی ترتیب کا مسئلہ تھا ہی نہیں بلکہ اصل مسئلہ اختلافِ قراءت کا خاتمہ تھا اور یہ ہم گزشتہ باب میں ثابت کر آئے ہیں۔

صاحب البرہان، علامہ الزرکشی مذکورہ بالا روایات درج کرنے کے بعد ان سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا مسلک یوں بیان کرتے ہیں:-

”یہ بات غلط ہے کہ قرآن مجید کو ایک جلد میں سب سے پہلے حضرت عثمانؓ نے جمع کیا بلکہ اس کام کا سہرا بھی حضرت ابو بکرؓ کے سر ہے۔“

(البرہان فی علوم القرآن، الجزء الاول صفحہ 235 ”نسخ القرآن فی المصاحف“)

پھر اپنی تائید میں امام بیہقیؒ کا یہ قول پیش کرتے ہیں:

”ہم زید بن ثابتؓ سے یہ روایت کر آئے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب زمانہ نبوی میں ہوئی اور اسے ایک جلد میں جمع کرنے کا کام حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں ہوا اور حضرت عثمانؓ کے وقت میں اسے متعدد نسخوں میں نقل کیا گیا۔“

(البرہان فی علوم القرآن، الجزء الاول صفحہ 235 ”نسخ القرآن فی المصاحف“)

پھر ایک اور جگہ اپنا موقف ان الفاظ میں لکھتے ہیں:

”صحابہؓ کا قرآن کریم ایک جگہ جمع کرنے کا سبب وہی ہے جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قرآن کھجور کی ٹہنی کے ڈنٹھلوں، شانے کی ہڈیوں، پتھر کی باریک سلوں اور لوگوں کے سینوں میں منتشر تھا۔ پھر حفاظ کرام کے کثرت سے وصال پا جانے کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ مبادا قرآن کا ایک حصہ ضائع ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کو اسی ترتیب اور طریق سے جمع کیا اور لکھا جیسا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا اور اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی تقدیم و تاخیر نہیں کی۔“

(البرہان فی علوم القرآن جزء اول صفحہ 236 ”نسخ القرآن فی المصاحف“)

پھر ”البرہان“ میں حضرت علیؓ کا یہ قول درج ہے:-

”رَحِمَهُ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ بَيْنَ لَوْحَيْنِ“

(بدرالدین الزرکشی: البرہان فی علوم القرآن، الجزء الاول صفحہ 235)

یعنی اللہ تعالیٰ ابو بکرؓ پر رحم کرے کہ آپؓ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک جلد کی

شکل میں جمع کیا۔

کتاب المصاحف میں بہت سی اسناد کے ساتھ حضرت علیؓ کا یہ قول درج ہے کہ:

عن علیؓ قال اعظم الناس اجرا في المصاحف ابو بكر فانه اول من جمع بين اللوحين (ابن ابی داؤد: کتاب المصاحف الجزء الاول صفحه 5)
قرآن کریم کے معاملہ میں حضرت ابو بکرؓ کا اجر سب سے عظیم ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کو مجلد شکل میں پیش فرمایا۔

”الاتقان“ میں قاضی ابو بکر کا قول ان کی کتاب ”الانتصار“ کے حوالہ سے درج ہے کہ:

حضرت عثمانؓ نے وہ کام نہیں کیا تھا جو حضرت ابو بکرؓ نے کیا تھا اور حضرت ابو بکرؓ نے یہ کام کیا تھا کہ قرآن مجید کو ”بَيْنَ لَوْحَيْنِ“ یعنی ایک جلد میں جمع کیا تھا۔

(الاتقان فی علوم القرآن الجزء الاول نوع الثامن عشر جمعه و ترتیبه صفحه 61)

مندرجہ بالا مستند روایات سے یہ حقیقت بپا یہ ثبوت پہنچ جاتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں جمع قرآن کے وقت قرآن کریم کی سورتوں کی کوئی نئی ترتیب نہیں لگائی گئی بلکہ وہی ترتیب قائم رہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق لگائی تھی اور جو آپؐ کے عہد مبارک میں صحابہ میں رائج اور مستعمل تھی۔ کتاب المصاحف میں ابن ابی داؤد یہ روایت درج کرتے ہیں کہ جمع حضرت ابو بکرؓ نے کیا اور حضرت عثمانؓ کے بارہ میں لکھتے ہیں:

فوفق الله عثمان فمسخ تلك الصحف في المصاحف فبعث الله الى المصار و ثبها في المسلمين:

(ابن ابی داؤد: کتاب المصاحف الجزء الاول صفحه 23)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو یہ توفیق دی کہ حضرت ابو بکرؓ کے جمع کیے ہوئے مصاحف کی

نقول کروا کر بلاد اسلامیہ میں پھیلا دیں اور مسلمانوں میں رائج کر دیں۔

حضرت الحاج حکیم مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اس بارہ میں فرماتے ہیں:-

”لوگ حضرت عثمانؓ کو جامع القرآن بتاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ صرف عثمانؓ کے لفظ

کے ساتھ قافیہ ملا یا ہے۔ ہاں شائع کنندہ قرآن اگر کہیں تو کسی حد تک بجا ہے۔ آپ کی خلافت

کے زمانہ میں اسلام دُور دُور تک پھیل گیا تھا۔ اس لیے آپؐ نے چند نسخہ نقل کرا کر مکہ، مدینہ، شام

، بصرہ، کوفہ اور بلاد میں بھجوا دیئے تھے اور جمع تو اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہوئی ترتیب کے ساتھ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا تھا اور اسی پسندیدہ ترتیب کے مطابق ہم تک پہنچایا

گیا۔ ہاں اس کا پڑھنا اور جمع کرنا ہم سب کے ذمہ ہے۔“

(ضمیمہ اخبار بدر قادیان۔ 14 اپریل 1912ء بحوالہ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ 272)

حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تحریری شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کریم دے گئے تھے باقی ہر وہ شخص جو قرآن کریم کی خدمت کرتا ہے وہ جمع قرآن میں شریک ہے اور اس طرح جمع قرآن کا فریضہ ساری امت مسلمہ سرانجام دے رہی ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔

یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر سورتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی لگوائی ہوئی نہ ہوتی بلکہ امت نے اپنی مرضی سے لگائی ہوتی تو پھر قرین قیاس ہے کہ بعد میں کبھی ترتیب میں بہتری کی گنجائش نکل آتی اور جو شخص کسی ترتیب کو زیادہ درست سمجھتا اسے اختیار کر لیتا۔ اس طرح گویا قرآن کریم کی ترتیب لگانے کی ہر کسی کو اجازت مل جاتی۔ مگر آج تک ایسا نہ ہوا جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب بھی خدا تعالیٰ کی نازل کردہ ہے اور قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کی طرح اس کی ترتیب کی حفاظت بھی خود خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اور جس طرح قرآن کریم میں اور کوئی تبدیلی ممکن نہیں اسی طرح اس کی ترتیب میں بھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اگر یہ ترتیب خدا کی لگائی گئی نہ ہوتی بلکہ ابو بکرؓ نے لگوائی ہوتی تو پھر اب تک محفوظ نہ ہوتی اور مختلف ادوار میں اس کی مختلف ترتیبیں لگانے کی کوشش ضرور کی جاتی۔ خصوصاً جبکہ مختلف ادوار میں ایسے مسلم اور غیر مسلم علماء موجود رہے ہیں جن کا یہ خیال تھا کہ ترتیب سورہ تو قیفی نہیں ہے۔ پس قرآن کریم کے الفاظ اور آیات کی حفاظت کی طرح اس کی ترتیب کی حفاظت بھی اس کے تو قیفی ہونے کی ایک لطیف دلیل ہے۔

پھر یہ کہنا عقلاً بھی غلط ہے اور ہرگز قابل قبول نہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے قرآن تحریر تو کروایا مگر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگوائی ہوئی ترتیب کے مطابق ایک جلد میں جمع کر کے مکمل نہ کیا۔ ایک طرف یہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے اسی لیے قرآن کریم جمع کرنے کا حکم دیا تھا کہ کہیں قرآن کریم کی تحریرات ضائع نہ ہو جائیں اور دوسری طرف آپؐ کے بارہ یہ موقف رکھنا کہ پھر ان اوراق کو پراگندہ چھوڑ دیا اور جلد نہ کروایا سراسر نا انصافی ہے۔ نہ تو پہلے سے موجود تحریرات کو جلد کیا اور نہ ہی اس نئے نسخہ کو جلد کیا تو پھر ان علماء کے نزدیک آپؐ نے کام کیا کیا؟ حضرت ابو بکرؓ جیسے صاحب فراست و بصیرت نے اتنے عظیم الشان کام کا بیڑہ اٹھایا ہو اور ایک زبردست تحریک پر یہ سب شروع کیا ہو اور خاص نازک حالات میں اور ان کے نتیجہ میں ممکنہ ہولناک مصائب کے پیش نظر کیا ہو اور اس یقین پر کیا ہو کہ حفاظت قرآن کے ضمن میں ایک بہت اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ پھر وہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ دوم اور خاص مشیر نبوی کا ارفع و اعلیٰ مقام رکھنے والے

صاحب فراست حضرت عمرؓ کی خاص نگرانی، اور کاتب رسول کے ہاتھوں اور تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام نگرانی میں ہوا اور صحابہ بھی وہ جن پر لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (البقرة: 44) کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی۔ کیا ایسے اہم اور نازک کام کو ان خداداد بصیرت رکھنے والے اور دور اندیش عظیم لوگوں نے ادھورا، تشنہ اور مشتبہ چھوڑ دیا ہوگا؟ نیز کیا ایسا ممکن ہے کہ پھر اس نامکمل کام کو حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں بھی مکمل نہ کیا؟ خصوصاً ایسے وقت اور پس منظر میں جب کہ اس ساری مہم کا مقصد ہی قرآن کو آخری کتابی شکل میں محفوظ کرنا تھا۔ ہرگز ایسا نہیں! بلکہ انہوں نے اپنا فرض کمال امانت، دیانت اور کمال صحت کے ساتھ ادا کر دیا تھا اور یقیناً کر دیا تھا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَبَعَثْ ثَانِ
اگر اس امر حال کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھی یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ قرآن کریم کی سورتوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ کیونکہ سورتوں کی ترتیب ہونے اور بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ خصوصاً جبکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ حفاظ موجود تھے، قرآن کریم کی درس و تدریس جاری تھی، صحابہؓ اپنے اپنے طور پر کثرت سے قرآن کریم کا دور مکمل کیا کرتے تھے۔ پھر رمضان میں سارے قرآن کی دہرائی ہوتی تھی اور یہ سب ایک ترتیب سے ہی تھا۔ پھر منازل کی تقسیم سے ایک خاص ترتیب کا علم ہوتا ہے جو صحابہ کرامؓ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی رائج تھی۔ پس سورتوں کی ترتیب تو اس دور میں ہر خاص و عام کے علم میں تھی۔ اگر اس دور میں قرآنی مسودہ غیر مرتب شکل میں رکھ بھی دیا جاتا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کیونکہ ہر شخص جانتا تھا کہ قرآن کریم کی اصل ترتیب کیا ہے۔

حضرت ابوبکرؓ کے جمع قرآن کا مقصد تو امت کی گواہی اکٹھی کرنا تھا کہ انہیں مکمل اطمینان ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ چکے ہو۔ ترتیب بدلنے پر امت مسلمہ نے یہ اعتراض کیوں نہ کیا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب بدل دی گئی ہے اس لیے ہم گواہی نہیں دیں گے کہ یہ نسخہ بعینہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سپرد کیا تھا؟ پس اگر ترتیب نزول کے علاوہ پہلے سے کوئی ترتیب موجود نہ ہوتی اور حضرت ابوبکرؓ ترتیب لگوار ہے ہوتے تو ضرور اختلاف رائے کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔

حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں امت مسلمہ میں جو اختلاف راہ پارہا تھا وہ ترتیب سورتوں کا نہیں بلکہ مختلف قراءتوں کی وجہ سے تھا۔ پس آپؓ کے بارہ میں بھی یہ کہنا کہ اختلاف قراءت پر سورتوں کی نئی ترتیب قائم کر دی، سوال دیگر جواب دیگر والی بات ہے۔ اس طرح تو بجائے اختلاف حل ہونے کے ایک نیا اختلاف پیدا ہو جاتا۔

یہ بات بھی ذہن نشین رُوئی چاہیے کہ قرآن کریم کی ترتیب نزول کبھی بھی مسلمانوں میں رائج نہیں رہی اور علمی میدان میں محققین قرآنی معارف کو سمجھنے کے لیے تو اسے استعمال کرتے رہے ہیں لیکن قرآن کریم کی دائمی ترتیب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے صحابہؓ میں مکمل طور پر رائج اور محفوظ

شدہ تھی۔ جس کے بارہ میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا اور ترتیبِ نزول کا علم بھی ایسا تھا جو صرف صحابہ تک محدود تھا جو اسے آگے منتقل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اور واقعی اگر صحابہؓ یہ کارنامہ سرانجام نہ دیتے تو قرآن کے کئی معارف جو ترتیبِ نزول کی مدد سے سمجھنے آسان ہیں، مشکل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ اُن سب کو جزا دے کہ کس بار ایک بنی سے ایک ایک قرآنی امانت کو ہم تک پہنچایا۔ یہ سب حفاظتِ قرآن کے بارہ میں الہی تقدیر کا ایک نمونہ اور صحابہ کی قرآن کریم سے بے پناہ محبت اور اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری کا پوری شان کے ساتھ نبھانے کا زندہ ثبوت ہے۔ (رضی اللہ عنہم)

خلاصہ

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ہی کی نگرانی میں قرآن کریم کی دائمی ترتیب لگائی گئی جو آج بھی بلا رد و بدل ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ترتیب خود خدا تعالیٰ نے لگوائی تھی اور یہ وہی ترتیب ہے جس کے مطابق آپ اور آپ کے مقرر کردہ اساتذہ، صحابہ کو قرآن کریم پڑھاتے اور سکھاتے تھے۔ اسی ترتیب کے مطابق قرآن کریم حفظ کیا جاتا تھا اور اسی ترتیب کے مطابق نمازوں وغیرہ میں تلاوت کی جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس ترتیب سے قرآن کو ایک جلد میں جمع کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ ہمہ وقت تازہ بہ تازہ وحی کا نزول ممکن تھا۔ مگر جب آپ کی وفات سے وحی شریعت کا نزول بند ہو گیا تو صحابہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی نگرانی میں قرآن کریم کو تمام تراحتیاطی تدابیر، اور حفاظت کی جملہ شرائط پوری کرتے ہوئے اس فریضہ کو سرانجام دیا۔ تمام امت اس میں براہِ راست شریک تھی اور ہر مسلمان پورے انشراح صدر کے ساتھ قرآن کریم کی جمع و تدوین پر متفق ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر یہ کام مخالفین کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ تدوین بائبل کی طرح بند کمروں میں منعقد کی جانے والی مجالس میں نہیں بلکہ عوام الناس کے سامنے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ ایک ایک لفظ پر پوری امت کی گواہی ثبت ہو رہی تھی۔ یوں گویا مسلمان اور غیر مسلم دونوں اس جمع و تدوین کے گواہ بنتے چلے جا رہے تھے۔

حکم و عدل علیہ السلام کا ارشاد:-

اس یقین محکم کی بنیاد حکم و عدل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس قول فیصل پر ہے:

ترجمہ (از عربی عبارت):- پھر اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ کھڑے ہوئے تا

جمع سور قرآن کو اس ترتیب کے مطابق جمع کرنے کا اہتمام کریں جس ترتیب کو انہوں نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔“

(حمامۃ البشری، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 217)

پھر ابن وراق کا یہ کہنا بھی جہالت کی حد ہے کہ ”جس کسی نے بھی قرآن کریم جمع کیا ہے اس نے زیادہ لمبی سورتیں شروع میں رکھی ہیں۔“ اس بات میں ایک ذرہ بھی شک نہیں اور یہ حقیقت بہت عام فہم تاریخی، عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت شدہ اور ناقابل تردید ہے کہ جمع قرآن کا کام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی اور آپ کے دور میں ہوا تھا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور خود اپنی جناب سے اس کے سامان کیے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ہر قسم کی ترتیب خدا تعالیٰ کی راہنمائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے لگائی تھی۔ پس اس صورت میں تو وہ اعتراض بھی باقی رہتا ہی نہیں جس کی ابن وراق نے یہ جھوٹی بنیاد بنائی تھی کہ قرآن جس نے بھی جمع کیا ہے اس ترتیب کے مطابق نہیں کیا جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ، جس نے قرآن نازل کیا ہے اسی نے جمع کیا اور اسی نے اس کی دائمی ترتیب، نزول کی ترتیب سے ہٹ کر لگائی ہے۔ پس بشمول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص نے ترتیب نہیں بدلی بلکہ خود خدا نے بدلی ہے۔ اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زیادہ لمبی سورتیں شروع میں رکھی ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ یعنی جھوٹی بنیاد بنا کر جو بات کی وہ بات بذات خود غلط ہے۔ سورتوں کی ترتیب ایسی نہیں ہے جیسا کہ بیان کر رہا ہے۔ سورتوں کی ترتیب کے بارہ میں ابن وراق ہی نہیں بلکہ اکثر مستشرقین بلا سوچے سمجھے ایک دوسرے کی تقلید میں یہ کہہ دیا کرتے ہیں اور کئی کورانہ تقلید کرنے والے مسلمان بھی اس غلطی کو دہرا دیتے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

یہ دعویٰ ایک نہایت لغو اور حقیقت سے دُور دعویٰ ہے۔ کیونکہ (۱) قرآن کریم کی سورتوں کی موجودہ ترتیب خود اس دعویٰ کو باطل کرتی ہے۔ پہلی سورۃ فاتحہ ہے جو نہایت چھوٹی اور سات آیتوں کی سورۃ ہے۔ دوسری بقرۃ نہایت لمبی ہے۔ تیسری آل عمران ہے جس کے بیس رکوع ہیں لیکن چوتھی نساء کے چوبیس رکوع ہیں اسی طرح اگلی سورتوں میں بھی کئی جگہ فرق ہے۔ پس یہ کہنا کہ لمبائی کے مطابق سورتوں کو آگے پیچھے رکھ دیا گیا ہے درست نہیں۔ (۲) قرآن کا جمع کرنا کسی بندہ کا فعل نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فعل نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (القیامۃ رکوع ۱) [18] یعنی قرآن کریم کا جمع کرنا اور اس کا دُنیا میں پھیلانا یہ دونوں کام میں خود کروں گا اور میرے خاص حکم اور نگرانی سے یہ کام ہوں گے۔ پس ایک مسلمان کے نزدیک تو یہ انسانی کام ہو ہی نہیں سکتا اور غیر مسلموں کے لیے وہ جواب ہے جو

پہلے بیان ہو چکا۔ (۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ سب سورتوں کے مضامین میں جو ترتیب موجود ہے اگر صرف لمبائی اور اختصار پر انہیں آگے پیچھے رکھا گیا تھا تو پھر سورتوں کے مضامین میں جوڑ اور اتصال کیوں کر پیدا ہو گیا؟
(تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 52 تفسیر سورۃ الفاتحہ)

حضرت مرزا بشیر احمد صاحبؒ اس بارہ میں فرماتے ہیں:

اکثر یورپین محققین یہ کہا کرتے ہیں کہ... قرآنی سورتوں کو ان کی لمبائی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مگر یہ ایک سراسر بے بنیاد خیال ہے کیونکہ اول تو ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ جمع و ترتیب کا کام خود آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خدائی تفہیم کے مطابق سرانجام دیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم جیسے انسان کی طرف اس قسم کا عبث فعل کبھی منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا فعل وہی شخص کر سکتا ہے جو عقل و خرد سے بالکل عاری ہو۔ نزول کی ترتیب کو محض اس وجہ سے ترک کرنا کہ قرآنی سورتیں لمبے اور چھوٹے ہونے کے لحاظ سے ترتیب دی جاسکیں جس میں کوئی بھی علمی فائدہ متصور نہیں ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات تو درکنار ایک معمولی عقل کا آدمی بھی اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات تو اس سے بہت ہی بالا اور ارفع ہے۔ دوسرے سورتوں کا وجود ہی جس کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہے کسی ترتیب کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ قرآن شریف سورتوں کی صورت میں نازل نہیں ہوا بلکہ آیات کی صورت میں بہت آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے اور سورتیں آیات کے جمع ہونے سے عالم وجود میں آئی ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات عملاً بھی بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ قرآن میں سورتوں کے لمبا چھوٹا ہونے کی ترتیب مد نظر رکھی گئی ہے اور قرآنی سورتوں کی آیات کی تعداد کا ایک سرسری مطالعہ بھی اس کی تردید کے لیے کافی ہے کیونکہ بیسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ بعض لمبی سورتیں ہیں جو پیچھے رکھی گئی ہیں اور بعض چھوٹی سورتیں ہیں جو پہلے آگئی ہیں اور نہ معلوم مغربی محققین اس معاملہ میں اس قدر کوتاہ نظری اور فاش غلطی کے مرتکب کس طرح ہوئے ہیں۔

(سیرۃ خاتم النبیین حصہ دوم زیر عنوان ترتیب قرآن صفحہ 535)

اس اعتراض کے پیدا ہونے کی ایک وجہ قرآن مجید کے نزول کے حالات سے ناواقفیت بھی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے دور میں تو کئی کئی سورتیں اکٹھی نازل ہوتی تھیں۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک سورۃ پہلے نازل ہونا شروع ہوئی لیکن ایک دوسری سورۃ جو بعد میں نازل ہونا شروع ہوئی اس سے پہلے مکمل ہو گئی۔ پس کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سی سورۃ پہلی ہے اور کون سی بعد کی۔ ایک سورۃ جو پہلے نازل ہونا شروع ہوئی جو پہلی ہے یا جس کا

نزول پہلے مکمل ہوا وہ پہلی ہے۔ ہاں اس حد تک یہ بات درست ہے کہ بعض سورتیں بعض دوسری سورتوں سے پہلے نازل ہونا شروع ہوئیں اور مکمل بھی پہلے ہوئیں۔ لیکن قرآن کریم میں وہ بعد میں نازل ہونے والی سورتوں کے بعد درج ہیں لیکن یہ جائے اعتراض نہیں کیونکہ خود خدا تعالیٰ، جس نے قرآن نازل کیا ہے وہی اس کی دائمی ترتیب لگانے والا ہے۔

قرآن کریم کی ترتیب نزولی کے بدلنے میں حکمت

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آگئی تھی کہ قرآن کریم کی ترتیب نزولی کو بدلا جائے اور اس بدلنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ ایک معقول سوال لگتا ہے کہ مگر شاید اس سوال کی معقولیت کو محسوس کرتے ہوئے ابن وراق نے یہ سوال اٹھانا پسند نہیں کیا اور یہ حکمت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن قرآن کریم کے اسلوب بیان اور اندرونی ربط کے بارہ میں اندازہ کرنے کے لیے اس حکمت کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

ترتیب کے بارہ میں روایات اور تحقیقات پر نظر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت اور سورۃ کو اس کے نزول کے ساتھ ہی اس کے مقام پر لکھوادیتے تھے اور یہ مقام وحی سے متعین ہوتا تھا اس لیے اس کا کوئی ایسا قاعدہ نہیں تھا کہ جو آیت آج نازل ہو رہی ہے وہ کل والی آیت کے بعد رکھی جائے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ نفس مضمون کے تعین سے کسی دوسری ہم مضمون آیت سے پہلے یا بعد میں رکھی جائے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ نئی نازل ہونے والی آیت اپنی لمبائی وغیرہ کے لحاظ سے جگہ پاتی ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ایک ترتیب سے رکھنا بتاتا ہے کہ ہر آیت کا ایک الہامی ربط اور مقام ہوتا تھا جس کی رو سے وہ آیت بالکل اسی جگہ چسپاں ہوتی تھی۔ ممکن ہے سطحی نظر سے دیکھنے سے وہ ربط اور تسلسل نظر نہ آتا ہو مگر جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات کو ان کی جگہوں پر رکھواتے تھے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ترتیب ضرور تھی وہ ترتیب کیا تھی؟ اس ضمن میں بحث آگے آئے گی۔ سر دست ترتیب نزول کو موجودہ ترتیب سے بدلنے کی حکمت پر بات ہو رہی ہے۔

قرآن کریم کے نزول کے ذریعہ دنیا کو ایک بالکل نیا اور عالمی نظام دیا جا رہا تھا۔ چنانچہ اول المخاطب لوگوں کے حالات کے مطابق اور ان کے روحانی، اخلاقی، معاشرتی مسائل اور پیش آمدہ واقعات اور ضرورت زمانہ کی مناسبت سے وحی قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ ایک دین کو بالکل آغاز میں متعارف کرانے کے لیے جن امور کی ضرورت پہلے ہو سکتی ہے وہ پہلے نازل کیے گئے اور جن کی ضرورت نسبتاً بعد میں ہوتی ہے وہ بعد میں نازل کیے گئے۔ لیکن دائمی ترتیب میں اس نزولی ترتیب کو بدل دیا گیا کیونکہ قرآن کریم کو مکمل کتابی صورت میں پیش کرنے کے لیے بعد میں آنے والوں کے مختلف حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف ترتیب کی ضرورت تھی۔ چنانچہ نزول

کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ایک ایسی ترتیب سے محفوظ کیا جا رہا تھا جو آئندہ زمانہ کے لیے موزوں تھی اور ترتیب نزول سے مختلف تھی۔ یہ ترتیب لگانا کسی انسان کے بس میں تھا بھی نہیں کیونکہ بفرض محال اگر کوئی انسان اپنے زمانہ کی ضرورت کو مکمل طور پر سمجھ بھی لے تو بھی آئندہ زمانوں کی ضرورت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ پس یہ امر قرآن کریم کے زبردست معجزہ ہونے اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے نہ کہ جائے اعتراض! اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ ایک عالم الغیب ہستی کا کلام ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی اس بارہ میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

پھر (اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ہم نے اس قرآن کی ترتیب بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی رکھی ہے۔ یعنی نزول قرآن تو اس رنگ میں ہوا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے لیے ضروری تھا لیکن بعد کی دائمی ترتیب ہم نے اور طرح رکھی ہے تاکہ آنے والے لوگ اپنے حالات کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ترتیب بھی اپنی ذات میں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود نازل کیا ہے۔ اگر اس کتاب کی تصنیف میں کسی انسان کا دخل ہوتا تو وہ اس کی ایک ہی ترتیب رکھتا اور جس قسم کے حالات اُسے پیش آتے۔ اُن کے مطابق وہ ایک کتاب تصنیف کرتا چلا جاتا مگر قرآن کریم چونکہ عالم الغیب خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک مستقل ہدایت نامہ تھا اس لیے اس نے اپنی حکمت کاملہ کے ماتحت اس کے نزول کی ترتیب اور رنگ میں رکھی اور اس کی تحریر کی ترتیب اور رنگ میں رکھی۔ نزول کی ترتیب تو اس زمانہ کے اولین مخاطبوں کے وساوس و شبہات کے ازالہ اور اُن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے رکھی گئی اور بعد کی ترتیب اُن لوگوں کے لیے رکھی گئی جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے مذہب سے بہت حد تک واقف ہونا تھا یا جن کے لیے مسلمانوں کی ایک قائم شدہ جماعت کو دیکھتے ہوئے وہ مسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے جن مسائل پر شروع میں بحث کرنا ضروری تھا۔ مثلاً تمام محدث اور مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ پہلی آیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کی تھی۔ حالانکہ موجودہ قرآن میں وہ سب سے آخری پارہ میں ہے اور آخری پارہ کے بھی آخری حصہ میں ہے۔ اب گنج سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور گنج قرآن کے سب سے آخری پارہ میں اور آخری پارہ کے بھی آخری حصہ میں اس کا رکھا جانا یہ بتاتا ہے کہ الہی حکمت کے ماتحت قرآن کریم کی دو ترتیبیں ضروری تھیں۔

ایک ترتیب تو وہ تھی جو ابتدائی مسلمانوں کے لحاظ سے اُن کے مناسب حال تھی اور ایک ترتیب وہ تھی جو آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لحاظ سے جب قرآن مکمل ہو چکا تھا مناسب حال تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں صرف اِقرأ کہا۔ اِقرأ الكتاب نہیں کہا کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اِقرأ فرمایا اُس وقت کوئی کتاب موجود نہیں تھی مگر جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی تو اُس وقت تک کتاب نازل ہو چکی تھی اور بہت سی سورتیں مکہ مکرمہ میں پوری مکمل ہو چکی تھیں.... پس اس وقت ذَلِكَ الْكِتَابُ کہنا بالکل درست تھا اور لوگوں کو سمجھ آ سکتا تھا۔ اس ترتیب کی دنیوی مثال یوں سمجھ لو کہ جیسے کھانا پکانے کے لیے باورچی کام شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ کھانے کی ترتیب کے لحاظ سے ایک چیز بعد میں آتی ہے لیکن پکانے کے لحاظ سے باورچی اس کو پہلے پکاتا ہے اور کوئی چیز کھانے میں پہلے آتی ہے لیکن وہ اس کو بعد میں پکاتا ہے اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ چیز جو پہلے کھانی تھی تم نے بعد میں کیوں پکائی تو وہ جواب دے گا کہ یہ کھانی بے شک پہلے تھی لیکن اس کے پکانے میں پندرہ منٹ لگتے ہیں۔ اگر اسے پہلے ہی پکالیا جاتا تو اس وقت تک یہ خراب اور باسی ہو جاتی اور جو چیز بعد میں کھلانی تھی بے شک وہ کھانی بعد میں تھی مگر اس کے پکانے میں اڑھائی تین گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر اس کو پہلے نہ پکایا جاتا تو وہ کچی رہتی۔ پس اس کی ترتیب حکمت کے ماتحت ہوتی ہے۔ پکانے کی اور ترتیب ہوتی ہے اور کھانے کی اور ترتیب ہوتی ہے۔ جب وہ پکاتا ہے تو اس امر کو نہیں دیکھتا کہ پہلے کون سی چیز کھانی ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جلدی کون سی چیز پکے گی۔ جو جلدی پک جاتی ہے اُسے وہ بعد میں تیار کر لیتا ہے اور جو دیر میں پکتی ہے اُسے وہ پہلے تیار کرنا شروع کرتا ہے۔ جو چیز دیر میں پکتی ہے اگر وہ اُسے دیر سے چڑھائے گا تو کھاتے وقت وہ چیز کچی ہوگی۔ پس وہ دیر سے پکنے والی چیز کو چولہے پر پہلے رکھ لے گا خواہ وہ آخر میں کھائی جانے والی ہو اور جلدی پکنے والی چیز کو بعد میں تیار کر لے گا خواہ وہ پہلے کھائی جانے والی ہو۔ اس مثال سے ظاہر ہے کہ بعض چیزوں کی استعمال میں ترتیب اور ہوتی ہے اور ان کی تیاری میں اور ترتیب ہوتی ہے۔ یہی طریق دنیا کے ہر کام میں نظر آتا ہے۔ حکومتیں فوجیں تیار کرتی ہیں، ملک کی تنظیم کرتی ہیں، لوگوں کو تعلیم دلاتی ہیں، اُن کو مختلف فنون سکھلاتی ہیں تو بعض لوگ جنہوں نے پیچھے کام کرنا ہوتا ہے اُن کی تیاری پہلے شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ جنہوں نے پہلے کام کرنا ہوتا ہے اُن کی تیاری بعد میں ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کام کی ٹریننگ چھ ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے اور کسی کام کی ٹریننگ میں چار سال صرف ہوتے ہیں۔ اب خواہ ایک ہی

وقت میں کام شروع ہونے والے ہوں تب بھی چار سال والے کی ٹریننگ پہلے رکھی جائے گی اور چھ ماہ والے کی بعد میں۔..... یہی قرآن کریم کی ترتیب کا حال ہے۔ قرآن کریم میں جو مضامین اُس وقت کے لحاظ سے ضروری تھے جب وہ نازل ہو رہا تھا اُن کو خدا تعالیٰ نے پہلے رکھا کیوں کہ اس وقت قرآن کریم ابھی اپنی مکمل صورت میں اُن کے سامنے نہیں تھا۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ قرآن کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے، الہام کیا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ بلکہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ خدا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اُس وقت پہلے ایسے مسائل بیان کیے گئے جو بنیادی حیثیت رکھتے تھے مگر جب وہ مسائل زیر بحث آگئے اور پندرہ بیس سال تک وہ لوگ قرآن کریم کی آیات اور اُس کی تعلیم سنتے رہے تو اُس کے بعد اُن کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی اُس نے اپنے ماں باپ سے یہ باتیں سُنی شروع کر دیں اور بچپن سے ہی اُس کے کانوں میں یہ ڈالا جانے لگا کہ خدا کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، الہام کیا ہوتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خدا نے کیوں مبعوث فرمایا۔ پس جب وہ بڑے ہوئے تو اُن کی ذہنیت اور قسم کی تھی۔ قرآن جب نازل ہوا تو اُس وقت قرآن کریم کی بہت سی باتیں لوگوں کے لیے بالکل نئی تھیں۔ لیکن آئندہ اولاد کے لیے وہ باتیں پرانی ہو چکی تھیں۔..... غرض ترتیب قرآن نہایت اہم حکمتوں پر مبنی ہے نزول کی ترتیب اُن لوگوں کے مطابق تھی جو اُس زمانہ میں تھے اور موجودہ ترتیب آئندہ آنے والی نسلوں کی ضرورت کے مطابق ہے اور یہ اس کلام کے مخائب اللہ ہونے کا ایک بڑا بھاری ثبوت ہے۔

(تفسیر کبیر زیر آیت الفرقان: 23 جلد 4 صفحہ 490 تا 492)

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب[ؒ] ترتیب نزولی اور دائمی ترتیب میں فرق کی حکمت کے بارہ میں فرماتے ہیں:

”یہ اختلاف دو اصول کے ماتحت ہے:

اول تو بوجہ اس کے کہ صحابہ کی جماعت وہ پہلی جماعت تھی جو اسلامی شریعت کے مطابق قائم ہوئی اور اس سے پہلے کوئی جماعت اسلامی شریعت کی حامل نہیں تھی اور نہ ہی دُنیا میں اسلامی شریعت کا وجود تھا اور قرآن کے ذریعہ سے پہلے طریق و تمدن کو مٹا کر ایک بالکل ہی نئے طریق و تمدن کی بنیاد پڑنی تھی اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت کے لوگوں کے سامنے ان کی ذہنیت اور ماحول کے مناسب حال قرآنی احکامات کا نزول ہوتا تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے اور نئی تعلیم کو اپنے اندر جذب کرنے میں آسانی پاتے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہترین

صورت یہ تھی کہ سب سے پہلے اس قسم کی آیات کا نزول ہوتا جن میں صرف عقیدہ کی درستی مد نظر ہے اور مشرکانہ خیالات کو مٹا کر توحید کو قائم کیا گیا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلامی طریق عبادات اور اسلامی طریق معاملات اور اسلامی طریق تمدن اور اسلامی طریق سیاست کے متعلق اوامر و نواہی نازل ہوتے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ (بخاری کتاب فضائل القرآن باب تالیف القرآن) لیکن جب ایک جماعت اسلام شریعت تیار ہوگئی تو اب اس تخم یا نیو کلیس کی آئندہ ترقی کے لیے وہ ابتدائی ترتیب نزول غیر طبعی اور ناموزوں تھی اس لیے اسے بدل کر وہ ترتیب دے دی گئی جو اس کے لیے مناسب تھی۔ چنانچہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب بالکل اسی اصول کے ماتحت ہے جو ایک تیار شدہ جماعت کے استحکام اس کے پھیلاؤ اور ترقی کے لیے موزوں ترین ہے۔

دوسرا اصول نزول کی ترتیب کو بدل کر دوسری ترتیب کے اختیار کرنے میں یہ مد نظر تھا کہ نزول کی ترتیب زیادہ تر ان حالات کے مطابق چلتی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پیش آتے تھے۔ مثلاً چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مکی زندگی میں ابھی کفار پر اتمام حجت ہو رہا تھا اور مسلمانوں کو صبر و شکیب کے سانچے میں ڈھال کر نکالنا مقصود تھا۔ اس لیے مکی آیات میں جہاد کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ صبر و برداشت کی تعلیم پر زور ہے۔ لیکن جب اتمام حجت ہو چکا اور صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) بھی صبر و برداشت کے سانچے میں ڈھل چکے اور کفار کے مظالم سے مسلمانوں کو اپنا وطن تک چھوڑنا پڑا اور ظالم کی سزا کا وقت آ گیا تو اس وقت جہاد کی آیات نازل ہوئیں اسی طرح مکہ میں چونکہ مسلمانوں کی کوئی جماعت بصورت جمعیت نہیں تھی اور کفار کے مظالم نے انہیں بالکل منتشر کر رکھا تھا یعنی ان کی کوئی اجتماعی زندگی نہیں تھی اس لیے مکہ میں اسلامی طریق تمدن و معاملات کے متعلق آیات نازل نہیں ہوئیں لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کو ایک اجتماعی زندگی نصیب ہوئی تو اس کے مناسب حال آیات کا نزول ہوا اگر اس نزول میں حالات کی مناسبت اور مطابقت کو ملحوظ نہ رکھا جاتا تو یقیناً ابتدائی مسلمانوں کے لیے نئی شریعت کو اپنے اندر جذب کرنا اور اس پر صحیح طور پر عامل ہونا سخت مشکل ہو جاتا۔ لہذا قرآن کے نزول کو حتی الوسع حالات پیش آمدہ کے ساتھ ساتھ چلایا گیا تھا تاکہ اس کی تعلیم صحابہ میں جذب ہوتی جاوے، لیکن جب سب نزول ہو چکا اور ایک جماعت قرآنی شریعت کی حامل وجود میں آگئی تو پھر اس ترتیب کو قائم رکھنا ضروری نہ تھا بلکہ پھر اس بات کی ضرورت

تھی کہ آئندہ کی مستقل ضروریات کے مطابق اُسے ترتیب دی جاوے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔
(سیرۃ خاتم النبیین حصہ دوم زیر عنوان ترتیب قرآن صفحہ 536)

اس ضمن میں یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ قرآن کی ترتیب حفاظت قرآن کی خاطر حکیم خدا کی طرف سے اختیار کیا گیا ایک غیر معمولی اور پُر حکمت طریق تھا۔ باوجودیکہ قرآن کریم کی حفاظت کا اتنا غیر معمولی انتظام تھا پھر بھی یہ طریق اختیار کر کے اسے محفوظ تر بنا دیا گیا۔ اس حقیقت کے ساتھ کہ قرآن انتہائی معمولی رفتار سے اور آہستگی کے ساتھ نازل ہو رہا تھا پھر بھی خدا تعالیٰ نے اس کو ذہنوں میں راسخ کرنے اور صحابہ کو اس کے معانی اور مفہیم ازبر کروانے کے لیے اور اُس کی ہر آیت کو مستند ترین بنانے اور ہر ایک آیت کے وسیع مضامین سمجھانے کا یہ انتظام کیا کہ اسے اس زمانہ کے پیش آمدہ حالات و واقعات کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ کر کے پیش کیا کہ ناممکن تھا کہ کوئی آیت نازل ہوتی اور صحابہ اس کے مضامین کو نہ سمجھتے۔ ہر آیت ایک لڑی میں پروئی ہوئی اور ایک گلدستے میں شامل کیا جانے والا پھول بنتی ہوئی اور ساتھ ساتھ تاریخ کا حصہ بنتی ہوئی نازل ہو رہی تھی۔ گویا قرآن کریم کی ہر آیت کے سمجھانے کا خدا تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ نازل تو قرآن نے بہر حال ہونا تھا لیکن لوگوں کو سمجھانے کی خاطر کسی ناکسی واقعہ یا مختلف واقعات کے ساتھ ملا کر آیت نازل کی جاتی تھی اس لیے آج کثرت کے ساتھ مختلف آیات کے مواقع النزول روایات میں ملتے ہیں۔ یوں قرآن کریم کا ہر ایک لفظ تاریخ کا ایک ناقابل تردید اور مستند ترین حصہ بھی بن رہا تھا اور اس کے مضامین روزمرہ حالات و واقعات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ ذہنوں میں راسخ ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کلام اپنی ظاہری صورت میں حفظ کے ذریعہ سینوں میں محفوظ ہو رہا تھا۔ چنانچہ آج کے ترقی یافتہ دور میں علمی دُنیا نے جو طریقہ تدریس اپنایا ہے اللہ تعالیٰ نے پندرہ سو سال قبل قرآن کریم اس طریقہ کی انتہائی ترقی یافتہ شکل کے مطابق سکھایا جو ہر لحاظ سے کامل تھی۔ آج کسی بھی اچھے تدریسی ادارہ میں جائیں وہاں صرف تھیوری پر انحصار نہیں کیا جاتا بلکہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کروائے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو وہ پریکٹیکل بھی ایک مصنوعی ماحول پیدا کر کے کروائے جاتے ہیں جو کہ عملی زندگی کے فوری اور ہنگامی حالات سے سو فیصد مطابق بھی نہیں ہوتے۔ پس جب لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے مصنوعی ماحول بنا کر تھیوری کو ازبر کروانے کا انتظام کیا جاتا ہے تو پھر قرآن کریم کی حفاظت کے اس طریقہ پر کیوں اعتراض کیا جائے جو قطعاً مصنوعی نہیں جس میں تصنع نام کو نہیں اور جو حقیقی زندگی کے عین مطابق۔ بلکہ حقیقی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بند لیبارٹریوں میں نہیں بلکہ مخالفین کی آنکھوں کے سامنے معرض وجود میں آئی۔ قرآن کریم کی ہر آیت کا نزول مومنین اور مخالفین کی نظروں کے سامنے اعلانیہ طور پر ہو رہا تھا اور انہیں پورا پورا موقع دیا جا رہا تھا کہ کسی بھی قسم کا اعتراض ہو تو پیش کریں۔ پھر نزول کی رفتار اتنی

معمولی تھی کہ مخالفین کو پوری پوری مہلت حاصل تھی کہ نئی آیات نازل ہونے سے پہلے سابقہ نازل شدہ آیات کے بارہ میں مکمل تحقیق کر لیں اور ان کی خاموشی اس بات کی شہادت تھی کہ قرآن مذہبی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانہ کی مستند ترین تاریخ بھی ہے۔ چنانچہ زمانہ حال کے مستشرقین کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ قرآن اپنے زمانہ کے بارہ میں جو بات کرتا ہے وہ لازماً درست ہے کیوں کہ قرآن کریم تو سچا ہونے کا دعویٰ دار ہے پس ہونے نہیں سکتا کہ مخالفین کے سامنے کوئی غلط اور خلاف واقعہ بات بیان کرے اور ہم عصر مخالفین خاموش رہیں۔ اس پر اعتراض تو لازماً ایک جاہل زبان ہی کر سکتی ہے یا پھر اس اعتراض کی بنیاد مذہبی تعصب اور دشمنی ہوگی اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان آیات کو ترتیب نزول سے ہٹ کر ایک مختلف ترتیب پر لکھوانے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ترتیب نزول کا تعلق صرف نزول کے دور سے ہے۔ قرآن کریم تحریر اور حفظ اسی ترتیب سے کیا گیا تھا جو دائمی تھی اور آج بھی وہی ترتیب ہے اور یہ ترتیب خدا تعالیٰ کی راہنمائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی ہی لگوائی گئی تھی۔

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم کی اصل ترتیب قائم نہیں رکھی گئی بلکہ آئندہ زمانہ کی ضروریات کے مطابق کردی گئی تو پھر اس کی عبارت سے وہ حُسن معدوم ہو گیا ہوگا جو کہ ایک بار ربط اور مربوط کلام کا خاصہ ہوتا ہے۔

اس سوال کے جواب میں پہلے تو ہم گزشتہ اوراق میں بیان شدہ اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب خدا تعالیٰ ہی کی قائم فرمودہ ہے۔ پس اپنے تمام تر کاموں میں اعلیٰ درجہ کا حسن اور خوبصورتی اور توازن قائم رکھنے والی ہستی نے اپنے کلام میں بھی اس خصوصیت کو بدرجہ اتم بھر دیا ہے۔ جس کا ہر زمانہ کے عربی زبان کے اہل کمال اقرار کرتے آئے ہیں۔

قرآن کریم کا حسن بیان

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اعلیٰ و ارفع اُسلوب بیان کے لیے حُسن کا لفظ اختیار کیا ہے اور صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم نے اپنے کلام کو صرف حُسن کہا ہے بلکہ سب سے زیادہ حُسن کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًا (الزمر: 24)

یعنی اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی (اور) بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت

میں اتارا ہے۔

بلکہ کلام سے پہلے کلام کرنے والے یعنی اپنی ذات کو حسن کی تمام تجلیات کا خالق اور مجسم حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا: **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** (طہ: 9) **وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا** (الاعراف: 181) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تخلیق کو حسین قرار دیا ہے۔ فرمایا۔ **الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ** (السجده: 32) اور فرمایا: **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** (المؤمن: 15) اور انسان کو خصوصیت سے حسین کہا ہے۔ فرمایا: **وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ** (المؤمن: 40) اور پھر فرمان عام ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں حسن کو اختیار کرو۔ فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** (البقرہ: 196) اور خاص طور پر اپنے قول کو حسین بناؤ۔ فرمایا: **وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** (بنی اسرائیل: 18) اور فرمایا: **قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** (البقرہ: 84)

”ادب“ ایک بہت مختلف المعانی لفظ ہے اس لیے قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت سے بعید تھا کہ وہ ایک مخصوص معانی کے اظہار کے لیے ایک پراگندہ خیال لفظ کو اختیار فرماتا جس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں اختلاف ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ادب پاروں کو ”ادب“ کا نام نہیں دیا بلکہ اس بہت بہتر معانی کے حامل لفظ کو جو کہ درحقیقت ادب کی جان بھی ہے، اختیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمودات کو احسن الحدیث اور احسن القصص کہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت اور شان ہے کہ اس نے ایسے لفظ کو قبول نہیں کیا جو اپنے معانی اور مطالب کے اظہار میں ایسا اختلاف اور وسعت رکھتا ہو کہ اس سے نفس مضمون کا ایک مستقل رشتہ قائم نہ ہو سکے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم لفظ حسن اور اس کے مشتقات سے بھرا پڑا ہے۔ یہی اس کی شان اور منصب ہے کیونکہ جس ہستی کی طرف وہ بلاتا ہے وہ حقیقی معنوں میں حسن اول اور حسن آخر ہے اور قرآن اس حسن ازل اور لم یزل کی تجلی ہے۔ قرآن کریم کے معجزانہ حسن بیان کے بارہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **الآيَاتُ خَزَرَاتٌ مَنظُومَاتٌ فِي سَبَلِكِ**

(مسند احمد مسند المكثرين من الصحابه مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کے حسن بیان کے بارہ میں فرماتے ہیں:

”ظاہری صورت پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیسی رنگینی عبارت اور خوش بیانی اور جودت الفاظ اور

کلام میں کمال سلاست اور نرمی اور روانگی اور آب و تاب اور لطافت وغیرہ لوازم حسن کلام اپنا

کامل جلوہ دکھا رہے ہیں۔ ایسا جلوہ کہ جس پر زیادت متصور نہیں۔ اور وحشت کلمات اور تعقید ترکیبات سے بکلی سالم اور بری ہے۔ ہر ایک فقرہ اس کا نہایت فصیح اور بلیغ ہے اور ہر ایک ترکیب اس کی اپنے اپنے موقع پر واقعہ ہے اور ہر ایک قسم کا التزام جس سے حسن کلام بڑھتا ہے اور لطافت عبارت کھلتی ہے۔ سب اس میں پایا جاتا ہے۔ اور جس قدر حسن تقریر کے لئے بلاغت اور خوش بیانی کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ذہن میں آسکتا ہے وہ کامل طور پر اس میں موجود اور مشہود ہے۔ اور جس قدر مطلب کے دل نشین کرنے کے لئے حسن بیان درکار ہے وہ سب اس میں مہیا اور موجود ہے اور باوجود اس بلاغت معانی اور التزام کمالیت حسن بیان کے صدق اور راستی کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی مبالغہ ایسا نہیں جس میں جھوٹ کی ذرا آمیزش ہو۔ کوئی رنگینی عبارت اس قسم کی نہیں جس میں شاعروں کی طرح جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی نجاست اور بدبو سے مدد لی گئی ہو۔ پس جیسے شاعروں کا کلام جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کلام صداقت اور راستی کی لطیف خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اس خوشبو کے ساتھ خوش بیانی اور جودت الفاظ اور رنگینی اور صفائی عبارت کو ایسا جمع کیا گیا ہے کہ جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو کے ساتھ اس کی خوش رنگی اور صفائی بھی جمع ہوتی ہے۔“

(براہین احمدیہ چہار حصص حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ 398، 397 ایڈیشن اول صفحہ 334)

ایک دوسری جگہ فرمایا:

اس کی عبارت میں ایسی رنگینی اور آب و تاب اور نزاکت و لطافت و ملائمت اور بلاغت اور شیرینی اور روانگی اور حسن بیان اور حسن ترتیب پایا جاتا ہے کہ ان معانی کو اس سے بہتر یا اس سے مساوی کسی دوسری فصیح عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں اور اگر تمام دنیا کے انشا پرداز اور شاعر متفق ہو کر یہ چاہیں کہ اسی مضمون کو لے کر اپنے طور سے کسی دوسری فصیح عبارت میں لکھیں کہ جو سورۃ فاتحہ کی عبارت سے مساوی یا اس سے بہتر ہو۔ تو یہ بات بالکل محال اور ممنوع ہے کہ ایسی عبارت لکھ سکیں۔ کیونکہ تیرہ سو برس سے قرآن شریف تمام دنیا کے سامنے اپنی بے نظیری کا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو البتہ کوئی مخالف اس کا معارضہ کر کے دکھلاتا۔ حالانکہ ایسے دعوے کے معارضہ نہ کرنے میں تمام مخالفین کی رسوائی اور ذلت اور قرآن شریف کی شوکت اور عزت ثابت ہوتی ہے۔

(براہین احمدیہ چہار حصص حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ 1404 ایڈیشن اول صفحہ 339)

قرآن کریم کے بارہ میں ہر زمانہ میں اہل علم بلا تمیز عقیدہ و مذہب یہ گواہیاں دیتے آئے ہیں کہ اس جیسی اعلیٰ درجہ کی ادبی خصوصیات رکھنے والی کتاب اہل زبان عربوں نے نہ پہلے کبھی دیکھی اور نہ آج تک اس کے مقابل پر

کوئی کتاب بنا سکے۔ بہت سے عربی دانوں نے بڑے بڑے پائے کی کتب لکھی ہیں مگر کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی کتاب عربی ادب کے حسن کے کسی بھی شعبے میں قرآن کریم سے آگے نکل گئی ہے۔ بلکہ عربی زبان کے ماہرین فصاحت و بلاغت کے میدان میں قرآن کریم کو قاضی قرار دیتے اور حسن کلام کی اعلیٰ ترین مثال کے طور پر قرآن کریم کو ہی پیش کرتے آئے ہیں۔

عرب کا مشہور زمانہ شاعر۔ لبید بن ربیعہ عامری نے۔ جس کی شاعری کا شمار بلند ترین عربی ادب پاروں میں ہوتا تھا اور جس کا قصیدہ سب سے معلمات میں سے ایک تھا، قرآن کریم کی اعلیٰ وارفع فصاحت اور بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اس درجہ بلند پایہ کلام انسانی نہیں ہو سکتا اسلام قبول کر لیا تھا اور قرآن کریم کے انسانی طاقت سے بالا اور الہی کلام ہونے کی حقیقت پر اپنے ایمان کی پختگی کا اظہار اس طرح کیا کہ شعر کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمرؓ اعلیٰ ادبی ذوق رکھنے والے صاحب علم و فضل شخص تھے۔ لبیدؓ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے لبیدؓ سے شعر سننے کی فرمائش کی۔ لبیدؓ نے جواب میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عمرؓ کہنے لگے کہ جناب میں نے آپ سے اپنے شعر سننے کو کہا ہے۔ اس پر لبیدؓ کہنے لگے کہ ما کنت اقول بیتا من الشعر بعد ان علمنی اللہ البقرۃ و ال عمران یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ البقرۃ اور ال عمران سکھادی ہیں تو اب کس طرح ممکن ہے کہ اس کے بعد میں ایک شعر بھی کہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لبیدؓ کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اُن کا وظیفہ دو ہزار درہم سالانہ سے بڑھا کر اڑھائی ہزار درہم سالانہ کر دیا۔

(اسد الغابہ جلد چہارم حالات لبید بن ربیعہ صفحہ 262)

عربی کلاسیکی ادب سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ ادب عربی میں لبید بن ربیعہ ایک نمایاں اور بلند مقام کے حامل ہیں۔ وہ اس درجہ کے شاعر تھے کہ اُن کا کلام اسلام کے فتح کے دور سے پہلے تک کعبہ میں آویزاں ان ادب پاروں میں شامل تھا جو بہترین عربی شاعری کے نمونہ کے طور پر دیوار کعبہ پر سجائے گئے تھے۔ ادبی رفعتوں کو چھوڑنے والا دیانت دار انسان۔ لبید قرآن کریم کے سحر انگیز حسن بیان کے اعتراف میں یہ قسم کھاتا ہے کہ اب وہ تاحیات شعر نہیں کہے گا۔ کیونکہ قرآن کریم میں عربی زبان اپنے حسن کے معراج کو پہنچ گئی ہے اور اس کے بعد کوئی کلام ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اس سے بڑھ جائے۔

طفیل بن عمرو دوسی، یمن کے نواح میں رہنے والا معزز اور سحر بیان فصیح و بلیغ یعنی شاعر۔ اپنے ادبی کمالات، اثر و رسوخ، دولت اور عزت و وجاہت کی وجہ سے اُمرا و رؤسا میں شمار ہوتا تھا، خانہ کعبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشغول دیکھتا ہے۔ تجسس پر آپؐ کے قریب ہوتا ہے اور جب تلاوت کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تو حسن بیان دیکھ کر قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو جاتا ہے کہ اس شان کا کلام بنانا انسانی

طاقت سے بالا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ (اسد الغابہ جلد چہارم حالات طفیل بن دوسی)

ضمار زدی، سارے عرب میں اپنی سحر بیانی کی وجہ سے مشہور، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کی سحر انگیزی کا سُن کر کمال تکبر اور شیخی سے مقابلہ کرنے کے لیے رُو برو آتا ہے اور چند آیات کی تلاوت سُن کر الہی کلام کے مقابل پر اپنی عاجزی اور اپنے کلام کے بے حیثیت ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ (اسد الغابہ جلد چہارم حالات ضمار زدی)

جیسر بن مطعم جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سُنتے ہیں تو کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے گویا دل خدائے واحد کی طرف اڑتا چلا جا رہا ہے۔ (بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ الطور) ولید بن مغیرہ نے جب قرآن کریم سُننا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم! اس کلام میں عجیب کشش اور شیرینی ہے اور آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ ابو جہل کو جب معلوم ہوتا کہ تلاوت قرآن کریم سُن کر ولید مسلمان ہو رہے ہیں تو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! محمد (ﷺ) جو کلام پڑھتے ہیں وہ شعر ہرگز نہیں کیونکہ میں شعر و سخن سے خوب واقف ہوں۔ حضرت عمرؓ کا واقعہ گزشتہ سطور میں درج کیا جا چکا ہے کہ چلے تو ہیں بانی اسلام کا قصہ ختم کرنے (نعوذ باللہ) لیکن قرآن کریم کی تلاوت سُن کر کا پلٹ جاتی ہے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نجاشی شاہ حبشہ تلاوت قرآن کریم سُن کر ایسا متاثر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور تو اور درباریوں کے دل بھی گداز ہو جاتے ہیں۔

مختصر یہ کہ عربی زبان کے جاننے والے، اور عام جاننے والے نہیں بلکہ اہل کمال زبان دان، بلا تیز مذہب و عقیدہ اس شان سے اور اس کھلے دل کے ساتھ قرآن کریم کے حسن بیان کا اقرار کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہوتے وہ بھی اس غیر معمولی حُسن بیان کی تاب نہ لا کر سرا سیمہ ہو جاتے ہیں اور کبھی اسے شعر و سخن قرار دیتے اور کبھی سحر، کبھی کہتے کہ واضح طور پر محمد (ﷺ) کی طاقت سے بالا کلام ہے جسے کوئی کمیٹی لکھ رہی ہے اور کبھی اس کی علوشان کے اعتراف میں شعر کہنے چھوڑ دیتے۔ پس آج اگر کوئی اعتراض کرے اور ساتھ ہی یہ اقرار بھی کرے کہ وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے تو لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تعصب کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے یا جہالت کی وادیوں میں سرگرداں ہے یا پھر کسی کے خون سے اپنے گناہ بخشوانے، یا کسی انسان یا جانور یا پتھر کو خدا ماننے جیسے غیر معقول عقائد کی وجہ سے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ قرآن کے حسن بیان کے غیر معمولی ہونے کا اہل کمال عربی دانوں نے ایسا اقرار کیا جیسا تاریخ میں اور کسی ادب پارے کو نصیب نہ ہوا پھر کیسے ممکن ہے ایک بلند ادبی مقام کا حامل اور صدیوں سے اُفق ادب پر جگمگانے والا لبید جیسا ستارہ تو قرآن کریم کے حسن اور ترتیب کا اقرار کرے اور آج ایک عربی سے نابلد اٹھ کر یہ اعتراض کر دے کہ قرآن کریم حسن کلام سے عاری اور غیر مربوط ہے اور اس کے اعتراض میں وزن ہو؟ قرآن کریم کے نزول کے دور میں عربی شاعری حسن کلام پر کھنے کی سب سے بڑی کسوٹی تھی۔ اگر

قرآن کریم کی زبان میں کوئی حسن اور ترتیب نہیں تھی تو کیوں اہل زبان اسے شاعری سے تشبیہ دیتے؟ یاد رہے کہ تشبیہ تو دیتے مگر ساتھ ہی اقرار کرتے کہ اپنے حسن میں یہ کلام شعراء کے کلام سے بہت حسین ہے۔ چنانچہ یہ تشبیہ صرف حسن کلام کے اعتراف کے طور پر ہوتی۔ کیونکہ ان کے پاس یہی سب سے بڑا پیمانہ تھا۔ پس اگر کلام میں خوبصورتی نہ تھی تو کیا ساری قوم کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ اسے اعلیٰ درجہ کا کلام ماننے لگے؟

شعر کی تعریف میں مخصوص اوزان اور بحر کی قید اور ارکان افاعیل کی ایجاد بعد کی ہے۔ اساتذہ شعر و ادب نے بھی اوزان و بحر کی شرط کو ہر مقام پر قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ قرآن کریم تو اس شرط کو یکسر قبول نہیں کرتا۔ قرآن کا ایک اپنا زیور ہم اور آہنگ ہے۔ جو بہت دل پذیر ہے قرآن کریم جہاں پر عقلی استدلال اور علمی تعلیم و تدریس بیان فرماتا ہے وہاں پر اس کا اسلوب و طرز بیان عقل و فہم کو جگانے اور منطقی استدلال کے لیے ہے اور جس مقام پر باری تعالیٰ اپنی ذات و صفات کی عظمت و جلال اور حسن و جمال بیان فرماتا ہے وہاں پر اس کا اسلوب و طرز بیان قلب و روح کی تسخیر اور فدائیت کے لیے ہے۔

حضرت عمرؓ مکہ کے چند پڑھے لکھے افراد میں شمار ہوتے تھے اور قادر الکلام مقرر تھے اور عربی ادب پر نظر رکھنے والے انسان تھے۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے:

حضرت عمرؓ بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بچتے ہوئے آپؐ کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا اور آپؐ میرے آگے آگے مسجد میں داخل ہوئے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی۔ میں پہلے تو قرآن کی تالیف سے متعجب ہوا پھر تلاوت سننے پر دل میں کہا بخدا یہ تو شاعر ہیں۔ جیسا کہ قریش کہا کرتے تھے۔ آپؐ نے یہ آیت پڑھی ”إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ“ اس پر میں نے دل میں کہا یہ تو صحیح ہے۔ مگر کاہن بھی تو ایسی پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ تو آپؐ نے اس آیت ”وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ... حَاجِزِينَ“ سے سورت کے آخر تک تلاوت کی۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرے ہر سوال کے جواب پر میرے دل میں اسلام راسخ ہوتا چلا گیا۔

(مسند احمد بن حنبل مسند عشرة المبشره اول مسند عمر بن الخطاب)

حیرت کی بات ہے کہ سب سے معلقات کے سامنے ہوتے ہوئے لبید بن ربیعہ عامری جیسا مشہور زمانہ شاعر، طفیل بن دوسی جیسی ادبی شخصیت، ضمار زدی جیسا سحر، بیان و لید بن مغیرہ جیسا عارف شعر و سخن، نجاشی جیسا صاحب سطوت اور حضرت عمرؓ جیسا ایک اہل علم زبان دان، جو اپنی سخن فہمی کی بنا پر فصیح و بلیغ عرب کے سفیر کا رتبہ رکھتا جب قرآن سننا ہے تو اس کے غیر معمولی حسن و ربط اور حسن نظم کی وجہ سے اُسے انسانی طاقت سے بالا و اعلیٰ کلام تسلیم کرتا ہے اور ابن وراق ایک

عربی سے ناواقف ہونے کا اعتراف کرتا اور ساتھ ہی قرآن کریم پر زبان طعن دراز کرتا ہے۔ جارج سیل کہتا ہے:

The Style of the Koran is generally beautiful and fluent
(George Sale: The Koran; The Preliminary Discourse; Section
3; pg: 48)

یعنی قرآن کریم کا سائل عمومی طور پر دلکش اور سلیس ہے
کیمر آر مسٹر انگ قرآن کریم کے سحر انگیز حسن کے بارہ میں لکھتی ہیں:
خود عربوں کے بیان کے مطابق اسے پڑھنا ان کے لیے ہمیشہ ایک مختلف تجربہ ثابت ہوا ہے۔
اس کی زبان میں بلا کی خوبصورتی ہے جس کی مثال سارے عربی کلاسیکی ادب میں کہیں نہیں ملتی۔
(محمد ﷺ): باب دوم، صفحہ 63-61 پبلشرز: علی بلازہ 3 مزنگ روڈ لاہور)

الغرض عرب جنہیں اپنی زبان دانی، فصاحت و بلاغت اور زور بیان پر ناز تھا قرآن مجید انہی کی زبان میں
اُتر اور انہی کے اسلوب اور طرز ادا کو اس نے اختیار کیا، انہوں نے اس کو سمجھا اور اس کی علو شان کی گواہی دی۔
اس کی سحر طرازیوں نے سب سے پہلے انہیں ہی اپنا گرویدہ بنایا اور انہی پر اپنا اثر دکھایا۔ اہل زبان میں سے جس
نے اس کو سنا وہ اس کی عظمت اور برتری کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ان میں سے جن پاکیزہ نفوس نے اس کی
دعوت پر لبیک کہا انہی کو اس سے پورا پورا فائدہ پہنچا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری۔ جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز
کلام کے ہو سکتے ہیں۔ ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی ہے۔
یعنی کیا باعتبار فصاحت و بلاغت، کیا باعتبار ترتیب مضامین، کیا باعتبار تعلیم، کیا باعتبار
کمالات تعلیم، کیا باعتبار ثمرات تعلیم، غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا
کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص
امر کی نظیر نہیں مانگی، بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے۔ یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو۔ خواہ
بلحاظ فصاحت و بلاغت خواہ بلحاظ مطالب و مقاصد خواہ بلحاظ تعلیم خواہ بلحاظ پیشگوئیوں اور غیب
کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں۔ غرض کسی رنگ میں دیکھو، یہ معجزہ ہے۔

(ملفوظات جلد 2 صفحہ 26 27 مطبوعہ ربوہ)

وہ عرب جو اپنی شقاوت قلبی اور ہٹ دھرمی کے باعث قرآن کریم کی صداقت پر ایمان نہیں لائے، وہ بھی کم
از کم یہ تسلیم کرنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں کہ قرآن کریم اعلیٰ ترین فصیح و بلیغ عربی کلام ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ذکر
ملتا ہے کہ عرب قرآن کریم کے غیر معمولی حسن سے اس درجہ متاثر تھے کہ اسے سحر قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم اُن
کے اس اقرار کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمُ الْيَتْنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا
سِحْرٌ مُّبِينٌ (احقاف: 8)

اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ، جنہوں نے حق کا انکار کر دیا
جب وہ ان کے پاس آیا، کہتے ہیں یہ تو سحر ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

جنہوں نے قرآن شریف کے بے مثل کمالات پر غور کی اور اس کی عبارت کو ایسے اعلیٰ درجہ
کی فصاحت اور بلاغت پر پایا۔ کہ اس کی نظیر بنانے سے عاجز رہ گئے اور پھر اس کے دقائق و حقائق
کو ایسے مرتبہ عالیہ پر دیکھا کہ تمام زمانہ میں اس کی نظیر نظر نہ آئی اور اس میں وہ تاثیرات عجیبہ
مشاہدہ کیں کہ جو انسانی کلمات میں ہرگز نہیں ہوا کرتیں اور پھر اس میں یہ صفت پاک دیکھی کہ
وہ بطور ہزل اور فضول گوئی کے نازل نہیں ہوا۔ بلکہ عین ضرورت حقہ کے وقت نازل ہوا۔ تو
انہوں نے ان تمام کمالات کے مشاہدہ کرنے سے بے اختیار اس کی بے مثل عظمت کو تسلیم کر لیا
اور ان میں سے جو لوگ باعث شقاوت ازلی نعمت ایمان سے محروم رہے۔ ان کے دلوں پر بھی
اس قدر ہیبت اور رعب اس بے مثل کلام کا پڑا کہ انہوں نے بھی مبہوت اور سراسیمہ ہو کر یہ کہا
کہ یہ تو سحر مبین ہے اور پھر منصف کو اس بات سے بھی قرآن شریف کے بے مثل و مانند ہونے
پر ایک قوی دلیل ملتی ہے اور روشن ثبوت ہاتھ میں آتا ہے کہ باوجود اس کے مخالفین کو تیرہ سو برس
سے خود قرآن شریف مقابلہ کرنے کی سخت غیرت دلاتا ہے اور لا جواب رہ کر مخالفت اور انکار
کرنے والوں کا نام شریر اور پلید اور لعنتی اور جہنمی رکھتا ہے۔ مگر پھر بھی مخالفین نے نامردوں اور
مخنثوں کی طرح کمال بے شرمی اور بے حیائی سے اس تمام ذلت اور بے آبروئی اور بے عزتی کو
اپنے لیے منظور کیا اور یہ روا رکھا کہ ان کا نام جھوٹا اور ذلیل اور بے جا اور خبیث اور پلید اور شریر اور
بے ایمان اور جہنمی رکھا جاوے۔ مگر ایک قلیل المقدار سورۃ کا مقابلہ نہ کر سکے اور نہ ان خوبیوں اور
صفتوں اور عظمتوں اور صداقتوں میں کچھ نقص نکال سکے کہ جن کو کلام الہی نے پیش کیا ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 433، 432 ایڈیشن اول

صفحہ 363، 362)

کیرم آر مسٹر انگ اس بارہ میں رقم طراز ہیں:

لوگوں کے دائرۃ اسلام میں آنے کی بنیادی وجہ خود قرآن مجید کی کشش تھی۔ چنانچہ 16 ہجری
میں حج کے موقع پر جب مختلف علاقوں سے زائرین خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے تو ابو جہل

نے اپنے ساتھیوں کو مکہ کے تمام دروازوں پر کھڑا کر دیا جو آنے والوں کو متنبہ کرتے کہ (حضرت) محمد (ﷺ) سے خبردار رہیں کہ وہ اپنے کلام کے سحر سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں ماہر ہیں۔ ان میں سے ایک زائر سوید ابن عمر جو شاعر تھا، اس تنبیہ سے اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس نے اپنے کانوں میں روئی کی پھونیاں ٹھونس لیں تاکہ نبی کریم اسے کچھ کہنے کی کوشش بھی کریں تو اسے ان کے الفاظ سنائی ہی نہ دیں اور وہ آپ کے جادو کا اسیر ہونے سے محفوظ رہے۔ لیکن جب وہ خانہ کعبہ کے اندر گیا اور حضرت محمد (ﷺ) کو کھڑے عبادت کرتے دیکھا تو یہ سوچ کر اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں ایک بالغ اور باشعور انسان ہوں۔ میں سوچ سمجھ سکتا ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ میں اس بات سے اتنا خوف زدہ ہوں کہ کوئی مجھے محض اپنے الفاظ کے جادو سے گمراہ کر سکتا ہے۔ کیا مجھے اپنی دانش پر اعتبار نہیں جو اچھے اور برے میں تمیز کرنے میں ہمیشہ میری معاون ہوتی ہے۔ وہ (حضرت) محمد (ﷺ) کے قریب گیا۔ آپ نے اسے اسلام کی تبلیغ کی اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ پھر قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت سن کر سوید ابن عمر اس قدر حیران ہوا کہ کہنے لگا، ”اللہ کی قسم! میں نے اس سے بہتر شے نہ کہیں پڑھی اور نہ کبھی سنی ہے۔“ اس نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ اور واپس جا کر اگلے چند سالوں میں اپنے قبیلہ میں تقریباً ستر خاندانوں کو مشرف بہ اسلام کیا۔

قرآن مجید میں کلام کی خوبصورتی اور اثر انگیزی نے عربوں کے دلوں کو اسیر کر لیا۔ (حضرت) طفیل بن عمرو نے تو خود ہی کانوں میں ٹھنسی ہوئی روئی نکال لی اور نبی کریم سے درخواست کی تھی کہ آپ ان کے لیے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو خود کو اس اثر سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے جن میں ابو جہل اور اس کے ساتھی شامل تھے۔

(محمد (ﷺ): باب ششم، صفحہ 158-159 پبلشرز: علی پلازہ 3 مزنگ روڈ لاہور)

ان ابو جہل کے ساتھیوں میں ایک خاص ساتھی ابن وراق آج ایک اور پینتر بدلتا ہے۔ محافظت قرآن کے ضمن میں شک پیدا کرنے کی غرض سے ابن وراق موجودہ ترتیب پر اعتراض کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کثرت سے تحریف و تبدل کی وجہ سے قرآن کریم حسن کلام سے بالکل عاری ہو چکا ہے۔ کہتا ہے:

Unevenness of the Koranic style.... abrupt changes of rhyme; repetition of the same thyme word or rhyme phrase in adjoining verses;

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg :112)

یعنی اسلوب قرآن غیر متوازن ہے۔... انداز میں بے تحاشا بدلاؤ؛ آیات میں ایک ہی قسم

کے الفاظ یا جملوں کی تکرار؛

اب کوئی بھی صاحب عقل و خرد کس طرح تسلیم کر لے کہ ابن وراق کی بات درست ہے اور ساری عرب قوم اور پندرہ سو سال کے طویل عرصہ میں دُنیا کے ہر کونے میں پیدا ہونے والے سخن فہم، اہل زبان اور اہل علم غلطی خوردہ ہیں؟ اگر درحقیقت ایسا نہیں تھا تو پھر شعر و شاعری کے دلدادہ اور ہزاروں ہزار شعریا درکھنے والے وہ لوگ اور کثرت سے شعر و سخن کی مجالس منعقد کرنے والی وہ قوم کیوں قرآن کریم کے غیر معمولی حسن کا اعتراف کرتے اور کلام بھی ایسا حسین و دلنواز کہ سامع کو مسحور کر دے۔ پس یا تو قرآن کریم کے عدیم النظیر ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں یا پھر سر اسیمہ ہو کر چپ سادھ لیتے ہیں یا کبھی لب کھولتے بھی ہیں تو سحر سحر پکارنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جو اہل زبان کھل کر اس کا اعتراف کرتے ہیں وہ بھی اس شان سے کرتے ہیں کہ اور کسی کلام کے حسن کو اس زور سے تسلیم نہیں کیا گیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

جس کلام کی بلاغت کو عرب کے تمام اہل زبان جن میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے باوجود سخت مخالفت کے تسلیم کر چکے ہیں۔ بلکہ بڑے بڑے معاند اس کلام کی شان عظیم سے نہایت درجہ تعجب میں پڑ گئے اور اکثر ان میں سے کہ جو فصیح اور بلیغ کلام کے اسلوب کو بخوبی جاننے پہچاننے والے اور مذاق سخن سے عارف اور بانصاف تھے۔ وہ طرز قرآنی کو طاقت انسانی سے باہر دیکھ کر ایک معجزہ عظیم یقین کر کے ایمان لے آئے جن کی شہادتیں جا بجا قرآن شریف میں درج ہیں اور جو لوگ سخت کور باطن تھے اگرچہ وہ ایمان نہ لائے۔ مگر سر اسیمگی اور حیرانی کی حالت میں ان کو بھی کہنا پڑا کہ یہ سحر عظیم ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا چنانچہ ان کا یہ بھی بیان فرقان مجید کے کئی مقام میں موجود ہے۔ اب اسی کلام معجزہ نظام پر ایسے لوگ اعتراض کرنے لگے جن میں سے ایک تو وہ شخص ہے جس کو دو سطریں عربی کی بھی صحیح اور بلیغ طور پر لکھنے کا ملکہ نہیں اور اگر کسی اہل زبان سے بات چیت کرنے کا اتفاق ہو تو بجز ٹوٹے پھوٹے اور بے ربط اور غلط فقروں کے کچھ بول نہ سکے اور اگر کسی کو شک ہو تو امتحان کر کے دیکھ لے اور دوسرا وہ شخص ہے جو علم عربی سے بکلی بے بہرہ بلکہ فارسی بھی اچھی طرح نہیں جانتا اور افسوس کہ عیسائی مقدم الذکر کو یہ بھی خبر نہیں کہ یورپ کے اہل علم کہ جو اس کے بزرگ اور پیشرو ہیں۔ جن کا بورٹ صاحب وغیرہ انگریزوں نے ذکر کیا ہے وہ خود قرآن شریف کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت کے قائل ہیں اور پھر دانا کو زیادہ تر اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ جب ایک کتاب جو خود ایک اہل زبان پر ہی

نازل ہوئی ہے اور اس کی کمال بلاغت پر تمام اہل زبان بلکہ سب سے معلقہ کے شعراء جیسے اتفاق کر چکے ہیں۔ تو کیا ایسا مسلم الثبوت کلام کسی نادان اجنبی وژولیدہ زبان والے کے انکار سے جو کہ لیاقت فن سخن سے محض بے نصیب اور توغل علوم عربیہ سے بالکل بے بہرہ بلکہ کسی ادنیٰ عربی آدمی کے مقابلہ پر بولنے سے عاجز ہے قابل اعتراض ٹھہر سکتا ہے بلکہ ایسے لوگ جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرتے ہیں خود اپنی نادانی دکھلاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اہل زبان کی شہادت کے برخلاف اور بڑے بڑے نامی شاعروں کی گواہی کے مخالف کوئی نکتہ چینی کرنا حقیقت میں اپنی جہالت اور خطر فطرتی دکھلانا ہے۔ بھلا عماد الدین پادری کسی عربی آدمی کے مقابلہ پر کسی دینی یا دنیوی معاملہ میں ذرا ایک آدھ گھنٹہ تک ہم کو بول کر تو دکھاوے۔ تا اول یہی لوگوں پر کھلے کہ اس کو سیدھی سادھی اور با محاورہ اہل عرب کے مذاق پر بات چیت کرنی آتی ہے یا نہیں۔ کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ اس کو ہرگز نہیں آتی اور ہم بہ یقین تمام جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی عربی آدمی کو اس کے سامنے بولنے کے لیے پیش کریں تو وہ عربوں کی طرح اور ان کے مذاق پر ایک چھوٹا سا قصبہ بھی بیان نہ کر سکے اور جہالت کے کچھڑ میں پھنسا رہ جائے اور اگر شک ہے۔ تو اس کو قسم ہے کہ آ زما کر دیکھ لے!.... پھر جس حالت میں وہ عربوں کے سامنے بھی بول نہیں سکتے اور فی الفور گونگا بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر ان عیسائیوں اور آریوں کی ایسی سمجھ پر ہزار حیف اور دو ہزار لعنت ہے کہ جو ایسے نادان کی تالیف پر اعتماد کر کے اس بے مثل کتاب کی بلاغت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس نے سید العرب پر نازل ہو کر عرب کے تمام فصیحوں اور بلیغوں سے اپنی عظمت شان کا اقرار کرایا اور جس کے نازل ہونے سے سب سے معلقہ مکہ کے دروازہ پر سے اتارا گیا اور معلقہ مذکورہ کے شاعروں میں سے جو شاعر اس وقت بقید حیات تھا۔ وہ بلا توقف اس کتاب پر ایمان لایا۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000)

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اس کا (یعنی قرآن کا) ظاہری حسن اتنا نمایاں ہے کہ کوئی کتاب اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ الفاظ کی خوبی، بندش کی چستی، محاورہ کا بر محل استعمال، عبارت کا تسلسل، مضمون کی رفعت، معانی کی وسعت ایک سے ایک بڑھ کر خوبیاں ہیں کہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ اُسے سرا ہے یا اس کی تعریف کرے۔ اُنہی عربی الفاظ سے وہ بنا ہے جو ہزاروں لاکھوں اور کتب میں استعمال ہوئے ہیں مگر کیا مجال کہ کوئی اور کتاب اس کے قریب تک پہنچ سکتی ہو۔ عرب اپنے خیالات کی

نزاکت اور اپنے ادب کی بلندی اور اپنے ذخیرہ الفاظ کی کثرت کی وجہ سے سب دنیا کے لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں اور عرب قوم ادب کی اس قدر دلدادہ ہے کہ زہر اور زرار اور علوشان جیسی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی اشیاء بھی اُن کے نزدیک ادب کے مقابلہ پر بیچ ہیں۔ وہ اپنے شاعروں کو پیغمبر اور اپنے ادیبوں کو دیوتا سمجھنے والے لوگ جن میں ادب اور ادیب کو ترقی کرنے کا بہترین موقع مل چکا تھا جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو زبانوں پر مہر لگ جاتی ہے اور آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ نزول قرآن کریم کا زمانہ ان کا بہترین ادبی زمانہ تھا۔ یا تو عرب کے چوٹی کے ادیب قریب میں ہی گزر چکے تھے یا ابھی زندہ موجود تھے۔ وہ جب قرآن کریم کو سنتے ہیں تو بے اختیار اس کے سحر ہونے کا شور مچا دیتے ہیں۔ مگر وہی لفظ جو اس کے جھوٹا ہونے کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اسی نے ظاہر کر دیا کہ عرب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ قرآن کریم کا حسن انسانی قوت تخلیق سے بالا تھا۔ انسانی دماغ نے بہتر سے بہتر ادبی مقالات بنائے تھے۔ مگر اس جگہ اسے اپنے عجز کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ فسبحان اللہ احسن الخالقین۔

اس کے مضامین کا بھی یہی حال ہے ان کی بلندی، ان کی وسعت، ان کی ہمہ گیری، ان کا انسانی دماغ کے گوشوں کو منور کر دینا، انسانی قلوب کی گہریوں میں داخل ہو جانا، نرمی پیدا کرنا تو اس قدر کہ فرعونیت کے ستونوں پر لرزہ طاری ہو جائے، جرأت پیدا کرنا تو اس حد تک کہ بنی اسرائیل کے قلوب بھی ابراہیمی ایمان محسوس کرنے لگیں، عفو کو بیان کرے تو اس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انگشت بدنداں ہو جائیں، سزا کی ضرورت ظاہر کرے تو اس طرح کہ موسیٰ کی روح بھی صل علی کہہ اٹھے غرض بغیر اس کے مضامین کی تفصیل میں پڑنے کے ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ایک باغ ہے جس کے پھولوں کا خاتمہ نہیں۔ آج تک اُس کے حسن کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ یہ کلام بہت سے لوگوں نے مل کر بنایا ہے مگر کیا یہ خود اقرار حسن نہیں؟

(تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ 469 زیر تفسیر سورۃ ابراہیم: 25)

مشہور مستشرق فلپ کے حتی لکھتا ہے:

یہ کتاب ایک قوی اور زندہ آواز ہے۔ اس کو زبان سے پڑھنے اور اس کے اصل متن کو سُننے سے اس کی حقیقی قدر و منزلت پہچانی جاسکتی ہے۔ اس کی قوت تاثیر زیادہ تر اس کے منفرد انداز، لحن، ترتیل، اور الفاظ کے سبک پن میں مضمحل ہے۔ اس کی یہ خصوصیت ترجمہ میں منتقل کی ہی نہیں جاسکتی۔ (تاریخ عرب از فلپ کے حتی، ناشر: آصف جاوید برائے نگارشات، باب 4 صفحہ 36)

ابن وراق اپنے اندھے پن کی وجہ سے جسے abrupt changes کہہ رہا ہے وہ دراصل قرآن کریم کا ایک معجزانہ اسلوب بیان ہے جس کا حسن غیر معمولی ہے اور ایسا بھی نہیں کہ جب اعتراض ہوا ہے تو مسلمانوں کو اس کا جواب دینے کے لیے اس مسئلہ کو زیر بحث لانا پڑا ہے۔ نزول قرآن کے وقت سب سے تعلقات کے اُس دور میں جب عربی فصاحت و بلاغت کی رفعتوں کو چھو رہی تھی، قرآن کریم اپنی اس خصوصیت کو باواز بلند بار بار تصریف آیات کی اصطلاح کے ساتھ بیان کرتا ہے اور قاری کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کس خوبصورت انداز میں اس مضمون کو باندھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفْنَا آيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (الانعام: 47)

دیکھو تو سہی کہ ہم کس طرح آیات کو پھر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔

اس آیت میں اُنظر کے الفاظ میں قاری کو یہ بتایا گیا ہے کہ تصریف آیات کے معجزہ کو سمجھنے کے لیے غور کی ضرورت ہے۔ بنا غور سے دیکھے اس کو سمجھنا محال ہے اور لطف یہ ہے کہ جواب میں کوئی اہل زبان دم نہیں مارتا۔ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ کے الفاظ میں بتا دیا کہ اہل زبان عرب تو جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے وہ اس معجزہ کا جواب نہیں دے پاتے اور اعراض کرتے ہیں گجایہ کہ کوئی ایسا جاہل ہو عربی زبان کی ابجد سے بھی واقف نہ ہو اور محض ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اور تعصب اور جہالت کی بنیاد پر لچر اور کھوکھلے اعتراضات کی پٹاری کھول کر بیٹھ جائے۔

اس طرزِ تحریر میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جگہ جگہ قاری کا ذہن بار بار چوکس ہوتا ہے اور تحریر اپنے اس مخصوص انداز سے بار بار قاری کے ذہن کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہے۔ قاری فوراً اس انوکھے انداز پر چونکا ہو کر مضمون سے گزرتا ہے اور ہر آیت کو غور سے پڑھتا ہے اور یہ بات تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ سوئے ہوئے دماغ اور مستعد دماغ کے مشاہدہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پس یہ انسانی فطرت اور نفسیات کو تمام و کمال مد نظر رکھ کر پیش کیا جانے والا کلام ہے اور صرف اسی ہستی کی طرف سے ہو سکتا ہے جو انسانی فطرت اور نفسیات کی کنہ سے واقف ہو۔ کسی انسان کی مجال نہیں کہ ان حکمتوں کو پہنچ بھی سکے جن پر پورا اترتے ہوئے یہ کلام انسان کو دیا گیا۔

جرمن زبان کا مشہور انشاء پرداز گیٹے جسے جرمن زبان کا شیکسپیر کہا جاتا ہے، لکھتا ہے:

قرآن کریم کی عبارت پہلے پہل پڑھنے والے کو بے جوڑ اور بے ربط معلوم ہوتی ہے لیکن جو نبی کہ وہ وہ اسے مکرر پڑھتا اور اس پر زیادہ غور کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اُسے معارف کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے اور بہت اعلیٰ معلوم ہوتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو مسخر بلکہ مسحور کر دیتی ہے اور بالآخر وہ پڑھنے والا اس کے محیر العقول اندازِ بیان اور معجزانہ حسن و نظم میں بالکل کھو کر رہ جاتا ہے۔

(Adictionary of Islam by Thomas Patrich Huyheis P:526)

(ریویو آف ریلیجنس می ۱۹۳۳ صفحہ ۱۲)

گیٹے جیسے سخن وراور سخن فہم شخص کی یہ گواہی عام نظر سے دیکھی جانے والی نہیں۔
کیرم آرمسٹرانگ قرآن کریم کے سحرانگیز حسن کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں:

اہل عرب کے لیے قرآن مجید کی عبارت واقعتاً معجز نما تھی۔ ان کے ادب میں اس طرح کی کوئی چیز پہلے موجود نہیں تھی۔.... کچھ تو فوراً ہی ان آیات پر یہ یقین کرتے ہوئے ایمان لے آئے کہ اس غیر معمولی زبان میں موجود پیغام الہامی اور سچا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ان تعلیمات پر ایمان نہیں لائے وہ گوگو کی کیفیت میں رہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس دعوت کا کیا جواب دیں۔
(محمد ﷺ): باب دوم، صفحہ 63-61 پبلشرز: علی پلازہ 3 مزنگ روڈ لاہور)

سبیل کی ایک گواہی گزر چکی ہے۔ قرآن کریم کے حسن بیان کے معجز نما ہونے کے بارہ میں لکھتا ہے:

And to this miracle did Mohammed himself chiefly appeal for the confirmation of his mission, publicly challenging the most eloquent men in Arabia, which was at that time stocked with thousands whose sole study and ambition it was to excel in elegance of Style and composition, to produce even a single chapter that might be compared with it. I will mention but one instance out of several, to show that this book was really admired for the beauty of its composure by those who must be allowed to have been competent judges....declaring that such words could proceed from an inspired person only.

(George Sale: The Koran; The Preliminary Discourse; Section 3; pg: 47,48)

اور یہ معجز نما حقیقت محمد (ﷺ) نے خود اہل مکہ کے سامنے رکھی اور مشہور اہل زبان اور ماہرین سخن کو جو اس دور میں عرب میں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، ایک عام چیلنج دیا کہ اس کلام سے بڑھ کر حسین کلام بنا کر دکھادیں۔ اس کے کسی ایک حصہ کے بالمقابل ہی بنا دیں۔ میں بیسیوں مثالوں میں سے ایک مثال کا انتخاب کرتا ہوں تاکہ یہ ثابت کر سکوں کہ یہ کتاب درحقیقت ایسے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔..... (اس کے بعد لبید بن ربیعہ عامری کی مثال پیش کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر قرآن کریم پر ایمان لے آئے اس لیے کہ)..... انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ غیر معمولی کلمات ایک ملہم کو ہی عطا ہو سکتے ہیں۔

لیکن حیرت ہے کہ عربی زبان کا گہرا علم نہ رکھنے والے اور اس کی بلاغت کے اصولوں سے بیخبر، جن کو عربی بول چال کا بھی ملکہ نہیں اعتراض کرتے ہیں۔ پس آج اس تشریف آیت کے معجزہ کو اگر کوئی abrupt changes کہہ دے تو یہ اس کی جہالت ہے نہ کہ قرآن کی خامی۔ اسے فوراً عظیم اہل زبان عرب لوگوں سے پوچھنا چاہیے اور ابن وراق کے لیے سیوطی کی گواہی کافی ہوگی۔ کیوں کہ اسے بھی تسلیم ہے کہ علامہ سیوطی ایک عظیم ماہر لسانیات ہیں۔

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Sub Heading; The Word of God? Pg; 106)

علامہ سیوطیؒ ایک فخر اور توحیدی سے فرماتے ہیں:

لا تری شیئا من الالفاظ افصح ولا اجزل ولا اعذب من الفاظہ ولا تری
نظما احسن تالیفا و اشد تلاوة و تشاکلا من نظمہ۔

(الاتقان فی علوم القرآن الجزء الثانی النوع الرابع و الستون فی اعجاز القرآن)

یعنی اے مخاطب تجھے قرآن کریم کے الفاظ سے زیادہ فصیح، پُر شوکت اور شیریں الفاظ کبھی کسی کلام میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس سے زیادہ منظوم اور مربوط اور شاندار ترتیب والا اور زور دار کلام تو کبھی نہ دیکھ پائے گا۔

پس ابن وراق اور کسی کی نہیں سُننا تو بیشک نہ سُنے، اپنی بات کو وقعت دیتے ہوئے علامہ سیوطی کی ہی سُن لے اور ان کے علم و فضل سے ہی فائدہ اٹھالے۔ علامہ سیوطیؒ کے نزدیک قرآن کریم فصیح و بلیغ اور معجزانہ اسلوب بیان والا ایک ایسا مرتب اور مربوط کلام ہے جو انسانی طاقت سے بہت بالا ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور ہر پہلو سے محفوظ ہے۔ چنانچہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف الاتقان کے شروع میں بھی اس حقیقت کا بڑی عقیدت اور فخر سے ذکر کرتے ہیں اور اس کے پہلے ہی صفحہ پر قرآن کریم کی ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اب امید ہے ابن وراق کسی عربی سے نابلد، متعصب مستشرق کی تحریر کو بنیاد بنانے کی بجائے اس عظیم ماہر لسانیات اور مفسر قرآن کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے قرآن کے معجزانہ اسلوب بیان کو سمجھ بے شک نہ پائے لیکن تسلیم ضرور کر لے گا۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ تسلیم نہ کرے؟ خود ہی تو مانتا ہے کہ سیوطی عظیم ماہر لسانیات ہیں۔

علامہ سیوطیؒ کے علاوہ اور بھی بہت علماء ہیں جنکو سیوطیؒ بھی عربی زبان کا ماہر تسلیم کرتے ہیں اور ان علمائے بھی صرف تشریف الآیات کے موضوع پر کتب لکھ کر قرآن کریم کے اس معجزہ کی وضاحت کی ہے۔ مثلاً فراء نے اپنی کتاب معانی القرآن میں اس معجزہ پر بحث اٹھائی ہے اسی طرح امام لغت ابوعلی احمد بن جعفر دینوری المتوفی 289ھ کی کتاب ضمائر القرآن خاص طور پر اسی موضوع پر ہے۔ ”التفات“ علم بلاغت کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس میں

ضمائر کی تبدیلی اور ایک واقعہ سے ایک دوسرے واقعہ کی طرف توجہ پھیرنے کے انداز وغیرہ پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اس پر اعتراض کرنا۔۔۔ یہ تو ایسی بات ہی ہوگی کہ انگریزی زبان کا سرسری سا علم رکھنے والا شیکسپیر کا کوئی ادب پارہ سمجھ نہ پائے اور اعتراض کر دے کہ جانے کیا کیا لکھ دیا ہے۔ پس بہتر یہی تھا کہ ابن وراق اہل زبان کی گواہی کو ہی تسلیم کرتا اور اپنی جہالت کو قرآن کریم پر اعتراض کی وجہ اور بنیاد نہ بناتا۔ قرآن کریم تو اپنے اسلوب بیان کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اس جیسا مرتب، باربٹ اور فصیح و بلیغ کلام پیش کر کے تو دکھاؤ اور ان لوگوں کو جو نہ چیلنج قبول کرتے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم کا الہی کلام ہونا تسلیم کرتے ہیں جھوٹا اور شکست خوردہ قرار دیتا ہے۔ مگر پھر بھی پندرہ سو سال کے اس عرصے میں کسی عربی دان کو اس میدان میں دم مارنے کی جرأت نہیں ہوئی اور عاجز رہ کر خود اپنا جھوٹا اور شکست خوردہ ہونا تسلیم کر لیا۔

آخری طریق فیصلہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارہ میں فرماتے ہیں:

”علاوہ دلائل متذکرہ بالا کے کئی ایک اور وجوہ بھی ہیں۔ جن سے خدا کے کلام کا عدیم المثال ہونا اور بھی زیادہ اس پر واضح ہوتا ہے اور مثل اجلی بدیہات کے نظر آتا ہے۔ جیسے منجملہ ان کے ایک وہ وجہ ہے جو ان نتائج متفاوتہ سے ماخوذ ہوتی ہے۔ جن کا مختلف طور پر بحالت عمل صادر ہونا ضروری ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر ایک عاقل کی نظر میں یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ جب چند متکلمین انشا پر دا ز اپنی اپنی علمی طاقت کے زور سے ایک ایسا مضمون لکھنا چاہیں کہ جو فضول اور کذب اور حشو اور لغو اور ہزل اور ہر ایک مہمل بیانی اور ژولیدہ زبانی اور دوسرے تمام امور محل حکمت و بلاغت اور آفات منافی کمالیت و جامعیت سے بکلی منزہ اور پاک ہو اور سراسر حق اور حکمت اور فصاحت اور بلاغت اور حقائق اور معارف سے بھرا ہوا ہو۔ تو ایسے مضمون کے لکھنے میں وہی شخص سب سے اول درجہ پر رہے گا۔ کہ جو علمی طاقتوں اور وسعت معلومات اور عام واقفیت اور ملکہ علوم دقیقہ میں سب سے اعلیٰ اور مشق اور ورزش املاء و انشاء میں سب سے زیادہ تر فرسودہ روزگار ہو اور ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ جو شخص اس سے استعداد میں، علم میں، لیاقت میں، ملکہ میں، ذہن میں، عقل میں کہیں فروتر اور متزلزل ہے۔ وہ اپنی تحریر میں من حیث الکمالات اس سے برابر ہو جائے۔ مثلاً ایک طبیب حاذق جو علم ابدان میں مہارت تامہ رکھتا ہے۔ جس کو زمانہ دراز کی مشق کے باعث سے تشخیص امراض اور تحقیق

عوارض کی پوری پوری واقفیت حاصل ہے اور علاوہ اس کے فن سخن میں بھی یکتا ہے اور نظم اور نثر میں سرآمد روزگار ہے۔ جیسے وہ ایک مرض کے حدوث کی کیفیت اس کے علامات اور اسباب فصیح اور وسیع تقریر میں بکمال صحت و حقانیت اور بہ نہایت متانت و بلاغت بیان کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا شخص جس کو فن طبابت سے ایک ذرہ مس نہیں اور فن سخن کی نزاکتوں سے بھی نا آشنا محض ہے۔ ممکن نہیں کہ مثل اس کے بیان کر سکے۔ یہ بات بہت ہی ظاہر اور عام فہم ہے کہ جاہل اور عاقل کی تقریر میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اور جس قدر انسان کمالات علمیہ رکھتا ہے۔ وہ کمالات ضرور اس کی علمی تقریر میں اس طرح پر نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک آئینہ صاف میں چہرہ نظر آتا ہے اور حق اور حکمت کے بیان کرنے کے وقت وہ الفاظ کہ جو اس کے مونہہ سے نکلتے ہیں۔ اس کی لیاقت علمی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے ایک پیمانہ تصور کیے جاتے ہیں اور جو بات وسعت علم اور کمال عقل کے چشمہ سے نکلتی ہے اور جو بات تنگ اور منقبض اور تاریک اور محدود خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں طور کی باتوں میں اس قدر فرق واضح ہوتا ہے کہ جیسے قوت شامہ کے آگے بشرطیکہ کسی فطرتی یا عارضی آفت سے ماؤف نہ ہو۔ خوشبو اور بدبو میں فرق واضح ہے۔ جہاں تک تم چاہو فکر کر لو اور جس حد تک چاہو سوچ لو کوئی خامی اس صداقت میں نہیں پاؤ گے اور کسی طرف سے کوئی رخسہ نہیں دیکھو گے پس جبکہ من کل الوجوہ ثابت ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مخفی ہوتا ہے۔ وہ ضرور کلام میں ظاہر ہو جاتا ہے اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ من حیث العقل والعلم افضل اور اعلیٰ ہیں وہ فصاحت بیانی اور رفعت معانی میں یکساں ہو جائیں اور کچھ ماہہ الاتیاز باقی نہ رہے۔ تو اس صداقت کا ثابت ہونا اس دوسری صداقت کے ثبوت کو مستلزم ہے کہ جو کلام خدا کلام ہو۔ اس کا انسانی کلام سے اپنے ظاہری اور باطنی کمالات میں برتر اور اعلیٰ اور عدیم المثال ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ خدا کے علم تام سے کسی کا علم برابر نہیں ہو سکتا اور اسی کی طرف خدا نے بھی اشارہ فرما کر کہا ہے۔ **فَاللَّهُ يَسْتَجِيبُ أَلْكُمْ فَاَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔** الجزء و نمبر ۱۲ [ہود: 15] یعنی اگر کفار اس قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکیں اور مقابلہ کرنے سے عاجز رہیں۔ تو تم جان لو کہ یہ کلام علم انسان سے نہیں بلکہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے۔ جس کے علم وسیع اور تام کے مقابلہ پر علوم انسانیہ بے حقیقت اور ہیچ ہیں۔ اس آیت میں برہان انی کی طرز پر اثر کے وجود کو مؤثر کے وجود کی دلیل ٹھہرائی ہے جس کا دوسرے لفظوں میں خلاصہ مطلب یہ

ہے کہ علم الہی بوجہ اپنی کمالیت اور جامعیت کے ہرگز انسان کے ناقص علم سے متشابہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ضرور ہے کہ جو کلام اس کامل اور بے مثل علم سے نکلا ہے۔ وہ بھی کامل اور بے مثل ہی ہے اور انسانی کلاموں سے بالکل امتیاز رکھتا ہو۔ سو یہی کمالیت قرآن شریف میں ثابت ہے۔ غرض خدا کے کلام کا انسان کے کلام سے ایسا فرق بین چاہئے۔“

(براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول ص 214 تا 240 ایڈیشن اول ص 197 تا 214)

قرآن کریم کے چیلنج کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح پاک فرماتے ہیں:

یہ امر ہر ایک عاقل کے نزدیک بغیر کسی تردد اور توقف کے مسلم الثبوت ہے کہ گلاب کا پھول بھی مثل اور مصنوعات الہیہ کے ایسی عمدہ خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھتا ہے جن کی مثل بنانے پر انسان قادر نہیں اور وہ دو طور کی خوبیاں ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس کی ظاہری صورت میں پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اس کا رنگ نہایت خوشنما اور خوب ہے اور اس کی خوشبو نہایت دلارام اور دلکش ہے اور اس کے ظاہر بدن میں نہایت درجہ کی ملائمت اور تروتازگی اور نرمی اور نزاکت اور صفائی ہے۔ اور دوسری وہ خوبیاں ہیں کہ جو باطنی طور پر حکیم مطلق نے اس میں ڈال رکھی ہیں یعنی وہ خواص کہ جو اس کے جوہر میں پوشیدہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ مفرح اور مقوی قلب اور مسکن صفا ہے۔ اور تمام قوی اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے اور صفا اور بلغم رقیق کا مسہل بھی ہے اور اسی طرح معدہ اور جگر اور گردہ اور امعا اور رحم اور پھیپھڑہ کو بھی قوت بخشتا ہے۔ اور خفقان حار اور غشی اور ضعف قلب کے لئے نہایت مفید ہے اور اسی طرح اور کئی امراض بدنی کو فائدہ مند ہے۔ پس انہیں دونوں طور کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی نسبت اعتقاد کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مرتبہ کمال پر واقعہ ہے کہ ہرگز کسی انسان کے لئے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا پھول بناوے کہ جو اس پھول کی طرح رنگ میں خوشنما اور خوشبو میں دلکش اور بدن میں نہایت تروتازہ اور نرم اور نازک اور مصفا ہو۔ اور باوجود اس کے باطنی طور پر تمام وہ خواص بھی رکھتا ہو جو گلاب کے پھول میں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں گلاب کے پھول کی نسبت ایسا اعتقاد کیا گیا کہ انسانی قوتیں اس کی نظیر بنانے سے عاجز ہیں اور کیوں جائز نہیں کہ کوئی انسان اس کی نظیر بنا سکے۔ اور جو خوبیاں اس کی ظاہر و باطن میں پائی جاتی ہیں وہ مصنوعی پھول میں پیدا کر سکے۔ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ایسا پھول بنانا عادتاً متمنع ہے اور آج تک کوئی حکیم اور فیلسوف کسی ایسی ترکیب سے کسی قسم کی ادویہ کو بہم نہیں

پہنچا سکا کہ جن کے باہم مخلوط اور مزوج کرنے سے ظاہر و باطن میں گلاب کے پھول کی سی صورت اور سیرت پیدا ہو جائے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہی وجوہ بے نظیری کی سورۃ فاتحہ میں بلکہ قرآن شریف کے ہر ایک حصہ اقل قلیل میں کہ جو چار آیت سے بھی کم ہو۔ پائی جاتی ہیں۔ پہلے ظاہری صورت پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیسی رنگینی عبارت اور خوش بیانی اور جودت الفاظ اور کلام میں کمال سلاست اور نرمی اور روانگی اور آب و تاب اور لطافت وغیرہ لوازم حسن کلام اپنا کامل جلوہ دکھا رہے ہیں۔ ایسا جلوہ کہ جس پر زیادت متصور نہیں۔ اور وحشت کلمات اور تعقید ترکیبات سے بکلی سالم اور بری ہے۔ ہر ایک فقرہ اس کا نہایت فصیح اور بلیغ ہے اور ہر ایک ترکیب اس کی اپنے اپنے موقعہ پر واقعہ ہے اور ہر ایک قسم کا التزام جس سے حسن کلام بڑھتا ہے اور لطافت عبارت کھلتی ہے۔ سب اس میں پایا جاتا ہے۔ اور جس قدر حسن تقریر کے لئے بلاغت اور خوش بیانی کا اعلیٰ سے درجہ ذہن میں آسکتا ہے وہ کامل طور پر اس میں موجود اور مشہود ہے۔ اور جس قدر مطلب کے دل نشین کرنے کے لئے حسن بیان درکار ہے وہ سب اس میں مہیا اور موجود ہے اور باوجود اس بلاغت معانی اور التزام کمالیت حسن بیان کے صدق اور راستی کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی مبالغہ ایسا نہیں جس میں جھوٹ کی ذرا آمیزش ہو۔ کوئی رنگینی عبارت اس قسم کی نہیں جس میں شاعروں کی طرح جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی نجاست اور بدبو سے مدد لی گئی ہو۔ پس جیسے شاعروں کا کلام جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کلام صداقت اور راستی کی لطیف خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اس خوشبو کے ساتھ خوش بیانی اور جودت الفاظ اور رنگینی اور صفائی عبارت کو ایسا جمع کیا گیا ہے کہ جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو کے ساتھ اس کی خوش رنگی اور صفائی بھی جمع ہوتی ہے۔ یہ خوبیاں تو باعتبار ظاہر کے ہیں۔ اور باعتبار باطن کے اس میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یہ خواص ہیں کہ وہ بڑی بڑی امراض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے اور تکمیل قوت علمی اور عملی کے لئے بہت سا سامان اس میں موجود ہے اور بڑے بڑے باڑوں کی اصلاح کرتی ہے اور بڑے بڑے معارف اور دقائق اور لطائف کہ جو حکیموں اور فلسفیوں کی نظر سے چھپے رہے۔ اس میں مذکور ہیں۔ سالک کے دل کو اس کے پڑھنے سے یقینی قوت بڑھتی ہے اور شک اور شبہ اور ضلالت کی بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور بہت سی اعلیٰ درجہ کی صداقتیں اور نہایت باریک حقیقتیں کہ جو تکمیل نفس ناطقہ کے لئے ضروری ہیں۔ اس کے مبارک مضمون میں بھری ہوئی ہیں۔ اور

ظاہر ہے کہ یہ کمالات بھی ایسے ہیں کہ گلاب کے پھول کے کمالات کی طرح ان میں بھی عادتاً ممنوع معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے کلام میں مجتمع ہو سکیں۔ اور یہ امتناع نہ نظری بلکہ بدیہی ہے۔ کیونکہ جن دقائق و معارف عالیہ کو خدائے تعالیٰ نے عین ضرورت حقہ کے وقت اپنے بلیغ اور فصیح کلام میں بیان فرما کر ظاہری اور باطنی خوبی کا کمال دکھلایا ہے اور بڑی نازک شرطوں کے ساتھ دونوں پہلوؤں ظاہر و باطن کو کمالات کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچایا ہے۔ یعنی اول تو ایسے معارف عالیہ ضروریہ لکھے ہیں کہ جن کے آثار پہلی تعلیموں سے مندرس اور محو ہو گئے تھے اور کسی حکیم یا فیلسوف نے بھی ان معارف عالیہ پر قدم نہیں مارا تھا۔ اور پھر ان معارف کو غیر ضروری اور فضول طور پر نہیں لکھا بلکہ ٹھیک ٹھیک اس وقت اور اس زمانہ میں ان کو بیان فرمایا جس وقت حالت موجودہ زمانہ کی اصلاح کے لئے ان کا بیان کرنا از بس ضروری تھا اور بغیر ان کے بیان کرنے کے زمانہ کی ہلاکت اور تباہی متصور تھی۔ اور پھر وہ معارف عالیہ ناقص اور ناتمام طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ کماؤ و کیفاً کامل درجہ پر واقعہ ہیں اور کسی عاقل کی عقل کوئی ایسی دینی صداقت پیش نہیں کر سکتی جو ان سے باہر رہ گئی ہو۔ اور کسی باطل پرست کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا ازالہ اس کلام میں موجود نہ ہو۔ ان تمام حقائق و دقائق کے التزام سے کہ جو دوسری طرف ضرورت حقہ کے التزام کے ساتھ وابستہ ہیں فصاحت بلاغت کے ان اعلیٰ کمالات کو ادا کرنا جن پر زیادت متصور نہ ہو۔ یہ تو نہایت بڑا کام ہے کہ جو بشری طاقتوں سے بہ بداہت نظر بلند تر ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 399-396 ایڈیشن اول

صفحہ 335-332)

نیز فرمایا:

نیز اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہئے۔ کہ قرآن شریف کا اپنی کلام میں بے مثل و مانند ہونا صرف عقلی دلائل میں محصور نہیں بلکہ زمانہ دراز کا تجربہ صحیحہ بھی اس کا مؤید اور مصدق ہے۔ کیونکہ باوجود اس کے کہ قرآن شریف برابر تیرہ سو برس سے اپنی تمام خوبیاں پیش کر کے ہل من معارض کا نقارہ بجا رہا ہے اور تمام دنیا کو باواز بلند کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری صورت اور باطنی خواص میں بے مثل و مانند ہے اور کسی جن یا انس کو اس کے مقابلہ یا معارضہ کی طاقت نہیں۔ مگر پھر بھی کسی تنفس نے اس کے مقابلہ پر دم نہیں مارا۔ بلکہ اس کی کم سے کم کسی سورۃ مثلاً سورۃ فاتحہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو دیکھو اس سے

زیادہ بدیہی اور کھلا کھلے معجزہ اور کیا ہوگا۔ کہ عقلی طور پر بھی اس پاک کلام کا بشری طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہوتا ہے اور زمانہ دراز کا تجربہ بھی اس کے مرتبہ اعجاز پر گواہی دیتا ہے اور اگر کسی کو یہ دونوں طور کی گواہی کہ جو عقل اور تجربہ زمانہ دراز کے رو سے بہ پایہ ثبوت پہنچ چکی ہے نامنتظر ہو اور اپنے علم اور ہنر پر نازاں ہو۔ یا دنیا میں کسی ایسے بشر کی انشا پر دازی کا قائل ہو۔ کہ جو قرآن شریف کی طرح کوئی کلام بنا سکتا ہے۔ تو ہم جیسا کہ وعدہ کر چکے ہیں۔ کچھ بطور نمونہ حقائق و دقائق سورۃ فاتحہ کے لکھتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ بمقابلہ ان ظاہری و باطنی سورۃ فاتحہ کی خوبیوں کے کوئی اپنا کلام پیش کرے۔.... اور اگر کوئی اس امر کو تسلیم نہ کرے۔ تو یہ بار ثبوت اسی کی گردن پر ہے کہ وہ آپ یا کسی اپنے مددگار سے عبارت قرآن کی مثل بنا کر پیش کرے۔ مثلاً سورۃ فاتحہ کے مضمون کو لیکر کوئی دوسری فصیح عبارت بنا کر دکھلا دے جو کمال بلاغت اور فصاحت میں اس کے برابر ہو سکے۔ اور جب تک ایسا نہ کرے۔ تب تک وہ ثبوت کہ جو مخالفین کے تیرہ سو برس خاموش اور لا جواب رہنے سے اہل حق کے ہاتھ میں ہے۔ کسی طور سے ضعیف الاعتبار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مخالفین کے سینکڑوں برسوں کی خاموشی اور لا جواب رہنے نے اس کو وہ کامل مرتبہ ثبوت کا بخشا ہے کہ جو گلاب کے پھول وغیرہ کو وہ ثبوت بے نظیری کا حاصل نہیں۔ کیونکہ دنیا کے حکیموں اور صنعت کاروں کو کسی دوسری چیز میں اس طور پر معارضہ کے لئے کبھی ترغیب نہیں دی گئی اور نہ اس کی مثل بنانے سے عاجز رہنے کی حالت میں کبھی ان کو یہ خوف دلایا گیا کہ وہ طرح طرح کی تباہی اور ہلاکت میں ڈالے جائیں گے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 404-402 ایڈیشن اول

صفحہ 338)

دوسرے نشان صدق یہ کہ ہر یک صداقت دینی کو وہ بیان کرتا ہے اور تمام وہ امور بتلاتا ہے کہ جو ہدایت کامل پانے کے لیے ضروری ہیں اور یہ اس لیے نشان صدق ٹھہرا کہ انسان کی طاقت سے یہ بات باہر ہے کہ اس کا علم ایسا وسیع و محیط ہو جس سے کوئی دینی صداقت و حقائق دقیقہ بار نہ رہیں۔ غرض ان تمام آیات میں خدائے تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ قرآن شریف ساری صداقتوں کا جامع ہے اور یہی بزرگ دلیل اس کی حقانیت پر ہے اور اس دعویٰ پر صدہا برس بھی گزر گئے۔ پر آج تک کسی برہم و غیرہ نے اس کے مقابلے پر دم بھی نہ مارا۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ بغیر پیش کرنے کسی ایسی جدید صداقت کے کہ جو قرآن شریف سے باہر

رہ گئی ہو۔ یونہی دیوانوں اور سودائیوں کی طرح اوہام باطلہ پیش کرنا جن کی کچھ بھی اصلیت نہیں۔ اس بات پر پختہ دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کو راست بازوں کی طرح حق کا تلاش کرنا منظور ہی نہیں۔ بلکہ نفس امارہ کو خوش رکھنے کے لیے اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح خدا کے پاک احکام سے بلکہ خدا ہی سے آزادی حاصل کر لیں۔ اسی آزادی کے حصول کی غرض سے خدا کی سچی کتاب سے جس کی حقانیت اظہر من الشمس ہے ایسے مخرف ہو رہے ہیں کہ نہ متکلم بن کر شائستہ طریق پر کلام کرتے ہیں اور نہ سامع ہونے کی حالت میں کسی دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ کب کسی نے کوئی صداقت دینی قرآن کے مقابلہ پر پیش کی جس کا قرآن نے کچھ جواب نہ دیا اور خالی ہاتھ بھیج دیا جس حالت میں تیرہ سو برس سے قرآن شریف باواز بلند دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام دینی صداقتیں اس میں بھری پڑی ہیں۔ تو پھر یہ کیسا نجس طینت ہے کہ امتحان کے بغیر ایسی عالیشان کتاب کو ناقص خیال کیا جائے اور یہ کس قسم کا مکابرہ ہے کہ نہ قرآن شریف کے بیان کو قبول کریں اور نہ اس کے دعویٰ کو توڑ کر دکھلائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے لبوں پر تو ضرور کبھی کبھی خدا کا ذکر آ جاتا ہے۔ مگر ان کے دل دنیا کی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی دینی بحث شروع بھی کریں تو اس کو مکمل طور پر ختم کرنا نہیں چاہتے۔ بلکہ نا تمام گفتگو کا ہی جلدی سے گلا گھوٹ دیتے ہیں۔ تا ایسا نہ ہو کہ کوئی صداقت ظاہر ہو جائے اور پھر بے شرمی یہ کہ گھر میں بیٹھ کر اس کا مل کتاب کو ناقص بیان کرتے ہیں۔ جس نے بوضاحت تمام فرما دیا۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْجَزُؤَ نَمْبِر ۶ [المائدہ: 4] یعنی آج میں نے اس کتاب کے نازل کرنے سے علم دین کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیا اور اپنی تمام نعمتیں ایمانداری پر پوری کر دیں۔ اے حضرات! کیا تمہیں کچھ بھی خدا کا خوف نہیں؟ کیا تم ہمیشہ اسی طرح جیتے رہو گے؟ کیا ایک دن خدا کے حضور میں اس جھوٹے منہ پر لعنتیں نہیں پڑیں گی؟ اگر آپ لوگ کوئی بھاری صداقت لیے بیٹھے ہیں جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے کمال جانفشانی اور عرق ریزی اور مویشگانی سے اس کو پیدا کیا ہے اور جو تمہارے گمان باطل میں قرآن شریف اس صداقت کے بیان کرنے سے قاصر ہے تو تمہیں قسم ہے کہ سب کاروبار چھوڑ کر وہ صداقت ہمارے روبرو پیش کرو۔ تاہم تم کو قرآن شریف میں سے نکال کر دکھلا دیں۔ مگر پھر مسلمان ہونے پر مستعد رہو اور اگر اب بھی آپ بدگمانی اور بک بک کرنا نہ چھوڑیں اور مناظرہ کا سیدھا راستہ اختیار نہ کریں۔ تو بجز اس کے

اور کیا کہیں کہ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ [ال عمران: 62]

(براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 227، 226 ایڈیشن اول صفحہ 206)

ہریک باخبر آدمی پر ظاہر ہے کہ مخالفین باوجود سخت حرص اور شدت عناد اور پرلے درجہ کی مخالفت اور عداوت کے مقابلہ اور معارضہ سے قدیم سے عاجز رہے ہیں۔ اور اب بھی عاجز ہیں اور کسی کو دم مارے کی جگہ نہیں۔ اور باوجود اس بات کے کہ اس مقابلہ سے ان کا عاجز رہنا ان کو ذلیل بناتا ہے۔ جہنمی ٹھہراتا ہے۔ کافر اور بے ایمان کا ان کو لقب دیتا ہے۔ بے حیا اور بے شرم ان کا نام رکھتا ہے۔ مگر مردہ کی طرح ان کے مونہہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی۔ پس لا جواب رہنے کی ساری ذلتوں کو قبول کرنا اور تمام ذلیل ناموں کو اپنے لئے روا رکھنا اور تمام قسم کی بے حیائی اور بے شرمی کی خس و خاشاک کو اپنے سر پر اٹھالینا اس بات پر نہایت روشن دلیل ہے کہ ان ذلیل چمگا دڑوں کی اس آفتاب حقیقت کے آگے کچھ پیش نہیں جاتی۔ پس جبکہ اس آفتاب صداقت کی اس قدر تیز شعاعیں چاروں طرف سے چھوٹ رہی ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے دشمن خفاش سیرت اندھے ہو رہے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ بالکل مکابرہ اور سخت جہالت ہے کہ گلاب کے پھول کی خوبیوں کو کہ جو بہ نسبت قرآنی خوبیوں کے ضعیف اور کمزور اور قلیل الثبوت ہیں۔ اس مرتبہ بے نظیری پر سمجھا جائے کہ انسانی قوتیں ان کی مثل بنانے سے عاجز ہیں۔ مگر ان اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو کہ جو کئی درجہ گلاب کے پھول کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے افضل و بہتر اور قوی الثبوت ہیں۔ ایسا خیال کیا جائے کہ گویا انسان ان کی نظیر بنانے پر قادر ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 1412 ایڈیشن اول صفحہ 346)

پس اگر ابن وراق کو اپنی جہالت کی وجہ سے یہ حسن نظر نہیں آتا اور نہ ہی عقل سے کام لیتا ہے کہ ایک عرب فصیح البیان، قادر الکلام شخص کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترتیب لگاتا تھا اس لیے لازماً کلام کسی اسلوب پر ہی مرتب کیا گیا ہوگا، تو اس کے لیے ایک اور طریق ہے کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرے اور مقابلہ کے لیے میدان میں اترے۔ سوال یہ ہے کہ جہاں تک قرآن کریم کے اسلوب بیان کا تعلق ہے تو اہل علم بر ملا گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کریم کا اسلوب بیان اپنے حسن و جمال میں عالی شان، بے مثل اور اہل کمال کے اسلوب سے اعلیٰ وارفع ہے۔ مگر وہ اسلوب ہے کیا؟ عام شخص کو، جو عربی زبان سے واقف نہیں یا قرآن کریم کا گہرا مطالعہ نہیں رکھتا، کس طرح سمجھایا جائے؟

قرآن کریم کی معنوی ترتیب اور اس کا دستور بیان

تمام مذاہب کے قیام کا بنیادی مقصد دراصل تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اسلام بھی اسی مقصد کی خاطر آیا اور اس وقت آیا جب کہ تمام مذاہب مختلف وجوہات سے اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدیؑ معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:

پھر دیکھو کہ تقویٰ ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو ٹھہرایا ہے چنانچہ دوسری سورۃ کو جب شروع کیا ہے تو یوں ہی فرمایا ہے: **الْمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** (البقرہ: 3-2)

(ملفوظات جلد اول صفحہ 282)

اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی امر عبادت الہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا پہلا حکم جو امر کے صیغہ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کے قیام کے خاطر خدا تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: 22)

ترجمہ: اے لوگو! تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔

پس اس آیت میں قرآن کریم ایسی عبادت الہی کو انسانی پیدائش کا مقصود بیان کرتا ہے جس عبادت سے تقویٰ پیدا ہو۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدیؑ معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:

اس قدر تفصیل جو (قرآن مجید میں) بیان کی جاتی ہیں ان کا خلاصہ اور مغز کیا ہے؟ **الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ** [ہود: 2] خدا تعالیٰ کے سوا ہرگز کسی کی پرستش نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی عبادت ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے **وَمَا خَلَقْتُ**

الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاریت: 57] (ملفوظات جلد اول صفحہ 246, 347)

اور عبادت الہی اور تقویٰ کا قیام کامل تو حید کے قیام کے بغیر ناممکن ہے اس لیے تو حید الہی کا قیام بھی قرآن کریم کے نزول کی علت غائی ٹھہرا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدیؑ معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:

تمام احکام ایک ہی مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں یعنی علمی اور عملی رنگ میں اور درشتی اور نرمی کے پیرایہ میں خدا کی تو حید پر قائم کرنا اور ہوا و ہوس چھوڑ کر خدا کی تو حید کی طرف کھینچنا یہی

قرآن کا مدعا ہے۔ (چشمہ معرفت: روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 198)

پس توحید الہی اور عبادت الہی اور تقویٰ۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہیں۔
قرآن کریم کی ظاہری ترتیب، اس کی معنوی ترتیب سمجھنے کے لیے ظاہری ترتیب کی اہمیت اور مقصد نزول کی
وضاحت کے بعد قرآن کریم کی معنوی ترتیب اور اس کے دستور بیان کو سمجھنا آسان ہوگا۔

قرآن کریم کا اسلوب بیان بطریق درس و تعلیم

اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کریم کے مقصد کے حصول کے لیے جو اسلوب اپنایا ہے اسے درس سے تشبیہ دی
ہے۔ فرماتا ہے:

وَكَذَلِكَ نُنصِرُ الْآيَاتِ وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ: (الانعام: 106)

اور اسی طرح ہم نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ اٹھیں کہ تو نے خوب سیکھا
اور خوب سکھایا اور تاکہ ہم صاحب علم لوگوں پر اس (مضمون) کو خوب روشن کر دیں۔

پس قرآن کریم ایک تعلیم بھی ہے اور درس بھی۔ اس میں ہر ضروری مضمون اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ مکمل
وضاحت سے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ مضمون کو امثال اور واقعات کی روشنی میں تاریخی
اور فطرتی شہادات سے سجا کر اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ قاری اور سامع کی علمی، روحانی اور ذوقی تسکین کے
ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی مثبت ہوتا چلا جائے۔ پس قرآن کریم میں بیان شدہ کسی بھی مضمون کی جزئیات کو
ایک درس کے طور پر بار بار مختلف پیرائے میں دہرا کر اور مختلف انداز سے اس طرح بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
اس کے مضامین طالب کے دل و دماغ میں راسخ ہوتے چلے جائیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و
مہدی معبود علیہ السلام فرماتے ہیں:

خدا کا فصیح کلام معارف حقہ کو کمال ایجاز سے، کمال ترتیب سے، کمال صفائی اور خوش بیانی
سے لکھتا ہے اور وہ طریق اختیار کرتا ہے جس سے دلوں پر اعلیٰ درجہ کا اثر پڑے اور تھوڑی عبارت
میں وہ علوم الہیہ سما جائیں جن پر دنیا کی ابتدا سے کسی کتاب یا دفتر نے احاطہ نہیں کیا۔ یہی حقیقی
فصاحت بلاغت ہے جو تکمیل نفس انسانی کے لیے ممد و معاون ہے جس کے ذریعہ سے حق کے
طالب کمال مطلوب تک پہنچتے ہیں اور یہی وہ صفت ربانی ہے جس کا انجام پذیر ہونا بجز الہی
طاقت اور اس کے علم وسیع کے ممکن نہیں۔

(براہین احمدیہ چہار حصص روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 466-464 حاشیہ نمبر 3)

اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دستور و اسلوب بیان اپنایا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اور قرآن کے بیان فرمودہ مضامین کی ترتیب کے بارہ میں سورۃ ہود میں فرماتا ہے:

ترتیب مضامین قرآن

الرَّكْتَبُ أَحْكَمْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ - أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ - وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ - (آیات 2 تا 4)

ترجمہ: (یہ) ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم بنائی گئی ہیں (اور) پھر صاحب حکمت (اور) ہمیشہ خبر رکھنے والے کی طرف سے اچھی طرح کھول دی گئی ہیں۔ (متنبہ کر رہی ہیں) کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں یقیناً تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک نذیر اور ایک بشیر ہوں۔ نیز یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تمہیں وہ ایک مقررہ مدت تک بہترین سامان معیشت عطا کرے گا اور وہ ہر صاحب فضیلت کو اس کے شایان شان فضل عطا کرے گا اور اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہارے بارہ میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

ان آیات میں یہ مضمون ہے کہ خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے قرآن کریم کی محکم آیات کے مضامین کی تفصیل یہ ہے کہ مقصد اعلیٰ عبادت الہی کا قیام ہے چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اسوۂ حسنہ بناتے ہوئے ایسی کتاب کے ساتھ بھیجا ہے جس میں تمام ضروری مضامین انذار اور بشارت کے پیرایہ میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ طالب استغفار اور توبہ کے پانی سے اپنے تقویٰ کی آبیاری کرے اور اس کے نتیجے میں الہی انعامات کا وارث بنے۔ مگر یہ سب ہر طالب کی ذاتی استعداد اور فضیلت کے مطابق ہوگا۔ جو اپنی استعدادوں کے دائرہ میں رہتے ہوئے جتنا کمال حاصل کر لے گا اسی قدر وہ خدا کے فضلوں کا وارث ہوگا۔ اور شرارت کرتے ہوئے جو پھرے گا تو وہ خدا کے غضب کا مورد ہوگا۔

پس ان آیات کے حوالہ سے قرآن کریم کے مضامین کی ایک ترتیب کچھ یوں معلوم ہوتی ہے کہ:

اول: اس کتاب اور تعلیم کا مقصد حصول تقویٰ کے لیے خدائے واحد کی عبادت کا قیام ہے۔

دوم: اس مقصد کے حصول کے لیے آنحضرت ﷺ کو تنبیہ کرنے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔

سوم: آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوۂ حسنہ اور کامل نمونہ سے اسلامی تعلیمات سکھائیں گے۔

چہارم: یہ مشکل کام بجز خدا تعالیٰ کی توفیق کے نہیں ہوگا پس توفیق حاصل کرنے کے لیے استغفار کی تعلیم دی اور عملی رنگ میں ڈھلنے کے لیے رسول کریم کی صحیح عملی پیروی کرنے کے لیے توبہ کی تعلیم دی۔

پنجم: پس اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اس تعلیم پر عمل پیرا ہونے والے ایک خاص وقت کے بعد انعام و اکرام کے وارث ہوں گے اور ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو کامل پیروی اور اطاعت کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ظل ہوں گے۔

ششم: جو اس تعلیم پر عمل پیرا نہ ہوں گے وہ ایک خاص وقت تک مہلت پانے کے بعد عذاب الہی کا مورد ہوں گے۔

ان مضامین کے اسلوب بیان کے بارہ میں رہنمائی فرماتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:

سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی بلاغت ایک پاک اور مقدس بلاغت ہے۔ جس کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ حکمت اور راستی کی روشنی کو فصیح کلام میں بیان کر کے تمام حقائق اور دقائق علم دین ایک موجز اور مدلل عبارت میں بھر دیئے جائیں۔ اور جہاں تفصیل کی اشد ضرورت ہو وہاں تفصیل ہو اور جہاں اجمال کافی ہو وہاں اجمال ہو اور کوئی صداقت دینی ایسی نہ ہو جس کا مفصلاً یا مجملاً ذکر نہ کیا جائے اور باوصف اسکے ضرورت حقہ کے تقاضا سے ذکر ہو نہ غیر ضروری طور پر اور پھر کلام بھی ایسا فصیح اور سلیس اور متین ہو کہ جس سے بہتر بنانا ہرگز کسی کیلئے ممکن نہ ہو اور پھر وہ کلام روحانی برکات بھی اپنے ہمراہ رکھتا ہو۔ یہی قرآن شریف کا دعویٰ ہے جس کو اس نے آپ ثابت کر دیا ہے اور جا بجا فرما بھی دیا ہے کہ کسی مخلوق کیلئے ممکن نہیں کہ اسکی نظیر بنا سکے۔

(براہین احمدیہ چہار حصص روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 477-476 حاشیہ نمبر 3)

پس کلام الہی میں گہرے علمی اور فلسفیانہ دلائل کے بیان کا مقصد کیونکہ مناظرہ یا مباحثہ نہیں بلکہ درس و تدریس اور تعلیم و تربیت ہے اور درس میں انداز بیان کتابی نہیں ہوتا بلکہ مدرس مضامین کی ترتیب کے بیان میں وہ انداز اختیار کرتا ہے جس سے مضمون سامعین کے ذہن نشین بھی ہو جائے اور دلوں کو بھی تقویت دے۔ چنانچہ مدرس ایک مضمون بیان کرتے ہوئے اس سے متعلقہ مضامین بیان کرتا ہے اور پھر مضمون واضح کرنے کے لیے اسے مختلف انداز اور پیرائے میں دہرا کر بیان کرتا ہے اور راسخ کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز واقعات اور خوبصورت محاوروں سے مضمون کو سجاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا مضمون ہر طبیعت کے آدمی کی دلچسپی کا باعث ہو اور ہر فطرت کا انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر تاریخی اور فطری دلائل کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ درس کے

اختتام پر مضمون کے تمام ضروری پہلوؤں کا احاطہ ہو چکا ہوتا ہے اور سننے والوں کو اس مضمون پر تمام ضروری معلومات حاصل ہو چکی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ذہن بھی اس کی حقانیت کو تسلیم کر چکے ہوتے ہیں اور دل بھی عمل کرنے کے لیے تقویت پا چکے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بہترین انداز میں یہ طریق اختیار کرتا ہے پس اسے کلام کی کمزوری کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ یہ تو ایک ایسی خوبی ہے جس میں کوئی کتاب قرآن کریم کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اپنے مقصد اعلیٰ یعنی تقویٰ کے حصول کے لیے اپنے اسلوب بیان کے بہترین ہونے کی اس خصوصیت کو قرآن کریم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكِ اللَّهُ يَهْدِي بِهٖ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ (الزمر: 24)

اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی (اور) بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے۔ جس سے ان لوگوں کی جلدیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں لرزنے لگتی ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف (مائل ہوتے ہوئے) نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرادے تو اُسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام فرماتے ہیں:

سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایا جاتا ہے کہ جو اسی کلام پاک سے خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے اور سینے کو منشرح کرتا ہے اور طالب حق کو حضرت احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقربان حضرت احدیت میں ہونی چاہیے اور جن کو انسان کسی دوسرے جیلہ یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا اور اس روحانی تاثیر کا ثبوت بھی ہم اس کتاب میں دے چکے ہیں اور اگر کوئی طالب حق ہو۔ تو بالموافقہ ہم اس کی تسلی کر سکتے ہیں اور ہر وقت تازہ تازہ ثبوت دینے کو طیار ہیں۔

(براہین احمدیہ چہار حصہ حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 402 ایڈیشن اول صفحہ 338)

قرآن کریم ایک مضمون بیان کرتے ہوئے فطرت انسانی کی طرف سے اٹھنے والے تمام طبعی سوالات کے جوابات بھی نہایت عمدہ پیرایہ میں ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہے۔ کسی مضمون کے بیان میں جب ایسا موقع آتا ہے کہ

قاری کا یا سامع کا دل تقویٰ کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت عقلی یا علمی دلائل سے ہٹ کر موضوع کا رخ اس سمت پھیرنا ضروری ہوتا ہے جس سے قاری یا سامع کا دل تقویت پائے اور تقویٰ میں ترقی ہو اور دلائل کے سمجھنے نتیجہ میں صرف مبہوت اور لا جواب ہو کر نہ رہ جائے اور عبادت الہی کے لیے اس لیے راضی نہ ہو کہ اگر نہ کی تو لوگوں کو کیا جواب دوں گا بلکہ ان مضامین کے بیان سے کتاب کے نزول کا مقصد اعلیٰ حاصل ہو یعنی تقویٰ کے حصول کے لیے راہ ہموار ہو اور قاری کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور بلا خوف لومۃ لائم صرف خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کی طرف توجہ کرے نہ کہ ماحول کے مطابق رویہ اختیار کرے۔ اس موقع پر کسی بات کو دہرا کر اور نئے نئے انداز میں بیان کرنا یا عفو و درگزر کی کسی مثال کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ کی رحیمیت کی سے قاری اور سامع کے دل کو گداز کرنا یا کسی عبرت آموز واقعہ کے بیان کے بعد خدا تعالیٰ کے کبر و جبروت کی طرف اس انداز میں توجہ دلانا کہ پیت خداوندی کے ساتھ ساتھ محبت الہی بھی دلوں کو گرمائے، تاکہ منافقت کی جڑ مٹ جائے، تقویٰ کا بیج دل میں بویا جائے اور ریا کاری کی بجائے اخلاص اور محبت سے روح آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہنے لگے۔ یا پھر ایک تاریخی واقعہ سے خدا تعالیٰ کی متعلقہ صفات کی طرف قاری کی توجہ مبذول کرنا ہی دراصل کلام الہی کا اندرونی ربط ہوگا اور اس ربط کو چھوڑنا، مقصد اعلیٰ سے دُور ہونے کے برابر ہوگا۔ پس ایسے موقع پر ایک ظاہری ربط سے ہٹنا ہی دراصل کلام کو مربوط رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک خشک ملاً اس موقع پر مقصد اعلیٰ کی طرف نظر کیے بنا ہی اعتراض کر دے گا لیکن ایک ایسا قاری جو کتاب کے مقصد سے واقف ہے، عیش عیش کر اٹھے گا۔

قرآن کریم کے اس اسلوب بیان کو فلپ کے حتی بھی سمجھتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

All these narratives are used didactically, not for the object of telling a story but to preach a moral, to teach that God in former times has always rewarded the righteous and punished the wicked

(History of Arabs Pg: 125)

قرآن کریم کا سارا بیان ایک درس کی صورت میں ہے جس کا مقصد محض قصہ گوئی نہیں بلکہ اخلاقیات کی تعلیم دینا اور یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ہمیشہ نوازتا اور بُروں کو سزا دیا کرتا ہے۔

قرآن کریم کا اسلوب بیان عام طرز پر نہیں ہے

جب کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو اپنے مبلغ علم کے مطابق اس کے عناوین مرتب کرتا ہے اور اپنے محدود علم کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان عناوین کے تحت ایک ترتیب کے ساتھ مضمون کی جزئیات بیان کرتا ہے۔ قاری کو مصنف کے ایک عنوان کے تحت ملتے جلتے مضامین کو ذہن نشین کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی اور وہ اس کی ترتیب کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ تجزیہ بھی کرتا جاتا ہے کہ مصنف نے مضامین کو بہترین رنگ میں

بیان کیا ہے یا مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔

قرآن کریم کے الہی کلام ہونے کی وجہ سے اس کا انداز اور اسلوب بیان عام کتب جیسا نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا مبلغ علم عام مصنفین کی طرح محدود تو نہیں ہے۔ اس لیے کتاب الہی میں جب کوئی بھی مضمون بیان ہو تو وہ انسانی علم کی طرح محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ غیر محدود و سرچشمہ علم سے پھوٹنے کی وجہ سے گہرائی اور وسعت میں انسانی علم سے وسیع تر، جامع اور کامل ہونا چاہیے۔ پس بنی نوع انسانی کی راہنمائی کے لیے نازل ہونے والی خدا تعالیٰ کی کتاب میں اگر تمام ضروری مضامین کو الگ الگ بیان کیا جائے تو تمام مضامین پر مشتمل یہ کتاب بھی غیر محدود و ضخامت کی حامل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ (الکہف: 110)

ترجمہ: کہہ دے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائیں تو سمندر ضرور ختم ہو جائیں گے پیشتر اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں خواہ ہم بطور مدد اس جیسے اور (سمندر) لے آئیں۔

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

اور اس میں سر یہ ہے کہ جو چیز غیر محدود قدرت سے وجود پذیر ہوئی ہے اُس میں غیر محدود عجائبات اور خواص کا پیدا ہونا ایک لازمی اور ضروری امر ہے اور یہ آیت کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اپنے ایک معنی کی رو سے اسی امر کی مؤید ہے۔

(کرامات الصادقین روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 60)

پس جب خدا تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کے معارف غیر محدود ہیں تو اگر یہ معارف عام اسلوب اور دستور تحریر پر بیان کیے جاتے تو ہزار ہا جلدوں کی کتاب درکار تھی۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ محدود قوی رکھنے والے بنی نوع کے لیے ایسی غیر محدود کتاب تو فائدہ مند نہیں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ ہزار ہا اجزا کی کتاب کو سنبھالنا کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی گنجائش کہ اسے پڑھا سمجھا اور حفظ کیا جاتا۔ پس خدا تعالیٰ کی کتاب کی تقسیم و ترتیب اور اسلوب بیان عام انسانی اسلوب بیان سے لازماً مختلف اور وسیع تر ہونا چاہیے۔ چنانچہ غیر محدود علوم کے بیان کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسا انداز اپنایا جو کہ ایک عام انسان کی علمی، جسمانی اور روحانی استعدادوں کے مطابق بھی ہے اور غیر محدود علوم کو سمیٹے ہوئے بھی ہے تاکہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا نزول قرآن سے لے

کر قیامت تک اسے ہر زمانہ اور ہر علاقہ اور ہر معاشرہ کے لیے ہر وقت مفید پائے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں عام انسانی کتب کی طرح نہیں بلکہ اپنی قدرت کاملہ سے محدود الفاظ میں تمام ضروری مضامین اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ ایسے معجزانہ اُسلوب میں بیان فرمادیے ہیں کہ ہر زمانہ کا انسان اپنے دور کی ضروریات اور علوم کے مطابق ہدایت اخذ کرتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف انداز میں بیان کرتا ہے۔ مثلاً:

لَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِجَى كِتَابٍ مُّبِينٍ (الانعام: 60)

ترجمہ: کوئی تر یا خشک چیز نہیں مگر (اس کا ذکر) اس روشن کتاب میں ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (النحل: 90)

ترجمہ: اور ہم نے تیری طرف ایسی کامل کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ہر چند میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن اپنی تعلیم میں کامل ہے اور کوئی صداقت اس سے باہر نہیں کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ یعنی ہم نے تیرے پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر ایک چیز کا بیان ہے اور پھر فرماتا ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [الانعام: 39] یعنی ہم نے اس کتاب سے کوئی چیز باہر نہیں رکھی۔

(الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد جلد 4 صفحہ 81، 80)

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

اور پھر وہ معارف عالیہ ناقص اور ناقص طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ کماؤ کیفاً کامل درجہ پر واقعہ ہیں اور کسی عاقل کی عقل کوئی ایسی دینی صداقت پیش نہیں کر سکتی جو ان سے باہر رہ گئی ہو اور کسی باطل پرست کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا ازالہ اس کلام میں موجود نہ ہو۔ ان تمام حقائق و دقائق کے التزام سے کہ جو دوسری طرف ضرورت حقہ کے التزام کے ساتھ وابستہ ہیں فصاحت بلاغت کے ان اعلیٰ کمالات کو ادا کرنا جن پر زیادت متصور نہ ہو۔ یہ تو نہایت بڑا کام ہے کہ جو بشری طاقتوں سے بہ بد اہت نظر بلند تر ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم حاشیہ نمبر گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 399 ایڈیشن اول صفحہ 335)

مگر یہ بیان اسی وقت کھلتا ہے جب اس کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (الحجر: 22)

ترجمہ: اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق

ہی نازل کرتے ہیں۔

پس ہر ایک زمانہ کی ضرورت کے تمام مضامین قرآن کریم کی آیات میں اپنی اپنی ترتیب کے مطابق ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہوتے ہیں۔ مضامین کے غیر محدود ہونے کی وجہ سے ان کی ترتیب کا تنوع بھی غیر محدود ہے۔ یہ قرآنی مضامین حسب حالات اور حسب موقع گہری نظر سے مطالعہ کرنے پر ہی منکشف ہوتے ہیں اور سرسری مطالعہ کرنے والے کو نصیب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بار بار مطالعہ کرنے سے وہ مضامین بھی منکشف ہوتے ہیں جو ایک بار مطالعہ کرنے سے نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ پھر ایک خاص نکتہ نظر سے مطالعہ کیا جائے یا کسی خاص مضمون پر توجہ مرکوز ہو تو دوسرے مضامین نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ چونکہ اس کتاب کا منبع ایک غیر محدود سرچشمہ علم ہے اس لیے جتنا بھی مطالعہ کیا جائے، محدود قوی اور محدود علم کے انسان کے لیے ہر بار اس میں نئے سے نئے علوم کی طرف راہنمائی ہوگی اور ہر شخص اس سے بقدر استطاعت فائدہ تو اٹھا سکتا ہے مگر آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ضروری مضمون قرآن کریم میں بیان نہیں ہے۔

قرآن کریم مضمون کو اس کی طبعی ترتیب سے بیان فرماتا ہے

قرآن کریم اپنے بیان میں اول سے آخر تک مضمون کو اس کی طبعی ترتیب سے بیان کرتا ہے۔ چنانچہ پہلی ہی سورت، سورۃ الفاتحہ سے ہی یہ ترتیب ملتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ . اس جگہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفتیں بیان فرمائیں۔ یعنی رب العالمین۔ رحمان۔ رحیم۔ مالک یوم الدین اور ان ہر چہار صفتوں میں سے رب العالمین کو سب سے مقدم رکھا اور پھر بعد اس کے صفت رحمان کو ذکر کیا۔ پھر صفت رحیم کو بیان فرمایا۔ پھر سب کے اخیر صفت مالک یوم الدین کو لائے۔ پس سمجھنا چاہیے کہ یہ ترتیب خدائے تعالیٰ نے کیوں اختیار کی؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان صفات اربعہ کی ترتیب طبعی یہی ہے اور اپنی واقعی صورت میں اسی ترتیب سے یہ صفتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔

(براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 444 حاشیہ نمبر 11)

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المسیح موعود رضی اللہ عنہ اس بارہ میں فرماتے ہیں:

درحقیقت قرآنی مضامین کی ترتیب عام کتب کی ترتیب کے مطابق نہیں بلکہ طبعی ترتیب ہے وہ اپنے مضامین میں جو ترتیب رکھتا ہے وہ اس ترتیب سے علیحدہ ہے جو انسان اپنی کتابوں میں رکھتے ہیں۔ قرآن کریم اس چیز کو جو سب سے پہلے بیان ہونی ضروری ہو بیان کرتا ہے اور پھر اس

کے متعلق انسانی قلب میں پیدا ہونے والے تمام وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے۔ مثلاً جنگ ہے اس کے متعلق جو سوال پیدا ہونگے ان کو بیان کریگا پھر ان سے جو سوال پیدا ہوگا وہ بیان کرتا چلا جائیگا اور چونکہ ایسے سوالات طبعی ہوتے ہیں اس لیے ان کے جوابات کا قلوب پر خاص اثر پڑتا ہے اسی طبعی ترتیب سے اس جگہ بھی کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کا ذکر کر دیا جو جنگ سے براہ راست تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں اور جب جوئے سے اخراجات جنگ پورے کرنے کے طریق سے روک دیا تو طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ اخراجات کس طرح پورے ہونگے اس کے لیے بتایا کہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد جو رقم بچ رہے وہ خرچ کرنی چاہیے پھر ایک ہی لفظ عفو استعمال کر کے اس میں مختلف مدارج کا ذکر کر کے بتایا کہ دنیٰ درجہ کون سا ہے اور اعلیٰ درجہ کونسا۔ اس کے بعد تینامی کے حقوق کو لے لیا۔ کیونکہ جنگ کے بعد لازماً اس سوال نے اہمیت اختیار کر لینی تھی۔ غرض قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ اس نے اپنے مضامین میں ایک ایسی اعلیٰ درجہ کی ترتیب رکھی ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے ادھر ایک سوال فطرت انسانی میں پیدا ہوتا ہے اور ادھر قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے۔

(تفسیر کبیر جلد دوزیر آیت البقرة: 222 صفحہ 499)

نظام ترتیب قرآن، قوانین قدرت کے مطابق ہے

اسی طرح قرآن کریم کے مضامین کی ایک ترتیب قوانین قدرت کے مطابق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کی اس قسم کی ترتیب کے بارہ میں ان الفاظ میں راہنمائی عطا فرماتے ہیں:

قرآن کریم اخلاقی تعلیم میں قانون قدرت کے قدم بہ قدم چلا ہے۔ رحم کی جگہ جہاں تک قانون قدرت اجازت دیتا ہے رحم ہے اور قہر اور سزا کی جگہ اسی اصول کے لحاظ سے قہر اور سزا اور اپنی اندرونی اور بیرونی تعلیم میں ہر ایک پہلو سے کامل ہے اور اس کی تعلیمات نہایت درجہ کے اعتدال پر واقعہ ہیں جو انسانیت کے سارے درخت کی آبپاشی کرتی ہیں نہ کسی ایک شاخ کی۔ اور تمام قوی کی مربی ہیں نہ کسی ایک قوت کی اور درحقیقت اسی اعتدال اور موزونیت کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا ہے۔ كِتَابًا مُتَشَابِهًا (النور: 24) پھر بعد اس کے مَثَانِي کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات معقولی اور روحانی دونوں طور کی روشنی اپنے اندر رکھتی ہیں۔

(کرامات الصادقین۔ روحانی خزائن۔ جلد 7 صفحہ 58-59)

حضرت مرزا بشیر احمد صاحبؒ اس نظام ترتیب کے بارہ میں بیان کرتے ہیں:

قرآن شریف جو خدا کا قول ہے اس میں اسی قسم کا اصول ترتیب مد نظر رکھا گیا ہے جو خدا کے فعل یعنی صحیفہ قدرت میں پایا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح اس جسمانی عالم میں دنیا کی مادی زندگی اور ترقی و بہبودی کے سامان مہیا کیے جا کر اس میں ترتیب رکھی گئی ہے اسی طرح کی خدا کے قول یعنی قرآن شریف میں ایک ترتیب ہے جو علم النفس کے ان ابدی اصول کے ماتحت قائم کی گئی ہے جو دنیا کی اخلاقی اور تمدنی اور روحانی زندگی اور اصلاح و ترقی کے لیے بہترین اثر رکھتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ جس طرح بعض لوگوں کو اس عالم جسمانی میں کوئی ترتیب نظر نہیں آتی اس طرح روحانی بینائی سے محروم لوگوں کو قرآنی ترتیب بھی نظر نہیں آتی۔ مگر جو لوگ گہرے مطالعہ کے عادی ہیں اور روحانی کلام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر ضروری بینائی اور تقدس و طہارت رکھتے ہیں وہ اس ترتیب کو علی قدر مراتب سمجھتے اور اس کے اثر کو اپنے نفوس میں محسوس کرتے ہیں۔

(سیرۃ خاتم النبیین حصہ دوم زیر عنوان ترتیب قرآن صفحہ 535)

ترتیب قرآن عالم جسمانی اور عالم روحانی کے مطابق ہے

قرآن کریم کی ترتیب عالم جسمانی کی ترتیب کے مشابہ بھی ہے۔ جس طرح اس عالم رنگ و بو میں ایک عجیب حسن اور توازن پایا جاتا ہے جو دیدہ بینا کی طراوت کا سامان مہیا کرتا ہے اسی طرح قرآن کریم میں بھی غیر معمولی حسن ہے جو اس جہان پر غور کرنے والوں پر ہر زمانہ میں گھلتا رہا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ عالم جسمانی اسی خالق کا فعل ہے قرآن کریم جس کا قول ہے۔ پس قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے اور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. اس جگہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفتیں بیان فرمائیں۔ یعنی رب العالمین۔ رحمان۔ رحیم۔ مالک یوم الدین اور ان ہر چہار صفتوں میں سے رب العالمین کو سب سے مقدم رکھا اور پھر بعد اس کے صفت رحمان کو ذکر کیا۔ پھر صفت رحیم کو بیان فرمایا۔ پھر سب کے اخیر صفت مالک یوم الدین کو لائے۔ پس سمجھنا چاہیے کہ یہ ترتیب خدائے تعالیٰ نے کیوں اختیار کی؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان صفات اربعہ کی ترتیب طبعی یہی ہے اور اپنی واقعی صورت میں اسی ترتیب سے یہ صفتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔.... اور کمال بلاغت اسی کا نام ہے کہ جو صحیفہ فطرت میں ترتیب ہو۔ وہی ترتیب صحیفہ الہام

میں بھی ملحوظ رہے۔... کلام بلیغ کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ نظام کلام کا نظام طبعی کے ایسا مطابق ہو کہ گویا اسی کی عکسی تصویر ہو اور جو امر طبعاً اور وقوعاً مقدم ہو اس کو وضعاً بھی مقدم رکھا جائے۔ سو آیت موصوفہ میں یہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے کہ باوجود کمال فصاحت اور خوش بیانی کے واقعی ترتیب کا نقشہ کھینچ کر دکھلا دیا ہے اور وہی طرز بیان اختیار کی ہے جو کہ ہر ایک صاحب نظر کو نظام عالم میں بدیہی طور پر نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ نہایت سیدھا راستہ نہیں ہے کہ جس ترتیب سے نعماء الہی صحیفہ فطرت میں واقعہ ہیں۔ اسی ترتیب سے صحیفہ الہام میں بھی واقعہ ہوں۔ سو ایسی عمدہ اور پر حکمت ترتیب پر اعتراض کرنا حقیقت میں انہیں اندھوں کا کام ہے جن کی بصیرت اور بصارت دونوں یکبارگی جاتی رہی ہیں۔

(براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 444 حاشیہ نمبر 11)

ایک کوتاہ بین معترض کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا کہ زمین پر کہیں پہاڑ ہیں کہیں میدان، کہیں سبزہ زار ہیں اور کہیں ریگزار؟ مگر علوم ارضیات کے ماہر تحقیقات کے بعد اس زمین پر جاری نظام کی کامل ترتیب اور توازن کے قائل ہیں۔ یہی حال باقی کائنات کا ہے۔ ایک ناواقف کے نزدیک ستاروں وغیرہ میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ مگر astronomy والے ان ستاروں کے نظام کے توازن کے بارے میں ایسے ایسے حقائق آشکار کر چکے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا کامل اور مکمل اور بار بار نظام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کے بیان فرمودہ تخلیق عالم جسمانی کے مراحل کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عالم جسمانی اور عالم روحانی خدا تعالیٰ کی تخلیق ہے اور ان میں کامل تطابق ہے اسی طرح قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی عالم جسمانی اور عالم روحانی کے مراتب سے عین مطابق ہے۔ کیونکہ قرآن کریم خدا کا قول ہے اور عالم جسمانی اور عالم روحانی خدا کا فعل ہیں اور خدا کے قول و فعل میں تطابق ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تخلیق کائنات کے چھ مراحل اور انسان کی جسمانی تخلیق کے چھ مراحل کو وضاحت سے بیان فرما کر ان کی روحانی تخلیق کے چھ مراحل سے مطابقت کی وضاحت فرماتے ہیں۔ (آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 172 تا 211 حاشیہ در حاشیہ) اور پھر یہ ثابت فرماتے ہیں کہ کلام الہی بھی اسی نظام ترتیب پر مشتمل ہے۔ گویا ایک جسمانی عالم ہے اور ایک روحانی عالم ہے اور ایک عالم کلام الہی ہے اور ان کا نظام ترتیب ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں:

دیکھو خدا تعالیٰ کے نظام شمسی میں کیسی ترتیب پائی جاتی ہے اور خود انسان کی جسمانی ہیكل کیسی ابلغ اور احسن ترتیب پر مشتمل ہے پھر کس قدر بے ادبی ہوگی اگر اس احسن الخالقین کے کلمات پر حکمت کو پراگندہ اور غیر منتظم اور بے ترتیب خیال کیا جائے۔

(تزیین القلوب۔ روحانی خزائن۔ جلد 15 صفحہ 456-457 حاشیہ)

قرآن کریم کی ترتیب بیان باعتبار ظاہر

ترتیب کے ضمن میں ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم واقعات اور مضامین کو ان کی ظاہری ترتیب سے بیان نہیں کرتا۔ ابن وراق بھی خوب نمک مرچ لگا کر یہ اعتراض بیان کرتا ہے۔ مضامین کی ترتیب کے بارہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک غیر معمولی حسن ترتیب ہے۔ ظاہری ترتیب کی ایک اور مثال درج کی جاتی ہے: حضرت مسیح موعود علیہ السلام تقویٰ کے قرآن کریم کی علت غائی ہونے کی وضاحت فرماتے ہوئے قرآن کریم کی ترتیب بیان فرماتے ہیں:

پھر دیکھو کہ تقویٰ ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو ٹھہرایا ہے چنانچہ دوسری سورۃ کو جب شروع کیا ہے تو یوں ہی فرمایا ہے: **الْمَ ذَلِكْ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** (البقرہ: 3-2) میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں علل اربعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ علت فاعلی، مادی، صوری، غائی۔ ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چار ہی علل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نہایت اکمل طور پر ان کو دکھاتا ہے۔ آلم اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے۔ اس کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یعنی خدا اس کا فاعل ہے۔ **ذَلِكْ الْكِتَابُ** یہ مادہ بتایا۔ یا یہ کہو کہ یہ علت مادی ہے۔ علت صوری **لَا رَيْبَ فِيهِ** ہر ایک چیز میں شک و شبہ اور ظنون فاسدہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ **لَا رَيْبَ** اسی کے لیے ہے۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی ہے کہ **لَا رَيْبَ فِيهِ**۔ تو ہر ایک سلیم الفطرت اور سعادت مند انسان کی روح اچھلے گی اور خواہش کرے گی کہ اس کی ہدایتوں پر عمل کرے۔

(ملفوظات جلد اول صفحہ 282)

اب دنیا کی کوئی مذہبی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس خوبصورتی اور جامعیت سے اپنا مقصد بیان نہیں کرتی۔

واقعات کے بیان میں تاریخ کے اعتبار سے ترتیب نہ ہونے کے بارہ میں بھی اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اب یہ اعتراض وہی شخص کرے گا جو دعویٰ خواہ کچھ بھی کرتا ہو مگر قرآن کریم کے بارہ میں یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ مگر پھر بھی قرآن کریم کا غیر معمولی اعجاز ہے کہ ترتیب مضمون کو بھی نہیں چھوڑتا اور واقعات کو بھی ان کی ظاہری ترتیب کے لحاظ سے مضمون میں پروتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سلسلہ میں راہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یاد رہے کہ عام محاورہ قرآن کریم کا ہے اور صد ہا نظیریں اس کی اس پاک کلام میں موجود ہیں کہ ایک دنیا کے قصہ کے ساتھ آخرت کا قصہ پیوند کیا جاتا ہے اور ہر ایک حصہ کلام کا اپنے قرآن سے

دوسرے حصہ سے تمیز رکھتا ہے اس طرز سے سارا قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں شق القمر کے معجزہ کو ہی دیکھو کہ وہ ایک نشان تھا لیکن ساتھ اس کے قیامت کا قصہ چھیڑ دیا گیا۔ جس کی وجہ سے بعض نادان قرینوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ شق القمر وقوع میں نہیں آیا بلکہ قیامت کو ہوگا۔ (شہادت القرآن۔ روحانی خزائن۔ جلد 6 صفحہ 311 حاشیہ)

مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ قرآن کریم واقعات کی تاریخی ترتیب کو مد نظر رکھتا ہی نہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام فرماتے ہیں:

اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس بات پر دلیل کیا ہے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک ظاہری ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ بجز دو چار مقام کے جو بطور شاذ و نادر ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ خود قرآن شریف پر ایک نظر ڈال کر حل ہو سکتا ہے۔ یعنی اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ اگر تمام قرآن اول سے آخر تک پڑھا جاؤ تو بجز چند مقامات کے جو بطور شاذ و نادر کے ہیں۔ باقی تمام قرآنی مقامات کو ظاہری ترتیب کی ایک زرین زنجیر میں منسلک پاؤ گے اور جس طرح اس حکیم کے افعال میں ترتیب مشہود ہو رہی ہے یہی ترتیب اس کے اقوال میں دیکھو گے اور یہ اس بات پر کہ قرآن ظاہری ترتیب کو ملحوظ رکھتا ہے ایسی پختہ اور بدیہی اور نہایت قوی دلیل ہے کہ اس دلیل کو سمجھ کر اور دیکھ کر بھی پھر مخالفت سے زبان کو بند نہ رکھنا صریح بے ایمانی اور بددیانتی ہے۔ اگر ہم اس دلیل کو مبسوط طور پر اس جگہ لکھیں تو گویا تمام قرآن شریف کو اس جگہ درج کرنا ہوگا اور اس مختصر رسالہ میں یہ گنجائش نہیں۔ (تریاق القلوب: روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 456 حاشیہ)

اور جہاں قرآن کریم میں دو چار مقامات پر واقعات کی ظاہری ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا گیا تو وہاں بھی بلاوجہ نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد اور گہری حکمت کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

یہ تو ہم قبول کرتے ہیں شاذ و نادر کے طور پر قرآن شریف میں ایک دو مقام ایسے بھی ہیں کہ جن میں مثلاً عیسیٰ پہلے آیا اور موسیٰ بعد میں آیا۔ یا کوئی اور نبی متاخر جو پیچھے آنے والا تھا اس کا نام پہلے بیان کیا گیا اور جو پہلا تھا وہ پیچھے بیان کیا گیا۔ لیکن یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چند مقامات بھی خالی از ترتیب ہیں۔ بلکہ ان میں بھی ایک معنوی ترتیب ہے جو بیان کرنے کے سلسلہ میں بعض مصالح کی وجہ سے پیش آگئی ہے۔ لیکن اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ قرآن کریم ظاہری ترتیب کا اشد التزام رکھتا ہے اور ایک بڑا حصہ قرآنی فصاحت اسی سے متعلق ہے۔ (تریاق القلوب: روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 456 حاشیہ)

چنانچہ یہ معنوی ترتیب اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو ایک جا جمع کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے یحییٰ علیہ

السلام کی پیدائش خوارق طریق سے ہے ویسے ہی مسیح کی بھی ہے پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان کر کے مسیح کی پیدائش کا حال بیان کیا ہے۔ یہ ترتیب قرآنی بھی بتلاتی ہے کہ ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی کی ہے۔ یعنی جس قدر معجز نامائی کی قوت یحییٰ کی پیدائش میں ہے اس سے بڑھ کر مسیح کی پیدائش میں ہے۔ اگر اس میں کوئی معجزانہ بات نہ تھی تو یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کر کے کیوں ساتھ ہی مریم کا ذکر چھیڑ دیا اس سے کیا فائدہ تھا یہ اسی لیے کیا کہ تاویل کی گنجائش نہ رہے ان دونوں بیانون کا ایک جاذب ہونا اعجازی امر کو ثابت کرتے ہیں۔ (ملفوظات جلد سوم صفحہ 281-280)

قرآن کریم کی سورتوں میں مضامین کا ایک نظام ترتیب مقطعات کے حوالہ سے بھی ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ایک جیسے مقطعات والی سورتیں ایک ترتیب سے ہیں نیز یہ کہ ایک جیسے مقطعات والی سورتوں کے مضامین بھی ایک جیسے ہی ہیں۔ جب حروف مقطعات تبدیل ہوتے ہیں تو مضمون بھی بدل جاتا ہے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحبؒ نے سورۃ الفاتحہ کا باقی تمام سورتوں سے یہ تعلق بیان فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ بھی انہی حروف پر مشتمل ہے جو کہ مقطعات کی صورت میں قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اس لحاظ سے سورۃ الفاتحہ کا مقطعات کے تحت آنے والی سورتوں کے مضامین سے گہرا تعلق ہے۔

اب تک درج کی گئی مثالوں سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ قرآن کریم کی ترتیب میں بہت تنوع ہے اور بہت سے مختلف مضامین کے لحاظ سے آیات اور سورتیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت سی ترتیبیں اپنے اپنے انداز میں عام فہم اور آسانی سے سمجھ میں آئی والی ہیں اور ایک حیرت انگیز رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں۔

قرآن کریم کیونکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یکساں طور پر ہدایت دینے کے لیے نازل کیا گیا ہے اس لیے بحث کا ایسا طریقہ اختیار کرنا لازمی تھا کہ ہر قاری اپنے اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق فائدہ اٹھائے اور ایسا نہ ہو کہ ایک انسان تو فائدہ اٹھا رہا ہو، اور دوسرا پڑھتے ہوئے عدم دلچسپی کا شکار ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کا یہ بھی ایک خاص انداز ہے کہ کسی صداقت کے بیان کرتے وقت عام لکھنے والوں کی طرح بحث نہیں کرتا بلکہ متعلقہ مضامین کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ گویا ایک گلدستہ ہے مضامین کا۔ گلدستے میں ہر پھول جس کا اپنا ایک انفرادی اور جداگانہ حسن اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے، باقی پھولوں کے ساتھ مل کر الگ ہی نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہی حال قرآنی آیات کا ہے۔ مختلف آیات مل کر ایک مضمون کی وضاحت کرتی ہیں، اور ان کا جداگانہ حسن بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ جب قاری ان سب آیات کے مطالعہ کے بعد آخر پر پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک گلدستہ کی طرح اس صداقت کی ایک واضح تصویر بن چکی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مضامین بھی علم میں آتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری ہستی اس مضمون کو بیان کر رہی ہوتی تو ہرگز یہ زائد مضامین علم میں نہ آتے نیز ہر آیت اپنی جگہ الگ مضمون بھی بیان

کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے ذہن جو کہ مناظرانہ طرز پر کلام سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے دلائل کا ایک انبار موجود ہوتا ہے اور جو ذہن اس طریق سے ہٹ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہانی کی طرح حقائق جانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عالم شخص اپنے انداز میں اسے پڑھتا ہے اور ایک بچہ بھی اس سے محفوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اگر قاری اس کو آخر تک نہ بھی پڑھے تو بھی ذہن میں کوئی تشنگی نہیں رہتی کہ اب تک جو پڑھا وہ نامکمل بحث تھی۔ بلکہ جس آیت پر بھی ختم کرتا ہے وہاں تک ایک مکمل مضمون اس کے ذہن میں بیٹھ چکا ہوتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

قرآن شریف نے تائید دین میں اور علوم سے بھی اعجازی طور پر خدمت لی ہے اور منطق اور طبعی اور فلسفہ اور ہیئت اور علم نفس اور طبابت اور علم ہندسہ اور علم بلاغت و فصاحت وغیرہ علوم کے وسائل سے علم دین کا سمجھانا اور ذہن نشین کرنا یا اس کا تفہیم درجہ بدرجہ آسان کر دینا یا اس پر کوئی برہان قائم کرنا یا اس سے کسی نادان کا اعتراض اٹھانا مد نظر رکھا ہے غرض طفلی طور پر یہ سب علوم خدمت دین کے لیے بطور خارق عادت قرآن شریف میں اس عجیب طرز سے بھرے ہوئے ہیں جن سے ہر ایک درجہ کا ذہن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ (سرمہ چشم آریہ۔ روحانی خزائن۔ جلد 2 صفحہ 75 حاشیہ)

قرآن کریم کی ترتیب کے تنوع پر غور کرتے ہوئے مختلف مفسرین نے مختلف ترتیبیں بیان کی ہیں اور وہ سب ہی اپنی اپنی جگہ خوب ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے آیات اور سورتوں کی لطیف ترتیب بیان کرتے جاتے ہیں۔ گزشتہ سطور میں آپ کے بیان فرمودہ قرآن کریم کے دستور بیان سے چند نکات معرفت درج کیے گئے ہیں۔ خلیفۃ المسیح الثانی نے اپنی مشہور زمانہ ”تفسیر کبیر“ میں جا بجا قرآن کریم کی آیات کی ترتیب اور سورتوں کے مابین ربط کی وضاحت کی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ القرآن میں سورتوں کے تعارفی نوٹوں میں سورتوں کی باہمی ترتیب کی وضاحت کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات اور سورتوں میں ربط اور تسلسل ہے اور اس میں بہت تنوع ہے۔ مختلف انداز سے قرآن کریم کی آیات اور سورتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں اور ان کے مختلف مضامین کے آپس میں ایک سے زیادہ تعلق ہیں۔ مختلف مضامین کے لحاظ سے اگر ان دونوں جلیل القدر حضرات کی بیان فرمودہ ترتیب قرآن ہی مکمل طور پر بیان کی جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے حسن ترتیب پر بے شمار معارف اور نکات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی عطا ہیں، سب کا درج کرنا ممکن بھی نہیں۔ آخر پر یہ ذکر کر کے اس ناپیدا کنار مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن کریم بسم اللہ کی ”ب“ سے لے کر الناس کی ”س“ تک مرتب اور بار بار کلام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

پس سورۃ فاتحہ میں ان تینوں دعاؤں کی تعلیم بطور براءت الاستہلال ہے یعنی وہ اہم مقصد جو

قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے سورۃ فاتحہ میں بطور اجمال اس کا افتتاح کیا ہے اور پھر سورۃ تبت اور سورۃ اخلاص اور دو سورۃ فلق اور سورۃ الناس میں ختم قرآن کے وقت میں انہی دونوں بلاؤں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ پس افتتاح کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں سے ہوا اور پھر اختتام کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا۔ (تحفہ گولڈویہ۔ روحانی خزائن۔ جلد 17 صفحہ 219-217)

قرآن کریم میں اعادہ و تکرار اور اس کا حقیقی فلسفہ

ابن وراق اپنی ناپیدائی کا رونا ان الفاظ میں بھی روتا ہے:

repetition of the same thyme word or rhyme phrase
in adjoining verses

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New
York, 1995, under heading; The Koran: Pg : 112)

ایک طرف تو قرآن کریم اپنے اسلوب بیان کے غیر معمولی اور بے مثل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف اس دعویٰ کی تائید میں ہر دور میں اہل علم، بلا تیز مذہب و عقیدہ قرآن کریم کے اس اسلوب بیان کے انتہائی درجہ مکمل اور اثر انگیز ہونے کی گواہی دیتے چلے آئے ہیں۔ پس کوئی عربی سے نابلد، تعصب کی آگ میں جلنے والا اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والا، یا کوئی مخمور شراب نوش اگر اس معجزانہ ترتیب اور خوبصورت اسلوب کو نہیں سمجھ سکا تو اس سے قرآن کریم پر کیا اثر پڑا؟

گزشتہ سطور میں یہ ذکر گزر چکا ہے کہ تعلیم اور تدریس ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم کے بیان میں ایک قسم کا اعادہ ہے۔ اس انداز کے اختیار کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر موضوع کو انسانی فطرت کے تنوع کے پیش نظر مختلف انداز میں بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر فطرت کا انسان اپنی قابلیت اور ذوق کے مطابق اس سے مستفید ہو سکے۔ ہر موقع کے مطابق انبیاء کے وقت کے حالات کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے تاکہ قرآن کریم کا اصل اور بنیادی موضوع یعنی خدائے واحد کی عبادت اور اس کی اصل غرض، ہر طور سے واضح اور راسخ ہو جائے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب اللہ کے مضامین میں تصریف اور اعادہ و تکرار کے حقیقی فلسفہ پر روشنی ڈالتے ہوئے عقل اور فطرت انسانی کی رو سے دلائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یہ تو احمقوں کی خشک منطق ہے جو کہتے ہیں کہ بار بار تکرار سے بلاغت جاتی رہتی ہے۔ وہ کہتے رہیں۔ قرآن شریف کی غرض تو بیمار کو اچھا کرنا ہے وہ تو ضرور ایک مریض کو بار بار دوا دے گا۔ اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں تو پھر ایسے معترض جب کوئی ان کے ہاں بیمار ہو جاوے تو بار بار دوا کیوں دیتے ہیں اور آپ کیوں بار بار دن رات تکرار میں اپنی غذا، لباس وغیرہ امور کا تکرار کرتے ہیں؟

پچھلے دنوں میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک انگریز نے محض اس وجہ سے خودکشی کر لی کہ بار بار وہی دن رات غذا مقرر ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔
(ملفوظات جلد چہارم صفحہ 457)

اعادہ کی ایک حکمت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مرزا البشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
قرآنی ترتیب کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے پہلے مضمون کو آخر میں پھر دہرا دیتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں گزشتہ بحث ختم ہوتی ہے۔ اور آئندہ نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔
(تفسیر کبیر جلد دوم تفسیر آیت البقرة: لن تمسنا النار الا ایاما معدودت)

ابن وراق قرآن کریم میں اعادہ و تکرار پر اعتراض کرتے ہوئے سورة الرحمن میں دہرائی جانے والی آیت
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (آیت: 14) کو خصوصیت سے پیش کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام
سورة الرحمن میں اس تکرار کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس قسم کا التزام اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ممتاز نشان ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ امر واقع ہوا ہے کہ موزوں کلام اسے جلد یاد ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا وَ لَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ (القمر: 23) یعنی بیشک ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن شریف کو آسان کر دیا ہے.....

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار توجہ دلانے کے واسطے ہے۔ اسی تکرار پر نہ جاؤ قرآن شریف میں اور بھی تکرار ہے۔ میں خود بھی تکرار کو اسی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ میری تحریروں کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس تکرار کو بکثرت پائے گا۔ حقیقت سے بے خبر انسان اس کو منافی بلاغت سمجھ لے گا اور کہے گا کہ یہ بھول کر لکھا ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پڑھنے والا پہلے جو کچھ لکھا ہے اسے بھول گیا ہو اس لیے بار بار یاد دلاتا ہوں تاکہ کسی مقام پر تو اس کی آنکھ کھلے۔
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

علاوہ بریں تکرار پر اعتراض ہی بے فائدہ ہے اس لیے کہ یہ بھی تو انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک بار بار ایک بات کو دہرائے نہیں وہ یاد نہیں ہوتی۔ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ بار بار کیوں کہلوا یا ایک بار ہی کافی تھا؟ نہیں۔ اس میں یہی سر ہے کہ کثرت تکرار اپنا ایک اثر ڈالتی ہے اور غافل سے غافل قوتوں میں بھی ایک بیداری پیدا کر دیتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَإِذْ كُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الانفال: 46)

یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔ جس طرح یہ ذہنی تعلق ہوتا ہے اور کثرت

تکرار ایک بات کو حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک روحانی تعلق بھی ہے اس میں بھی تکرار کی حاجت ہے۔ بدوں تکرار وہ روحانی پیوند اور رشتہ قائم نہیں رہتا..... حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں کہ وہ آخروجی ہو جاتی ہے۔ صوفی بھی اسی طرف گئے ہیں اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کے یہ معنی ہیں کہ اس قدر ذکر کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ کا نام کٹھ ہو جائے۔ انبیاء علیہم السلام کے طرز کلام میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ وہ ایک امر کو بار بار اور مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی اصل غرض یہی ہوتی ہے کہ تا مخلوق کو نفع پہنچے۔ میں خود دیکھتا ہوں اور میری کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اگر چار صفحے میری کسی کتاب کے دیکھے جاویں تو ان میں ایک ہی امر کا ذکر پچاس مرتبہ آئے گا اور میری غرض یہی ہوتی ہے کہ شاید پہلے مقام پر اس نے غور نہ کیا ہو اور یونہی سرسری طور سے گذر گیا ہو۔ (ملفوظات جلد چہارم صفحہ 455 تا 457)

اسی طرح اسالیب ادب کے اعتبار سے اس جگہ قرآن کریم حسن بیان کی اعلیٰ مثال پیش کر رہا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اسالیب حسن بیان کے اعتبار سے اہل ادب عربی نے کلام کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

1- الاسلوب العلمی 2- الاسلوب الادبی 3- الاسلوب الخطابی

سورۃ الرحمن میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو اسلوب خطابی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس اسلوب کے بارہ میں لکھا ہے:

من اظهر المميزات هذا الاسلوب، التكرار، واستعمال المترادفات، و

ضرب الامثال، و اختيار الكلمات الجزلة ذات الزين

(البلاغه الواضحه: 16)

یعنی اس اسلوب کی ممتاز خصوصیات میں تکرار، مترادفات کا استعمال اور ضرب الامثال،

پُر شوکت الفاظ، فقرات اور رقت آمیز کلمات کا استعمال شامل ہے۔

پس جہاں قرآن کریم اعلیٰ ترین اسالیب ادب استعمال کرتا ہے وہیں ان نام نہاد عربی سٹائل پہنچانے والے مستشرقین کی اصلیت مزید کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی میں لکھا اور حفظ کیا گیا حضرت ابو بکرؓ نے اندرونی اور بیرونی شہادتوں اور ہر قسم کی گواہی کے التزام کے ساتھ ایک مجلد شکل میں پیش کیا۔ اس کے نزول کی ترتیب انتہائی گہری حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعات اور حالات حاضرہ کے مطابق تھی جبکہ

جمع کیے جانے کی ترتیب خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں یہ ترتیب لگوائی جس میں صحابہؓ کے دور میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ ہی بعد میں کبھی بدلی گئی۔ نیز یہ کہ قرآن کریم باربطل کلام ہے۔ جس میں ہر لفظ دوسرے لفظ سے اور ہر آیت دوسری آیت سے اور ہر سورت دوسری سورت سے ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی معنوی ترتیب میں انسانی فطرت کے اختلاف کے پیش نظر بہت تنوع ہے۔

قرآن کریم کی اجزاء اور رکوعوں میں تقسیم

گزشتہ عنوان کے تحت صحیح بخاری کی یہ حدیث پیش کی گئی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنے کا حکم تو دیا مگر قرآن کریم کو تیس حصوں میں تقسیم نہ کیا گیا یہ تقسیم امت کی صوابدید پر چھوڑ دی۔ بعض کے نزدیک پاروں یا اجزاء میں قرآن کریم کی تقسیم کی بنیاد یہ حدیث ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں بھی تلاوت قرآن کا کم از کم ایک دور مکمل کرنا مستحب سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہ بہر حال ثابت ہے کہ آنحضرت نے قرآن کریم کو اجزاء یا پاروں میں تقسیم نہیں کیا تھا بلکہ یہ تقسیم امت کی کی ہوئی ہے۔

پاروں کی اس تقسیم میں فرق ہے۔ بعض عرب ممالک سے چھپنے والے قرآن کریم کے نسخوں میں مثلاً مصر سے چھپنے والے نسخہ جات میں ساتواں پارہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ مِنْ شَرْعِ هَاں چھپنے والے نسخوں میں اس آیت سے ایک آیت بعد وَاِذَا سَمِعُوا مِنْ شَرْعِ هَاں چھپنے والے نسخوں میں چودھواں پارہ الْمَرْءِ تِلْكَ مِنْ شَرْعِ هَاں چھپنے والے نسخہ جات میں رُبَّمَا يُؤُودُ الَّذِينَ مِنْ شَرْعِ هَاں چھپنے والے نسخوں میں انیسویں اور چھبیسویں کے شروع میں فرق ہے مگر اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے۔ یہ صرف اس تقسیم کا فرق ہے جو کہ الہامی نہیں بلکہ صحابہؓ نے یا امت نے آسانی کی خاطر کی۔

رکوع کی تقسیم کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کجارج کے زمانہ میں ہوا۔ مگر بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ یہ تقسیم بھی حضرت عثمانؓ نے ہی کی تھی۔ (عرض الانوار: 45) بیان کیا جاتا ہے کہ پاروں کی تقسیم کی طرح نماز تراویح کے ہر رکوع میں ایک خاص حصہ قرآن پڑھنے کے لیے ایک تقسیم کی گئی اور اسے رکوع کا نام دیا گیا۔ لیلۃ القدر کے 27 رمضان تک متوقع ہونے کے لحاظ سے 27 رمضان تک تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے اور اس طرح قرآن کریم کو 20 رکعات روزانہ کے حساب سے 27 دنوں میں ختم کرنے کے لیے 540 رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ امام ابو عمرو عثمان الوانی، (متوفی 444ھ) جو اندلس کے کبار علما میں شمار ہوتے ہیں، کا خیال ہے کہ رکوعوں کی تقسیم کا کام بھی صحابہؓ کر چکے تھے۔

(تفسیر القرطبی جزو اول صفحہ 64 از ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی، متوفی

671ھ ناشر دار الکاتب العربیہ قاہرہ۔ طبع سوم۔ سن اشاعت 1967ء)

آیت رجم

کتب تاریخ میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک ایسی آیت تھی جس میں یہ حکم تھا کہ اگر بوڑھا اور بڑھیا زنا کریں تو انہیں رجم کر دیا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے زنا کی پاداش میں رجم کی سزا دی لیکن پھر یہ آیت لفظاً منسوخ ہو گئی اور قرآن کریم میں درج نہ کی گئی مگر معنوی طور پر منسوخ نہیں ہے۔ چنانچہ خلفاء راشدین نے بھی یہ سزا لاگورکھی۔ یہ روایات زیادہ تر حضرت عمرؓ کے حوالہ سے ملتی ہیں کہ آپ آیت رجم کو قرآن کریم میں درج کروانا چاہتے تھے مگر ایسا نہ کر سکے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے:

عن ابن عباسؓ قال قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله
(بخاری کتاب الحدود باب اعتراف بالزنا)

یعنی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہم رجم کے احکام قرآن کریم میں نہیں پاتے اور وہ اسے ترک کر دیں گے حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک فریضہ ہے۔

مستشرقین حفاظت قرآن پر اعتراض کرنے کی غرض سے آیت رجم کے بارہ میں روایات کو بڑی شد و مد کے ساتھ اچھالتے ہیں۔ چنانچہ ابن وراق اس معاملہ میں بھی اعتراض کا موقع ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ کہتا ہے:

There is a tradition from Aisha the Prophet's wife, that there once existed a 'verse of stoning' where stoning was prescribed as punishment for fornication, a verse that formed a part of the Koran but that is now lost. The early caliphs carried out such a punishment for adulterers, despite the fact that the Koran as we know it today, only prescribes a hundred lashes. It remains a puzzle __ if the story is not true __ why Islamic law to this day decrees stoning when the Koran only demands flogging. According to this tradition over a hundred verses are missing.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, The Koran: Pg 108-109)

آنحضور (ﷺ) کی زوجہ (محترمہ حضرت) عائشہؓ سے مروی ہے کہ کبھی ایک آیت رجم بھی ہو ا کرتی تھی جس میں زنا کی سزا رجم یعنی سنگساری مقرر تھی، ایک آیت جو قرآن کا حصہ تھی لیکن اب گم ہو چکی ہے۔ ابتدائی خلفاء نے زنا کاروں کے لیے اس قسم کی سزائیں تجویز کی تھیں،

باوجود اس کے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج قرآن میں صرف سو کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے۔ یہ بات ایک پہیلی بن کر رہ جاتی ہے جب ہم اس نہج سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ قصہ درست نہیں تو پھر کیوں آج بھی اسلامی قانون کے مطابق رجم کا ہی فتویٰ دیا جاتا ہے جبکہ قرآن تو صرف کوڑے مارنے کا کہتا ہے۔ اس روایت کے مطابق 100 سے زائد آیات گمشدہ ہیں۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ بالا اعتراض میں ابن وراق نے حضرت عائشہؓ سے مروی اس روایت کا تو ذکر کر دیا مگر جان بوجھ کر حضرت عمرؓ سے مروی اسی قسم کی دوسری روایات کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ کتب تاریخ میں رجم کے معاملہ میں زیادہ تر روایات حضرت عمرؓ کے حوالہ سے ملتی ہیں جو زیادہ مستند اور زیادہ معروف ہیں۔ ابن وراق کی اس حرکت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی طرف منسوب روایات کے مطالعہ سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ آپؓ کے نزدیک آیت رجم قرآن کریم کا حصہ نہیں تھی۔ ابن وراق چونکہ حضرت عائشہؓ کی روایت کو اپنے اعتراض کی بنیاد بناتا ہے اس لیے ہم پہلے اس روایت کا تجزیہ کرتے ہیں: کہتا ہے کہ ”نبی (ﷺ) کی زوجہ (محترمہ حضرت) عائشہؓ سے مروی ہے کہ کبھی ایک آیت رجم بھی ہوا کرتی تھی جس میں زنا کی سزا رجم یعنی سنگساری مقرر تھی“

حضرت عائشہؓ سے مروی روایت

عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير و لقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم و تشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها
(سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب رضاع الكبير)

یعنی حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رجم کی آیت اور بڑے شخص کی رضاعت کے بارہ میں آیت ایک صحیفہ میں میرے بستر کے نیچے پڑی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمیں آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروفیت کے باعث خیال نہ رہا اور پالتو بکری آئی اور وہ صحیفہ کھا گئی۔

اس ضمن میں عرض ہے کہ اول تو یہ بات ناممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہو اور آپ نے اس کی اشاعت نہ کی ہو۔ تدوین قرآن کے باب میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی تازہ وحی کے نزول کے ساتھ ہی کاتب کو بلا کر لکھواتے اور حفاظ کو حفظ کرواتے اور اس کی کثرت سے اشاعت ہوتی۔ کیسے ممکن ہے کہ رجم کی آیت نازل ہوئی ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اشاعت نہ کی ہو؟ صرف حضرت عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو اس کا علم ہو۔ حضرت عائشہؓ تو فرماتی ہیں:

من حدثك ان محمدا كتم شيئا مما انزل الله عليه فقد كذب. والله

يقول ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ... الآية

(بخاری کتاب تفسیر القرآن باب یاأیہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک)

یعنی جس نے تجھے کوئی ایسی حدیث سنائی کہ رسول کریمؐ نے وحی الہی میں سے کوئی آیت چھپا کر رکھی تھی تو وہ جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ... الآية“، یعنی اے رسولؐ جو کچھ تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے اسے آگے پہنچا دے۔

پس ایک طرف حضرت عائشہؓ یہ فتویٰ دے رہی ہوں جو مختلف سندوں اور ایک تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور علما کا اتفاق ہے کہ یہ فتویٰ حضرت عائشہؓ کا ہی ہے اور دوسری طرف ایک کمزور اور درجہ استناد سے گری ہوئی روایت پیش کی جا رہی ہو تو عقل سلیم کیا گواہی دیتی ہے کہ کون سی روایت درست تسلیم کی جائے؟ مغربی محققین تو حسب عادت اور اعتراض بنانے کے لیے حسب ضرورت کمزور روایت سے ہی سہارا لیں گے۔

اس قسم کی روایات کے بارہ میں علامہ زحشریؒ لکھتے ہیں:

و اما ما تحكى ان تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة

رضى الله عنها فاكتتها الداخن فمن تاليفات الملاحدة و الروافض

(تفسیر کشاف، الجزء الثالث مقدمہ تفسیر سورة الاحزاب)

یعنی یہ کہنا کہ قرآن کریم میں اضافہ تھا اور وہ اس صحیفہ میں تھا جو حضرت عائشہؓ کے گھر میں تھا جس کو بکری کھا گئی تو یہ تو ملاحظہ اور روافض کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔

علامہ آلوسی روح المعانی میں سورة الاحزاب کی تفسیر کے شروع میں لکھتے ہیں:

والحق ان من كل خبر ظاهره ضياع الشيء من القرآن الاموضوع او مؤول

(جز 20 صفحہ 15 تفسیر سورة الاحزاب۔ مکتبہ امدادیہ ملتان)

یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ خبر جس میں قرآن کریم میں کچھ آیات یا حصوں کا ضائع ہونا بیان

کیا گیا ہے وہ یا تو گھڑی گئی ہے یا پھر اپنی جگہ سے پھیر کر بیان کی گئی ہے۔

یہ روایت درایت کے اصولوں کے مطابق بھی غلط ہے کیونکہ اول تو کثرت سے اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر باصرار کہتے ہیں کہ انہیں رجم کے بارہ میں آیت لکھ دیں مگر آپؐ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ساتھ ہی کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ بیٹھے ہیں انہیں بھی نہیں لکھواتے (مسند احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث زید بن ثابت عن النبی ﷺ) اور خاموشی کے ساتھ جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھوا دیتے ہیں۔ اور پھر سالہا سال یہ آیت تکیہ کے نیچے پڑی رہتی ہے مگر متن قرآن میں درج نہیں فرماتے۔ کیا یہ فعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے؟

دوم یہ روایت اس لیے بھی قابل قبول نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے بعد تو حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں ایک جگہ ٹالگار ہوتا تھا کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات یہیں ہوئی تھی اور بعد از وفات جسد اطہر بھی یہیں رکھا گیا اور یہیں صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں حاضر ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے اور تدفین بھی یہیں عمل میں آئی۔ پس تجہیز و تکفین کے انتظامات کہیں اور تو نہیں ہو رہے تھے کہ ہزاروں صحابہ دوسرے علاقہ میں مصروف ہو گئے۔ صحابہؓ کے عشق و وفا کی مثالیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس وقت صحابہؓ نے آپ کے جسد اطہر کو اس طرح اکیلا چھوڑ دیا ہو کہ بکریاں وہاں چرتی پھریں۔ کیا اس عورت کا قصہ نہیں پڑھا کہ جب غزوہ احد کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شہادت کی افواہ مدینہ میں گردش کرنے لگی تو کیسے وہ گرتی پڑتی شہر سے باہر تک پہنچ گئی۔ اس کا بوڑھا باپ بچپن سے اس کا کفیل اور اس کا شوہر، جس کے سہارے زندگی کے دکھ کاٹے اور جس کے ساتھ عمر کے سمکھ دیکھے، اسی جنگ میں شرکت کرنے گئے تھے۔ اس کا بھائی، اس کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی طاقت، اسی جنگ میں شرکت کرنے گیا تھا۔ اس کے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا، اس کا جواں سال بیٹا اسی جنگ میں شرکت کرنے گیا تھا۔ کیا وہ ان کی تلاش میں گئی تھی؟ نہیں! وہ آنکھیں آنے والوں میں ایک ہی چہرہ تلاش کر رہی تھیں۔ ہر آنے والے سے پوچھتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر دو! ایک کہتا ہے کہ مائی تیرا باپ شہید ہو گیا، تڑپ کر بولی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سناؤ! اس نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، پھر وہی پکارا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر تو دے دو! کہنے والے نے پھر کہا کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا مگر اس خبر نے بھی جو اس کے خرمین امن کو جلا کر خاکستر کر دینے کے لیے کافی تھی، شمع نبوت کے پروانہ پر کوئی اثر نہ کیا اور وہی ایک التجا کہ کون جیا کون مرا اس سے مجھے سروکار نہیں۔ خدا را رسول خدا کی خیریت کی خبر تو دے دو! جب بتایا گیا کہ وہ بخیریت ہیں تو گویا ایک گونہ آگ سے باہر نکل آئی اور ایک ایسی راحت و تسکین کی لہر اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی کہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا: ”کل مصیبة بعدک جمل“ کہ آپ محفوظ ہیں تو مصائب آسان ہیں۔

(السيرة النبوية لابن هشام، الجزء الثالث صفحہ 31، دار التوفيق للطباعة بالازھر)

یہ تو صحابیاتؓ کی محبت کا حال تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات مبارک کو اتنا قریب سے اور اتنی کثرت سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا جتنا مرد صحابہ کو ملا تھا۔ صحابہؓ کے غم کا اندازہ لگائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کیا حال ہوگا۔ صحابہؓ پر تو فرط غم سے دیوانگی کی کیفیت طاری تھی۔ حضرت عمر کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو سکتے ہیں۔ آپؐ نے شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر یہ اعلان کر دیا کہ جس نے ایسا کوئی بھی لفظ منہ سے نکالا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حسان بن ثابت انصاریؓ کے اشعار بھی اسی

محبت کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ:

كنت السواد لناظري فعمى على الناظر
 کہ اے محمد ﷺ تو ہی تو میری آنکھوں کا نور تھا
 من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاضر
 اب تیرے بعد جو مرضی جیے یا مرے
 مجھے تو تیرے ہی جانے کا خطرہ تھا

(بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی و وفاته)

ایک طرف محبت اور فدائیت کے یہ بے نظیر نمونے اور دوسری جانب یہ حال ہے کہ نعرش مبارک پڑی ہے۔ ارد گرد کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں اور پالتو جانور آزادانہ جسد اطہر کے آس پاس گھوم رہے ہیں۔ کیا ایسا سوچا بھی جاسکتا ہے؟

گزشتہ صفحات میں بیان کی گئی ان تفصیلات کو ذرا ذہن میں دہرائیں کہ کلام الہی کی حفاظت کا وعدہ اُس خدائے قادر نے کس طرح پورا کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی توفیق سے حفاظت قرآن کے کس قدر عظیم الشان انتظامات فرمائے تھے کہ کوئی کمی بیشی کبھی راہ نہیں پاسکی۔ پھر آپؐ کی وفات کے بعد صحابہ کا کلام الہی کی حفاظت کے بارہ میں اختیار کیا گیا طرز عمل بھی گواہ ہے کہ حفاظت کا انتظام بے نظیر تھا۔ کیا صحابہؓ کے اس طرز عمل سے کوئی ایسا شائبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے مخالفتوں کے طوفان میں اپنے بوڑھے والدین، اپنے جواں سال بیٹوں، اپنی جوان بیویوں، اپنے معصوم بچوں کی جانوں کو قربان کر کے الہی امانت کی حفاظت کا فرض ادا کیا اور دنیا کو اس عدیم النظیر درجہ استناد کے ساتھ سپرد کیا کہ اور کسی کتاب کو یہ شاندار محافظت نصیب نہ ہوئی مگر یکا یک دنیا حیران رہ گئی کہ اس قدر بے نظیر نمونے دکھانے والی قوم کی تمام تر قربانیوں کو ایک بکری ضائع کر گئی؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم! ایں خیال است و محال است و جنوں!!!

پھر اس حوالہ سے بھی تو دیکھیں کہ کیا کلام الہی اس لیے اترتا ہے کہ بکری کھا جائے؟ ایک کلام جس کو تمام عالم کی ابدی راہنمائی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جس سے انسانیت کی نجات وابستہ کر دی گئی ہے، وہ بکری کے پیٹ میں چلا جائے؟ کیا وہ قادر و توانا خدا اپنے کلام کو ایک بکری سے نہیں بچا سکا؟ کیا اب بھی وہی خدا نہیں تھا جس نے ایک امی بے کس کی حفاظت کا وعدہ کیا اور پھر اسے ہزاروں مشکلات اور مصائب کی آندھیوں سے بچایا اور اس کے قتل کی بہت سی کوششوں کو ناکام بنایا؟ جس نے کمزوری اور کسمپرسی کی حالت میں عظیم الشان فتوحات کا وعدہ کیا اور پھر ہر وعدہ پورا کیا اور اس شان کی فتوحات سے نوازا کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پس اسی حفاظت کرنے والے اور صادق الوعد خدا نے ہی تو قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا پھر کیسے ممکن تھا کہ

تمام وعدے پورے کرنے والا اس معاملہ وعدہ خلافی کا مرتکب ہو جاتا؟ اسے تو علم تھا کہ میرے کلام کے اس حصہ کا یہ حال ہونا ہے پھر نازل ہی کیوں کیا اور اگر کر ہی دیا تھا اور ساتھ یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں تو پھر اس وقت یہ کون سی بکری تھی جو خدا تعالیٰ کے ارادہ کی راہ میں روک بن گئی! ہزاروں عیار اور خون کے پیاسے دشمن تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور قرآن کریم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں لیکن ناکام رہ جائیں اور ایک بکری کام دکھا جائے۔ یہ حسرتیں اور سوچیں تو ابن وراق اور اسی کی قماش کے لوگوں کی ہیں کہ بکریاں خدا کی تقدیر بدلنے لگیں۔ پس یہ روایات اور ان پر تحقیق کی بنا رکھنا مخالفین کا محض تمسخر اور استہزاء ہے اور اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔

اس کے بعد ابن وراق کہتا ہے کہ ”ابتدائی خلفاء نے زنا کاروں کے لیے اس قسم کی سزائیں تجویز کی تھیں، باوجود اس کے آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن صرف سو کوڑوں کی سزا تجویز کرتا ہے۔“

رسول کریم ﷺ اور خلفاء راشدین کا رجم کی سزا تجویز کرنا

یہ بات درست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء نے رجم کی سزائیں دی تھیں لیکن اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رجم قرآنی وحی اور اسلامی حدود میں داخل ہے بلکہ ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ رجم کا حکم اصلاح معاشرہ کی خاطر جاری کیا گیا اور ایک انتظامی حکم تھا جس کا اسلامی حدود سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ صرف ایک تعزیر یا ایک سزا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجم ابوبکر و رجمت و لولا

انی اکرہ ان ازید فی کتاب اللہ لکتبتہ فی المصحف

(ترمذی کتاب الحدود باب ما جاء فی تحقیق الرجم)

رسول کریمؐ نے رجم کی سزا دی حضرت ابوبکرؓ نے رجم کی سزا دی اور میں نے بھی رجم کی سزا دی۔

اور اگر میرے لیے کتاب اللہ میں اضافہ کرنا کراہت آمیز نہ ہوتا تو میں اسے مصحف میں درج کر دیتا۔

اب اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واضح اقرار موجود ہے کہ آپؐ کے نزدیک آیت رجم کا قرآن کریم میں درج کیا جانا کتاب اللہ میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے اور مکروہ ہے پس کیسے ممکن ہے کہ آپؐ ایسا کرتے۔

حضرت عمرؓ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

لو لا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آية الرجم بیدی

(بخاری کتاب الاحکام باب الشهاده تکون عند الحاكم فی ولايته القضاء...)

یعنی اگر مجھے اس بات کا ڈرنہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کیا ہے تو

میں اپنے ہاتھ سے رجم کی آیت لکھ دیتا۔

گویا رجم کی آیت کا قرآن میں داخل کرنا ایک قسم کا اضافہ ہے جو آپؐ کے نزدیک بھی اور صحابہؓ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے۔ ان روایات میں واضح طور پر حضرت عمرؓ کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ آپؐ کے نزدیک بھی اور صحابہؓ میں بھی یہ ایک جانی مانی حقیقت تھی کہ آیت رجم قرآن کا حصہ نہیں ہے اور اس کا درج کرنا دراصل قرآن کریم میں اضافہ کرنا ہے۔ پس قرآن کا حصہ نہ ہونا مگر پھر بھی معاشرہ میں اس سزا کا لاگو کیا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ امر ریاستی اور انتظامی معاملات میں سے ایک تھا اور اسلامی حدود سے اس کا تعلق نہیں تھا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا تو اس سے صرف یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک رجم کے حکم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل قرآن کریم کے بارہ میں کس قدر حساس تھا اس کا نمونہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح پڑھنے کے انداز میں ادنیٰ سے اختلاف پر آپؐ بھرے ہوئے شیر کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی حفاظت کے میدان میں کسی کی بھی پروا نہیں کرتے۔ پس کیسے ممکن ہے کہ آپؐ قرآن کریم میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہوں؟ چنانچہ دوسری روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ آپؐ فرماتے کہ میں اس حکم کو قرآن کریم کے حاشیہ پر لکھ لیتا۔ مثلاً روایت ہے:

ولو ان يقول القائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لكتبته في
ناحية من المصحف

(مسند احمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند عمر بن الخطاب)

اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے کہ عمرؓ نے کتاب اللہ میں ایسا اضافہ کر دیا ہے جو کہ

دراصل اس کے متن کا حصہ نہیں ہے تو میں یہ حکم کتاب اللہ کے حاشیہ پر لکھ دیتا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ اس حکم کو قرآن کریم کے متن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں لکھتا بھی تو بطور حاشیہ لکھتا تا کہ یہ بھی قرآن کریم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے لیکن اس لیے نہیں لکھا کہ ایک طرف رسول کریمؐ کی واضح ممانعت ہے کہ قرآن کریم کے متن کے ساتھ کوئی دوسری عبارت درج نہ کی جائے اس لیے مجھے یہ امر مکروہ معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کے واضح فرمان کو ٹالتے ہوئے قرآن کریم کے متن کے ساتھ کچھ لکھوں۔ یہ ذکر بھی گزر چکا ہے کہ صحابہؓ نے اپنے نسخوں میں جو تشریحی تحریرات درج کی ہوئی تھیں، حضرت عمرؓ نے رسول کریمؐ کے ایک ارشاد اور سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے ان تمام تشریحی تحریرات اور حواشی کو تلف کر دیا تھا۔ اگر آپؐ رجم کا حکم حاشیہ میں بھی درج کرتے تو یہ اعتراض بھی ہوتا کہ خود تو حاشیہ میں ایسی تحریرات لکھ رہے ہیں اور دیگر صحابہؓ سے کہتے ہیں کہ ایسی تحریرات جن میں قرآنی آیات کے ساتھ تشریحی حواشی درج ہیں تلف کر دی جائیں۔

حضرت عمرؓ کے علاوہ دیگر صحابہؓ نے بھی رجم کا ذکر کیا ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ رجم کا حکم قرآنی تھا۔ بلکہ اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ کاتب وحی حضرت زیدؓ نے یہ آیت قرآن کریم میں نہیں لکھی بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سنا: چنانچہ روایت ہے کہ:

قال زيد سمعت رسول الله ﷺ يقول الشيخ والشيخ اذا زنيا
فارجموهما البتة فقال عمر لما انزلت هذه آتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقلت اكتبنيها قال شعبة فكأنه كره ذلك-

(مسند احمد بن حنبل، مسند الانصار، حديث زيد بن ثابت عن النبي ﷺ)

یعنی زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے سنا کہ جب ایک بوڑھا شخص اور بڑھیازنا کریں تو انہیں رجم کر دیں حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوا تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ اس پر آپؐ نے کراہت کا اظہار فرمایا۔

پس اسی روایت میں ایک اور اندرونی گواہی اس بات پر ہے کہ آیت رجم متن قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو ایسا کہتے ہوئے سنا۔ یعنی آپؐ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپؐ نے عام حدیث کے انداز میں ایک بات سنی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے کا حکم نہیں دیا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گئے ہوں کیونکہ اسی حدیث میں ذکر ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے لکھنے کی درخواست کی تو آپؐ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ گویا یہ آپؐ کے اسی حکم لاتکتبوا عنی سوی القرآن یعنی مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو (مسند احمد بن حنبل کتاب الباقی مسند المکثرین باب مسند ابی سعید الخدری) کے تحت آتا تھا اور یہ سوی القرآن تھی۔ جو کاتب وحی کو نہ لکھوائی گئی۔ پس حضرت عمرؓ کو کیوں لکھ کر دی جاتی؟

حضرت عمرؓ کا یہ کہنا کہ ”یہ آیت مجھے لکھ کر دی جائے“ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپؐ جانتے تھے کہ یہ قرآنی وحی نہیں ہے۔ ورنہ قرآنی وحی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو لکھ کر نہیں دیا کرتے تھے صرف کاتبین کو لکھواتے تھے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قرآنی وحی لکھ لینے کی واضح اجازت موجود تھی۔ صحابہ خود اپنے لیے وحی تحریر کیا کرتے اور ان تحریرات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر کے ان کے صحیح ہونے کی تصدیق کروا لیتے۔ حضرت عمرؓ تو لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اگر واقعی قرآن کریم کی ایسی کوئی آیت تھی تو کیوں نہ خود لکھ لی؟ پس لازماً آپؐ بھی اسے سوی القرآن سمجھتے تھے اور اس کا بلا اجازت لکھنا

اس حکم لاتکتبوا عنی سوی القرآن کی نافرمانی سمجھتے تھے تبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے تھے کہ اس بات کی مجھے تحریر دے دی جائے۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ لکھنے سے تو کبھی منع نہیں فرمایا اور نہ ایسا کرنے والے کے خلاف کراہت کا اظہار فرمایا۔

مختصر یہ کہ حضرت عمرؓ کا اجازت لینا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناپسندیدگی اور کاتبِ وحی کے ساتھ ہی موجود ہونے کے باوجود انہیں نہ لکھوانا اس بات پر شاہدِ ناطق ہے کہ یہ حکم قرآن کریم کی آیت نہیں بلکہ معاشرتی اور انتظامی امور کے لیے ایک عمومی حکم دیا گیا ہے اور حضرت عمرؓ بھی مالیس منہ کے الفاظ سے یہ واضح فرما رہے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عمرؓ تو حضرت ابوبکرؓ کے عہدِ خلافت میں ہونے والی تدوین قرآن میں اہم اور کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ اگر کوئی ایسی آیت تھی تو اس آیت پر تو آپؓ اور حضرت عائشہؓ دو گواہ موجود تھے۔ چنانچہ اگر آپؓ واقعی رجم کے حکم کو وحی قرآن کا حصہ سمجھتے تھے تو ضرور اسے قرآن کریم میں درج فرماتے۔ مگر ایسا نہ کرنا ثابت کر دیتا ہے کہ آپؓ اسے اس لحاظ سے الہی راہنمائی سمجھتے تھے کہ تورات میں اس کا ذکر تھا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نگرانِ اعلیٰ یا ایک ریاست کے حاکم ہونے کے حیثیت سے اسے معاشرہ پر لاگو بھی کیا تھا۔ لیکن یہ امر بھی واضح ہے کہ قرآن کریم ایک کامل تعلیم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس میں رجم کے بارہ میں کسی تعلیم کا نازل نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کی آفاقی اور عالمی تعلیم میں اس حکم کی گنجائش نہیں تھی اور یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ حضرت عمرؓ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور تورات کا بھی مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ (مشکوٰۃ کتاب الاعتصام بالکتاب و السنۃ) اگر واقعی آپ ان احکام کو قرآنی وحی کا حصہ سمجھتے تھے تو یہ ایک غلطی تھی۔ (تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 251 کالم 2 زیر تفسیر آیت سورۃ النور: 1 تا 3) دوسری یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اُس دور میں ریاست کے نگرانِ اعلیٰ کی طرف سے لاگو کی گئی ایک سزا کو حضرت عمرؓ کی طبیعت نے اصلاح معاشرہ کے لیے بہت سراہا اور اسے لمبے عرصہ تک جاری رکھنے کی کوشش کی تا کہ معاشرہ سے زنا کی لعنت کو ختم کیا جاسکے۔ یہ بھی ایک معروف حقیقت ہے کہ حضرت عمرؓ کی طبیعت میں ایک قسمِ جلال پایا جاتا تھا۔ آپؓ اس خوبصورت معاشرہ کے فرد تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا قربانیوں اور بہت سی مشقتوں کے بعد پروان چڑھایا تھا۔ اس میں ادنیٰ سی دراڑ یا بد صورتی کی کوشش کو آپؓ کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ بہر حال رجم کے حق میں آپؓ کی طبیعت کے میلان کی جو بھی وجہ ہو، یہ بات بھی تاریخ سے بالکل واضح ہے کہ آپؓ بہر حال رجم کے احکام کو قرآنی تعلیم سے باہر ہی سمجھتے تھے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کا مطالعہ کرتے وقت یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ مدینہ کے دور میں آپؓ نہ صرف ایک رسول تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک حاکم اور ایک عالمی قاضی کی حیثیت سے بھی دنیا

کے سامنے تھے۔ پس آپ کے فیصلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ کون سے فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق ہیں اور کون سے ایک حاکم ہونے کی حیثیت میں ہیں اور کون سے فیصلے ایک عالمی قاضی ہونے کی حیثیت سے دیے جا رہے ہیں جو کہ متفرق قوانین کے تابع ہیں اور اسلامی حدود کے دائرہ میں نہیں آتے۔ پھر یہ بات بھی مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بعض دفعہ فیصلہ کرتے ہوئے بطور حاکم اصلاح احوال مد نظر رکھتے تھے اور ایسا فیصلہ دائمی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ابتدائی دور میں رجم کی سزا دینے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”یہودیوں کی مقدس کتاب اور اسلام کی مقدس کتاب کی رو سے یہ عقیدہ متفق علیہ مانا گیا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ خدا کی کتابوں میں اُس پر ملعون کا لفظ بولا گیا ہو۔ وہ ہمیشہ کے لئے خدا کی رحمت سے محروم اور بے نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی اشارہ ہے۔ مَلْعُونِينَ. اَيْنَمَا تُقِفُوا اُخِذُوا وَ اُقْتَلُوا تَقْتِيلًا [الاحزاب: 62] یعنی زنا کار اور زنا کاری کی اشاعت کرنے والے جو مدینہ میں ہیں لعنتی ہیں۔ یعنی ہمیشہ کے لئے خدا کی رحمت سے رُکے گئے۔ اس لئے یہ اس لائق ہیں کہ جہاں انکو پاؤ قتل کر دو۔ پس اس آیت میں اس بات کی طرف یہ عجیب اشارہ ہے کہ لعنتی ہمیشہ کیلئے ہدایت سے محروم ہوتا ہے اور اس کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے جس پر جھوٹ اور بدکاری کا جوش غالب رہتا ہے۔ اور اسی بنا پر قتل کرنے کا حکم ہوا۔ کیونکہ جو قابل علاج نہیں اور مرض متعدی رکھتا ہے اس کا مرنا بہتر ہے۔ اور یہی توریت میں لکھا ہے کہ لعنتی ہلاک ہوگا۔“

(تزیین القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 237، 238)

رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اسوہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی رجم کو اسلامی شرعی حد نہ قرار دیا بلکہ رجم کے بارہ میں آپ کا اسوہ اور روئے شرعی حدود کے بارہ میں آپ کے روئے سے بالکل مختلف تھا۔ رجم کی سزا کے بارہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ماعز بن مالک کو آپ نے رجم کی سزا دی۔ جب اسے رجم کیا جا رہا تھا تو وہ پتھر لگنے پر بھاگ کھڑا ہوا۔ صحابہ نے تعاقب کر کے اسے پکڑ لیا اور سنگسار کر دیا۔ جب اس واقعہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بھاگ رہا تھا تو بھاگنے دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول فرمالیتا (بخاری کتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالک)۔ گویا رجوع یا توبہ کرنے پر آپ اس سزا میں تخفیف یا اسے بالکل ہی کالعدم کرنے کے حق میں تھے۔ لیکن اسلامی حدود کے حوالہ سے آپ کے طرز عمل کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بعید تھا کہ قرآن کریم میں ایک واضح حکم موجود ہو اور آپ اس کی پیروی نہ کریں۔ شرعی حدود کے بارہ میں تو آپ کا فتویٰ

موجود ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹتا۔ (بخاری کتاب المناقب باب ذکر اسامہ بن زید) اس میں جرم ثابت ہونے کے بعد توبہ کا سوال ہی نہیں۔ کیونکہ اب تو سزا کا وقت ہوتا ہے۔ اب اگر رجم کی سزا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اور اسلامی حدود میں سے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کس طرح اس میں تخفیف کر سکتے تھے؟ پس قرآن کریم میں رجم کی سزا کسی بھی وقت موجود نہیں رہی۔ رجم کا ذکر توریت میں ملتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے دور میں یہود میں فیصلے کرتے ہوئے توریت کے مطابق ہی ارشادات جاری فرمائے اور پھر اُس دور میں مدینہ کے ماحول کے مطابق اس سزا کو لاگو کیا مگر شرعی حد کے طور پر نہیں بلکہ آپ کا طرزِ عمل یہی تھا کہ جب تک کوئی نئی الہی راہنمائی نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت کے مطابق فیصلہ کرتے۔ چنانچہ معاشرتی اور سماجی اصلاح کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک سزا مقرر فرمائی جو یہود کے لیے تو شرعی حد ہی تھی مگر باقی لوگوں کے لیے محض ریاست کی طرف سے مقرر کی گئی ایک تعزیر تھی۔ جس طرح ریاست کی مقرر کردہ سزائیں ریاست تخفیف کر سکتی ہے یا اس سزا کو معاف بھی کر سکتی ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کا نگران اعلیٰ ہونے کے حوالہ سے یہ فرمایا کہ جب ایک شخص کا رجوع کرنا ظاہر ہو رہا تھا تو اسے چھوڑ دیتے کیونکہ وہ یہودی نہیں تھا اس لیے اُس کے لیے یہ سزا شرعی حد نہیں تھی لیکن اسلامی شرعی حدود کے معاملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینے یا تخفیف کرنے کا اختیار نہ تھا جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہے جس میں چور کو ہاتھ کاٹنے والی سزا دی تھی۔

(بخاری کتاب المناقب باب ذکر اسامہ بن زید)

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المسیح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

پس یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قرآنی حکم یہی ہے کہ اگر کسی عورت یا مرد سے زنا صادر ہو جائے تو اس کو سو (100) کوڑے لگائے جائیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بائبل کی تعلیم کے مطابق اپنے استدلال سے یہودی مذہب کی سزا کو پہلے جاری کیا اس کے بعد چونکہ قرآنی حکم نازل ہو گیا اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حکم کو ہم محض عارضی حکم کہیں گے مستقل حکم نہیں کہیں گے کیونکہ مستقل حکم آپ کا وہی ہوتا ہے جس کے متعلق قرآنی حکم موجود نہ ہو۔ اس کا ثبوت اس طرح بھی ملتا ہے کہ رسول کریم نے شروع میں قبلہ بھی یہودیوں کے طریق کے مطابق بیت المقدس کو ہی رکھا تھا۔ لیکن جب قرآن کریم میں یہ حکم نازل ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ چنانچہ دوسرے پارے کے شروع میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی

طرح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم قوم کی اصلاح کے لیے ایک حکم فرمادیا کرتے تھے لیکن وہ دائمی حکم نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً بخاری میں ہی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس ایک دفعہ وفد عبدالقیس آیا اور اُس نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں کوئی خاص ہدایت دیجیے۔ آپ نے فرمایا۔ فلاں فلاں چار قسم کے برتن استعمال نہ کیے جائیں (بخاری کتاب الایمان باب اداء الخمس من الایمان) لیکن قریباً سب مسلمان آج اُن برتنوں کو استعمال کرتے ہیں اور سب فقہاء کہتے ہیں کہ یہ برتن جائز ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اُن لوگوں میں رواج تھا کہ اس قسم کے برتنوں میں وہ شراب بناتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اُن کی اس عادت کو چھڑانے کے لیے حکم دے دیا کہ یہ برتن استعمال نہ کیا کرو۔ ان برتنوں کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے شراب بنانے کی عادت اُن میں سے جاتی رہی اور بعد میں تمام مسلمانوں کے اتفاق کے مطابق یہ حکم غیر ضروری ہو گیا اور اس قسم کے برتنوں کا استعمال سب مسلمانوں کے لیے جائز ہو گیا۔

حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے رجم کا حکم محض یہودی احکام کی اتباع میں دیا تھا۔

(تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 255 کالم 1 ز تفسیر آیت النور: 3)

ایک سوال یہ اُٹھ سکتا ہے کہ جب یہ شرعی حد نہیں تھی اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تخفیف یا معافی کے مجاز تھے تو پھر جب ایک معاملہ میں یہود نے، جب کہ آپ رجم کی سزا دے رہے تھے، پس و پیش کی تو آپ نے کیوں انہیں معاف نہیں کیا یا ان کی سزا میں تخفیف نہیں کی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہود کے لیے یہ معاملہ شرعی حد کا ہی تھا۔ کیونکہ ان کی شریعت کی کتاب میں زنا کی یہی سزا درج ہے اس لیے آپ یہود کے معاملہ میں جب کہ ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں آپ یہی فیصلہ کر سکتے تھے اور اس میں کمی بیشی کے مجاز نہیں تھے۔ چنانچہ یہود کے اس معاملہ میں آپ نے انہی کے مطالبہ پر ان کی شرعی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ پس وہ فیصلہ آپ کا نہیں بلکہ ان کی شریعت کا تھا۔ آپ صرف اس بات کے مجاز تھے کہ اپنی نگرانی میں اسے لاگو کر دیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کے پاس اختیار نہ تھا۔

اگر یہود کے لیے یہ معاملہ شرعی نہ بھی ہوتا تو بھی آپ کے اس فیصلہ پر اور نہ ہی کسی اور فیصلہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب منصف ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے امور ہوتے ہیں اور وہ جرم کی نوعیت، مجرم کی حالت اور مدعی کے دعویٰ اور دلائل اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیتا ہے۔ پندرہ سو سال گزرنے کے

بعد، جبکہ اُس وقت پیش نظر حکمتیں اور مکمل حالات و واقعات ہمارے علم میں نہیں اس لیے اعتراض کرنا فضول ہے۔ پس آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے نگرانِ اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے بطور تعزیر تو رات کے اس حکم کو لاگو کیا مگر اپنے اسوہ سے یہ بھی بتلادیا کہ یہ حکم ٹل بھی سکتا ہے جبکہ اسلامی حدود کے بارہ میں آپ کا طرزِ عمل اس امر کو واضح کرتا ہے کہ جرم ثابت ہونے کے بعد اسلامی حدود میں کسی قسم کی نرمی نہیں کی جاسکتی۔ خلفاء راشدینؓ نے بھی اس حکم کو اصلاح معاشرہ کے لیے لاگو رکھا۔ چنانچہ حضرت علیؓ بھی رجم کو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے نہ کہ وحی الہی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک زنا کے مقدمہ میں ایک عورت کو کوڑے بھی لگوائے اور رجم بھی کیا اور فرمایا کہ:

جلدتها بكتاب الله و رجمتها بسنة رسول الله ﷺ
(بخاری کتاب الحدود باب رجم المحصن)

یعنی میں نے اس عورت کو کتاب اللہ کی تعلیم کے مطابق کوڑے لگوائے ہیں اور رجم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کیا ہے۔

الغرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، نیز معاشرہ کی اصلاح کے لیے وقت کی ضروریات اور حالات کے مطابق خلفاء راشدین نے بھی رجم کی سزا بطور تعزیر لاگو رکھی جو قابل اعتراض نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی طرف منسوب روایت کے حوالہ سے اٹھائے ہوئے اعتراض کے آخر میں ابن وراق کہتا ہے کہ اس روایت کے مطابق 100 سے زیادہ آیات گم شدہ ہیں:

اس کے جواب میں ہم روایت کے الفاظ درج کر دیتے ہیں:

عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشرا و لقد
كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه و
سلم و تشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها
(سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب رضاع الكبير)

یعنی حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رجم کی آیت اور بڑے شخص کی رضاعت کے بارہ میں آیت ایک صحیفہ میں میرے بستر کے نیچے پڑی تھی۔ جب رسول کریم کی وفات ہوئی تو ہمیں آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروفیت کے باعث خیال نہ رہا اور پالتو بکری آئی اور وہ صحیفہ کھا گئی۔ پس اگر اس کے علاوہ حضرت عائشہ سے منسوب کسی روایت میں جس میں رجم کا ذکر کرتی ہیں 100 گمشدہ آیات کا بھی ذکر ہو تو وہ بیان کی جائے۔ جب تک وہ روایت نہیں ملتی ہم لعنة الله على الكاذبين ہی کا ورد کر سکتے ہیں۔

اختلاف مصاحف

نزول قرآن کے دور میں عرب میں نہ تو لکھنے کا عام رواج تھا اور نہ ہی صحابہؓ عام طور پر آداب تحریر سے واقف تھے۔ علاوہ ازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہؓ پر یہ ذمہ داری عائد بھی نہیں کر رکھی تھی کہ قرآن کریم لازماً تحریر کیا کریں البتہ کسی کو قرآن کریم تحریر کرنے سے روکا بھی نہیں تھا بلکہ آپ کے فرمودات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس بات کی حوصلہ افزائی فرماتے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کریم کی تحریرات کثرت سے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر اطاعت کے اعلیٰ نمونے دکھاتے ہوئے صحابہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھتے تھے۔ مگر عام طور پر صحابہ باقاعدہ مکمل قرآن مجید تحریر نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ کسی نے کچھ حصہ لکھا ہوتا تھا اور کسی نے کچھ حصہ اور جس قدر لکھتے بھی تو ذاتی ضرورت کے مطابق اور ذاتی استعمال کی غرض سے لکھتے۔ چنانچہ بعض صحابہؓ نے وہ مشہور سورتیں جو ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو حفظ تھیں، اپنے مصاحف میں درج نہ کیں۔ پھر صحابہؓ اپنی یادداشت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ کوئی تشریحی کلمہ یا جملہ بھی حاشیہ کے طور پر قرآن کریم کے متن کے ساتھ ہی لکھ لیتے اور یہ علم عام ہوتا تھا کہ یہ حصہ قرآن کریم کے متن کا حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ کثرت سے لوگوں کو قرآن کریم حفظ تھا اور قرآن کریم کی تعلیم عام تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ کے ایک غلام ابی یونس کا ذکر ملتا ہے آپ حضرت عائشہؓ کے لیے قرآن کریم کی آیات تحریر کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت عائشہؓ کے کہنے پر حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَ الصَّلٰوَةِ الْوَسْطٰی (البقرة: 239) کے ساتھ بطور تفسیر کے یہ جملہ درج کیا تھا ”و صلوة العصر“ (ترمذی ابواب تفسیر القرآن عن النبی ﷺ باب و من سورة البقرة) اس روایت سے واضح ہے کہ ”و صلوة العصر“ کے الفاظ تشریحی ہیں۔ چنانچہ تمام حفاظ کا سکوت اس پر گواہ ہے۔ پھر عام طور پر صحابہ کو بھی یہ علم تھا کہ یہ الفاظ متن قرآن کا حصہ نہیں بلکہ تشریح کے لیے بطور حاشیہ درج کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ایک اور صحابی کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صلوة الوسطی سے مراد صلوة العصر ہے۔ گویا واضح کر رہے ہیں کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ ایک تفسیر ہے نہ کہ قرآنی الفاظ۔ (ترمذی ابواب تفسیر القرآن عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب و من سورة البقرة) امام ترمذی کا دونوں احادیث کو باب تفسیر میں لانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ علما کو علم تھا کہ آیت کون سی ہے اور تشریح کون سی۔ پھر صحابہؓ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ ان کے مصاحف انہی کے پاس رہیں تاکہ ناواقف شخص کو ان سے ٹھوکر نہ لگے یا ان میں درج تفسیری نکات کو دوسرا شخص متن قرآن نہ سمجھ بیٹھے۔ چنانچہ جب حضرت عائشہؓ سے ایک صحابیؓ

نے ان کا نسخہ قرآن مانگا تو حضرت عائشہؓ نے پس و پیش کیا۔ (بخاری کتاب جمع القرآن باب تالیف القرآن)

ڈاکٹر صحتی صالح اپنی کتاب علوم القرآن میں اس ضمن میں ایک دوسری مثال پیش کرتے ہیں:

بعض صحابہؓ نے اپنے ذاتی نسخوں میں بعض آیات کی وہ تفسیر بھی رقم کر رکھی تھی جو انہوں نے بذاتِ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آیت قرآنی: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے ذاتی نسخہ میں ”فی موسم الحج“ کے الفاظ بڑھالیا کرتے تھے جس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں اجازت دی گئی ہے کہ حج کے دنوں میں تجارت کر کے مالی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ الفاظ ایضاح و تفسیر کے لیے لکھے گئے تھے کیونکہ قرآن کریم کے جس نسخہ پر امت کا اجماع ہوا ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ ابن الجری اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

”بعض اوقات تفسیری کلمات کو ایضاح و تفسیر کے لیے قراءت میں شامل کر لیا جاتا تھا اس لیے کہ صحابہؓ نے بذاتِ خود آنحضرت سے قرآن سنا تھا۔ بنا بریں انہیں یہ خطرہ لاحق نہ تھا کہ تفسیری کلمات قرآنی الفاظ کے ساتھ مخلوط ہو جائیں گے۔ بعض صحابہ تفسیر پر مشتمل الفاظ کو اپنے ذاتی نسخہ میں لکھ لیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت عائشہؓ نے ایسا کیا ہوا تھا۔“

(بارچہارم 1993: باب دوم، فصل اول، عہد عثمان میں جمع تدریس، صفحہ 123)

تحریر کا عام رواج نہ ہونے کی وجہ سے لکھنے والوں کو آدابِ تحریر سے گہری واقفیت بھی نہیں تھی اور نہ ہی عام طور پر لوگ پڑھنا جانتے تھے۔ اس لیے ناواقف انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کہاں تک ہے اور کہاں سے حاشیہ شروع ہوتا ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے دیا تھا کہ قرآن کریم کی تحریر کو محفوظ کرنے کی خاطر ان کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو نہ لکھا جائے تاکہ خلط ملط ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ چنانچہ آپؐ نے ایک مرتبہ اپنی حیات مبارکہ میں ہی ایسی تحریرات نذر آتش کروادی تھیں جن میں آپؐ کے فرمودات تحریر کیے گئے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک بین نظر نے دیکھ لیا تھا کہ ایسی تحریرات جن میں قرآن کریم کی آیات کے ساتھ تفسیر کے طور پر آپؐ کے فرمودات درج ہیں شک کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس فرمان اور سنت کے مطابق حضرت عمرؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں اس قسم کی تحریرات کو تلف کر دیا تھا تاکہ کسی قسم کا کوئی شک پیدا نہ ہو۔ (عبدالصمد صارم الازہری: تاریخ القرآن، ایڈیشن 1985 ندیم یونس پرنٹرز لاہور، پبلشرز: مکتبہ معین الادب اردو بازار لاہور صفحہ 104) پھر صحابہ اپنے اپنے قبیلہ کی قراءت کے مطابق قرآن لکھتے تھے اور یہ بھی رسول کریم کی اجازت سے تھا۔ ایک ناواقف انسان اس سے بھی

ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ پھر یہ مصاحف چونکہ صحابہؓ اپنے ذاتی استعمال کی غرض سے لکھ رہے تھے اس لیے بعض انہیں سورتوں کو لکھتے جن کو لکھنے کی وہ ضرورت محسوس کرتے یا پھر برکت کی خاطر وحی قرآن کا کچھ حصہ نزول کے ساتھ ساتھ لکھ لیتے تھے۔ پھر وحی کے جاری ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کے متن کی تحریر میں ظاہری ترتیب کو قائم رکھا ہی نہیں جاسکتا تھا نیز ترتیب کا عام علم ہونے کی وجہ سے متن کو ظاہری ترتیب کے ساتھ تحریر کرنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس بھی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ ترتیب تو اسی وقت سامنے آسکتی تھی جب قرآن مکمل ہو کر کتابی شکل میں جمع اور پیش کیا جاتا جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ناممکن تھا۔ علاوہ ازیں تمام صحابہؓ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ قرآن کریم کا مرکزی صحیفہ تمام تر احتیاط کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے اس لیے برکت کے لیے اور حسب ضرورت عام طور پر صحابہؓ کچھ حصہ قرآن تو تحریری صورت میں اپنے پاس رکھتے مگر مکمل نسخہ تحریر کرنے کی ضرورت نہ سمجھتے۔ پس صحابہؓ کا اپنے طور پر مصاحف جمع کرنا رضائے الہی اور اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ خصوصاً اس صورت میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی جمع و تدوین کا کام بھی ہو رہا تھا اور تعلیم قرآن کا سلسلہ بھی زور و شور سے جاری تھا۔

حضرت ابو بکرؓ نے اپنے دورِ خلافت میں صحابہ کرام کی متفقہ گواہی سے قرآن کریم کا ایک نسخہ تحریر کر کے محفوظ کر دیا تھا۔ جسے مصحفِ ام کہا جاتا ہے۔ مصحفِ ام کی وجہ سے صحابہ کرام کی متفرق اور ذاتی طور پر تیار کی گئی تحریرات کے فرق کی وجہ سے آئندہ جو شبہات پیدا ہو سکتے تھے ان کا خطرہ ٹل گیا۔ تمام صحابہؓ نے یہ گواہی دی تھی کہ یہ نسخہ قرآن کریم مکمل ہے اور بعینہ وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپؐ نے امت کے سپرد فرمایا اور یہ وہی قرآن کریم ہے جو بہت سے صحابہؓ نے مختلف حصوں کی صورت میں اپنے پاس محفوظ کر رکھا تھا اور کم از کم چار صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی مکمل طور پر تحریری صورت میں محفوظ کر لیا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے صحابہ کرامؓ کے مشورہ اور اتفاق رائے کے مطابق مصحفِ ام کی لغت قریش پر اشاعت کی اور متفرق قرآنی تحریرات کو جلانے کا حکم دیدیا جن میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر قرآن کریم یا اس کا کچھ حصہ تحریر کیا ہوا تھا۔

جہاں تک ابنِ وراق کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ سورة الفاتحہ اور معوذتین کو متن قرآن کا حصہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں عرض ہے کہ واقعی بعض ایسی روایات ملتی ہیں کہ آپؐ اپنے صحائف میں سے ان سورتوں کو مٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن ان روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے درج کی تھیں لیکن پھر کسی وجہ سے آپؐ کی رائے یہ ہو گئی کہ یہ سورتیں درج نہیں کرنی چاہئیں اس لیے مٹانا شروع کر دیا۔

راویات کے مطابق آپؐ سورۃ الفاتحہ کو ہر سورۃ سے متعلق سمجھتے تھے۔ آپ کا یہ موقف تھا کہ اگر سورۃ الفاتحہ قرآن کریم میں درج کرنی ہوگی تو ہر سورۃ سے پہلے کرنی پڑے گی لیکن اس کے وحی الہی ہونے کے منکر ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ ہر نماز میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ جہاں تک ہر سورت سے قبل درج کرنے کا تعلق ہے تو اگر ہر سورت سے قبل دو مرتبہ بھی درج کرنا کسی کی رائے ہو تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں کمی بیشی ہوگی یا حفاظت قرآن کا معاملہ ہی مشکوک ہو گیا؟ سورت تو محفوظ ہی ہے۔

یہ بات سو فیصد درست ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا تعلق قرآن کریم کی ہر سورت سے ہے مگر اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اسے نسخہ قرآن میں ہر سورۃ سے قبل درج کرنا بھی ضروری ہے یا پھر سرے سے درج کرنا ہی نہیں چاہیے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا بلکہ کاتبین وحی کو یہ سورت قرآن کریم کے آغاز میں ایک ہی دفعہ تحریر کروائی تو پھر ایسی رائے کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم کی اندرونی گواہی بھی ملتی ہے اور واضح تاریخی ثبوت ملتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم کا حصہ قرار دیا اور قرآنی وحی میں شامل فرمایا۔ مثلاً حدیث ہے:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأَعْلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضائل فاتحة الكتاب)

حضرت ابی سعید بن معلیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ میں جواب نہ دے پایا اور عرض کی اے اللہ کے رسولؐ خاکسار نماز پڑھ رہا تھا اس لیے جواب نہیں دے پایا۔ آپؐ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر آپؐ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان سورت کے بارہ میں بتاؤں گا۔ چنانچہ

جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان صورت کے بارہ میں بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ سورت **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ہے۔ یہ سبع المثانی اور القرآن العظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔

اسی طرح ایک روایت میں ہے:

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کریم کے سب سے افضل حصہ کے بارہ میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ (مستدرک حاکم کتاب فضائل القرآن)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

ہم نے تجھے اے رسول! سات آیتیں سورۃ فاتحہ کی عطا کی ہیں جو مجمل طور پر تمام مقاصد قرآنیہ پر مشتمل ہیں اور ان کے مقابلہ پر قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے جو مفصل طور پر مقاصد دینیہ کو ظاہر کرتا ہے اور اسی جہت سے اس سورۃ کا نام امّ الکتاب اور سورۃ الجامع ہے۔ امّ الکتاب اس جہت سے کہ جمیع مقاصد قرآنیہ اس سے مستخرج ہوتے ہیں اور سورۃ الجامع اس جہت سے کہ علوم قرآنیہ کے جمیع انواع پر بصورت اجمالی مشتمل ہے۔ اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا گویا اس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا۔ (براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 580، 581 حاشیہ نمبر 11)

اسی طرح فرماتے ہیں:

اور یاد رہے کہ ان دونوں فتنوں کا قرآن شریف میں مفصل بیان ہے اور سورۃ فاتحہ اور آخری سورتوں میں اجمالاً ذکر ہے۔ مثلاً سورۃ فاتحہ میں **دَعَاوًا وَلَا الضَّالِّينَ** میں صرف دو لفظ میں سمجھایا گیا ہے کہ عیسائیت کے فتنہ سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہو جس سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فتنہ عظیم الشان درپیش ہے جس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نماز کے بیچ وقت میں یہ دعا شامل کر دی گئی اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی جیسا کہ حدیث **لَا صَلَوةَ إِلَّا بِالْفَاتِحَةِ** سے ظاہر ہوتا ہے۔ (تحفہ گولڈویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 219-217)

پھر سورۃ الفاتحہ کا نام ہی اس کے قرآن کریم کی پہلی سورت ہونے کی ایک دلیل ہے۔ حضرت مسیح موعودؑ نے اس سورۃ کا نام الفاتحہ رکھے جانے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے۔ اس کا ایک نام فاتحہ الکتاب اور ایک نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہے۔

جمع قرآن اور ترتیب کے قرآن کے موضوع میں ضمنی طور پر سورۃ الفاتحہ کے قرآن کریم کی ہی ایک، اور پہلی

سورت ہونے کے دلائل بیان ہو چکے ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ سورت قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہے اور یہ کہ اس سورۃ کے الفاظ صرف ان حروف پر مشتمل ہیں جو آئندہ سورتوں میں مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں وغیرہ۔ یہاں تمام دلائل کو دہرانا باعث طوالت ہوگا۔ یہ قابل ذکر ہے کہ یہ کہیں ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عبداللہؓ نے کبھی امت کو یا اپنے شاگردوں کو یہ کہا ہو کہ یہ سورتیں متن قرآن کا حصہ نہیں ہیں یا یہ کہ ان کو قرآن کریم میں درج نہیں کرنا چاہیے۔ معوذتین کے ضمن میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ آپؐ کے نزدیک ان دو سورتوں کو قرآن کریم میں درج کرنا ضروری نہیں تھا۔ مثلاً روایت ملتی ہے:

حدثني محمد بن الحسين بن اشكاب حدثنا محمد بن ابي عبيدة بن معن حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه و يقول انهما ليستا من كتاب الله تبارك و تعالیٰ قال اعمش و حدثنا عاصم عن زر عن ابي بن كعب قال سالنا عنهما رسول الله ﷺ قال فقل لي فقلت
(مسند احمد بن حنبل كتاب مسند الانصار حديث زر بن حبیش عن ابي بن كعب)

یعنی عبدالرحمن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ اپنے صحیفوں سے معوذتین مٹا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔ اس روایت کے ایک راوی اعمش یہ روایت بھی کرتے ہیں کہ عاصم نے اُبی بن کعب سے روایت کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے معوذتین کے بارہ میں سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ مجھے ایسے ہی ارشاد ہوا اور میں بھی ایسے آگے کہہ دیتا ہوں۔

اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ذاتی خیال درج کیا گیا ہے جس کے حق میں کوئی دلیل نہیں دی گئی اور پھر یہ خیال اس مضمون کو بیان کرنے والی دوسرے رواۃ کی روایات میں بھی درج نہیں ہے۔ اس سے ملتی جلتی روایات میں یہ تو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے معوذتین اپنے صحیفہ سے خارج کر دی تھیں مگر یہ نہیں لکھا کہ وہ انہیں کتاب اللہ کا حصہ نہیں مانتے تھے۔ اس روایت میں یہ بیان کرنے کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ خیال تھا کہ کتاب اللہ کا حصہ ہی نہیں، اسی روایت کے ایک راوی اعمش نے ایک دوسرے راوی عاصم کے حوالہ سے کاتب وحی حضرت اُبی بن کعبؓ سے روایت کر کے اس خیال کا قلع قمع کر دیا ہے کہ یہ خیال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یا عبدالرحمن کا تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معوذتین بھی متن قرآن کریم کا حصہ ہیں۔ اس روایت کے مطابق حضرت اُبی بن کعبؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معوذتین کے وحی الہی ہونے کی تصدیق کروائی ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد

اور سنت کے مخالف کسی بھی ہستی کی رائے ہو تو اس کی حیثیت ردی کے برابر بھی نہیں رہتی۔

پس اس روایت پر اس رائے کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ معوذتین کو وحی الہی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں دوسرے رواۃ سے مروی روایات میں اس خیال کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ نیز صرف ایک راوی عبدالرحمان بن یزید حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اور ان کے بارہ میں میزان الاعتدال میں یہ لکھا ہے کہ آپ اہل کوفہ سے صحیح روایت نہیں کرتے۔ پس ایک تو راوی کی یہ کمزوری اور پھر دوسری مستند اور تواتر والی احادیث سے اختلاف کی بنیاد پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ راوی غلطی خوردہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تو ہزاروں شاگرد تھے۔ اگر آپؓ کا فی الحقیقت یہ خیال ہوتا کہ معوذتین وحی الہی کا حصہ نہیں ہیں تو اس کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اس طرز عمل کے بارہ میں کہ آپ معوذتین کو مصحف میں درج نہیں کرتے صحابہؓ نے بھی نوٹ کیا اور حضرت اُبی بن کعبؓ سے جو کہ آنحضرتؐ کے کاتبِ وحی تھے، اس بارہ میں دریافت کیا گیا تو آپؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اس طرز عمل کے بارہ میں اپنی رائے بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

حدثنا سفیان بن عیینة عن عبدة و عاصم عن زر قال قلت لابی ان
اخاك يحكهما من المصحف فلم ينكر قيل لسفيان ابن مسعود قال
نعم و ليسا فى مصحف ابن مسعود كان يرى رسول الله ﷺ يعوذ بهما
الحسن و الحسين و لم يسمعه يقرؤهما فى شىء من صلواته فظن انهما
عوزتان و اصر على ظنه و تحقق الباقون كونهما من القرآن فوادعوهما اياه
(مسند احمد بن حنبل كتاب مسند الانصار هديت زر بن حبيش عن ابي بن كعب)

یعنی ابن مسعودؓ کا خیال تھا کہ رسول اللہ ﷺ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو شیطان کے مقابل پر اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے یہ دعا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو کبھی یہ کسی نماز وغیرہ میں پڑھتے نہیں دیکھا اس لیے یہ خیال کر لیا کہ یہ صرف پناہ مانگنے والی دعائیں ہیں اور اپنے اس خیال پر اصرار تھا جبکہ باقی صحابہؓ نے تحقیق سے ان کا قرآن کریم کا حصہ ہونا تسلیم کیا۔

ایک دوسری جگہ حضرت اُبی بن کعبؓ معوذتین کے قرآن کریم کا حصہ ہونے کی گواہی ان الفاظ میں دیتے ہیں۔

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفیان عن عاصم و عبدة عن زر بن حبيش
قال سألت ابي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله ﷺ
فقال قيل لى فقلت فنحن نقل كما قال رسول الله ﷺ

(بخاری کتاب تفسیر القرآن باب قال المجاهد الفلق الصبح و غاسق ...)

حضرت اُبی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے معوذتین کے بارہ میں پوچھا تو آپؐ نے فرمایا کہ مجھے ایسے ہی ارشاد ہوا اور اس لیے میں ایسے ہی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت اُبی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ پس ہم بھی اب ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
اسی طرح یہ روایت بھی ملتی ہے:

عن زر قلت لأبي بن كعب ان ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال اشهد ان رسول الله ﷺ اخبرني ان جبريل عليه السلام قال له قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُلْتُهَا فَقَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقُلْتُهَا فَنَحْنُ نَقُلُ مَا قَالَ النَّبِيِّ ﷺ
(مسند احمد بن حنبل كتاب مسند الانصار حديث زر بن حبیش عن اُبي بن كعب)

زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اُبی بن کعبؓ سے عرض کی کہ ابن مسعودؓ تو معوذتین کو اپنے صحیفے میں درج نہیں کرتے۔ اس پر آپؓ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پڑھایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں نے ایسے ہی پڑھا۔ پھر پڑھایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں نے ایسے ہی پڑھا۔ حضرت اُبی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ پس ہم بھی اب ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

امام احمد بن حنبلؓ بہت سی دیگر اسناد سے بھی یہ روایت لائے ہیں جو اس روایت کے مستند ہونے کی ایک قوی دلیل ہے۔ بہر حال اگر کسی راوی کا یہ خیال تھا یا پھر یہ خیال حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا تھا تو بھی اسی کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔ ایک طرف متواتر تاریخی شہادتیں اور امت کی متفقہ گواہی، تحریری تواتر، حفاظ کا اجماع اور دوسری طرف ایک راوی کا خیال یا اگر راوی کا خیال نہیں تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا خیال۔ عقل سلیم کیا گواہی دیتی ہے کہ کس کو درست تسلیم کیا جائے؟ راوی یا عبداللہ بن مسعودؓ کے خیال کو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی گواہی اور امت کی متفقہ شہادت اور تواتر کو؟ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپؐ کے ساتھ ساری امت کی متفقہ شہادت کے مقابل پر شخص واحد کو غلطی لگانا زیادہ قرین قیاس ہے۔

علاوہ ازیں کتب احادیث میں اتنی کثرت سے ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں معوذتین کے قرآن کریم کا حصہ ہونے کا ذکر واضح الفاظ میں ملتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جريف عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن عقبه

بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تر آيات أنزلت الليلة
لم ير مثلهن قط قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ -

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة المعوذتين)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم ہے کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ
ان جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں یعنی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ -

اس مضمون کی ایک حدیث سنن ترمذی فضائل القرآن عن رسول اللہ باب ما جاء في
المعوذتين میں اور ایک حدیث طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے بیان کی ہے (بحوالہ،
صدیق حسن خان صاحب: جمع تدوین قرآن مطبع معارف پریس اعظم گڑھ لکھنؤ: 1964 صفحہ 72) بخاری میں
بھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص اور معوذتین
پڑھ کر سوتے تھے۔ (بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذتين)

الغرض صحاح ستہ کی سب کتب میں معوذتین کے قرآن کریم کا حصہ ہونے کے بارہ میں احادیث ملتی ہیں۔
یہی قرین قیاس ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود انہیں قرآنی وحی ہی سمجھتے تھے اور محض ان معنوں میں دعا قرار دیتے
تھے جو معانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔

سورۃ فاتحہ میں تین دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ (۱) ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اس جماعت میں
داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے اور پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح موعود
کی جماعت ہے جن کی نسبت قرآن شریف فرماتا ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ
(الجمعة: 4) غرض اسلام میں یہی دو جماعتیں منع علیہم کی جماعتیں ہیں اور انہی کی طرف اشارہ
ہے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں کیونکہ تمام قرآن پڑھ کر دیکھو جو جماعتیں دو ہی ہیں۔
ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت۔ دوسری وَآخِرِينَ مِنْهُمْ کی جماعت جو صحابہ کے رنگ میں
ہے اور وہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ پس جب تم نماز میں یا خارج نماز کے یہ دعا پڑھو کہ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ
اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں۔ یہ تو سورۃ فاتحہ کی پہلی دعا ہے۔ (۲) دوسری دعا
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ہے جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے اور اس دعا
کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورۃ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ہے۔ (۳) تیسری دعا وَلَا
الضَّالِّينَ ہے اور اس کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورۃ اخلاص ہے یعنی قُلْ هُوَ

اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور اس کے بعد دو اور سورتیں جو ہیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں سورتیں سورۃ تبت اور سورۃ اخلاص کے لیے بطور شرح کے ہیں اور ان دونوں سورتوں میں اس تاریک زمانہ سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جب کہ لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے اور جب کہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا میں پھیلے گی۔
(تحفہ گوڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 217-219)

پس جہاں تک ابن مسعود کا معوذتین کو قرآنی وحی سمجھنے یا نہ سمجھنے کا تعلق ہے تو اغلباً آپ معوذتین کو قرآن کریم کے متن کا حصہ اور وحی الہی سمجھتے تھے اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی یہ امر تو واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام صحابہؓ ان دونوں سورتوں کو متن قرآن اور وحی سمجھتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ جب امت کی متفقہ گواہی موجود تھی کہ جو قرآن ابو بکرؓ نے جمع کروایا ہے وہ بعینہ وہی ہے جو امت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لکھا، حفظ کیا اور سیکھا ہے اور ان گواہوں میں حضرت عبداللہ کے شاگرد بھی شامل تھے۔ اس صورت میں ایک شخص کا اختلاف کیا حیثیت رکھتا ہے؟

نیز یہ امر بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں ممتاز اور عالم قرآن تھے۔ کوفہ میں باقاعدہ درس قرآن کی ایک یونیورسٹی آپؓ نے قائم کی ہوئی تھی۔ ہزاروں ہزار آپؓ کے شاگرد تھے مگر ان شاگردوں میں سے کوئی بھی ایسی روایت نہیں کرتا کہ آپؓ معوذتین کو متن قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ شاگردوں کی جو روایتیں ملتی ہیں ان کے مطابق آپؓ قرآن کا درس مع معوذتین دیا کرتے تھے۔ (بحوالہ، صدیق حسن خان صاحب: جمع تدوین قرآن مطبع معارف پریس اعظم گڑھ لکھنؤ: 1964 صفحہ 72) اگر بالفرض ابن مسعودؓ نے ان دو سورتوں کا متن قرآن کا حصہ ہونے کا انکار کیا ہی تھا تو کثرت سے اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس نظریہ کے بارہ میں فرماتے ہیں:

اس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں۔ واقعات کے متعلق دلیل صرف وہی شہادت ہو سکتی ہے جو یا تو نظری ہو یا سماعی یعنی یا تو اس کی شہادت جس نے خود واقعہ دیکھا ہے یا پھر اگر کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس کے الفاظ بیان کرے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ بیان نہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سنا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ استعاذہ کیا کریں اور چونکہ یہ دونوں سورتیں استعاذہ ہیں۔ اسلئے معلوم ہوا کہ قرآن ختم

ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ محض ان کا قیاس ہے۔ اس کے مقابل دوسرے مقتدر صحابہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورتیں انہیں قرآن کے حصہ کے طور پر لکھوائیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قیاس درآنحالیکہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ قرآن کے ساتھ لکھی اور پڑھی جاتی تھیں کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ پس یہ سورتیں یقیناً قرآن کریم کا حصہ ہیں اور قرآن کریم کے خاتمہ کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کو چُنا ہے۔
(تفسیر کبیر جلد دہم صفحہ 544 کالم اول زیر تفسیر الفلق)

خلاصہ کلام یہ کہ معوذتین کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارہ میں یہ رائے قائم کرنا کہ وہ انہیں وحی الہی کا حصہ نہیں سمجھتے تھے درست نہیں کیونکہ اول تو صرف ایک راوی یہ خیال ظاہر کرتے ہیں اور راوی بھی وہ جن کا اہل کوفہ سے درست روایت کرنا مشکوک ہے۔ علاوہ ازیں دیگر متواتر روایات میں یہ بات عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب نہیں کی گئی اور اگر حضرت عبداللہ واقعی انہیں وحی قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے تو آپ اپنے خیال کے حق میں کوئی دلیل نہیں دیتے۔

یہ بھی مد نظر رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارہ میں روایات میں جو یہ درج ہے کہ وہ اپنے صحائف سے معوذتین مٹا دیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاً آپ ان سورتوں کو اپنے صحیفہ میں درج کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی رائے بدل گئی اور باقی امت سے مختلف ہو گئی لیکن اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں دی اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی۔

اس اختلاف کی اس لیے بھی اہمیت نہیں کیوں کہ اول کا تبین وحی گواہی موجود ہے کہ معوذتین متن قرآن کا حصہ ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متن قرآن کریم میں درج کروائی تھیں۔ دوم یہ کہ ساری امت کی گواہی جس صحیفہ قرآن پر اکٹھی کی گئی تھی اس میں معوذتین درج کی گئی ہیں اور دوسری طرف آپ اختلاف کر رہے تھے جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اگر درحقیقت کوئی شک ہوتا تو لازماً امت مسلمہ میں سے عبداللہ کا ساتھ دینے والے صحابہ اور دیگر ہزاروں افراد کھڑے ہو جاتے یا کم از کم آپ کے شاگردوں میں سے کچھ آپ کی حمایت کرتے۔ آپ قرآن کریم کی درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے مگر اس کے باوجود آپ کے اس خیال کے حق میں کوئی شہادت نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں سے کوئی بھی اس خیال کی حمایت نہیں کرتا نظر نہیں آتا۔

پس ثابت شدہ اور متفقہ حقائق کو چھوڑ کر ایک بے دلیل رائے کو وہی شخص اہمیت دے سکتا ہے جس کا مقصد حق کی جستجو نہیں بلکہ اعتراض برائے اعتراض ہے۔

بہر حال یہ اختلافات اس وقت بالکل ہی بے حیثیت ہو جاتے ہیں جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بالآخر عہد صدیقی میں ہی اس اختلاف کو ختم کر کے اجماع امت سے تیار کیے جانے والے صحیفہ

سے بگلی متفق ہو گئے اور پھر تیسری بار مصحف ام کے مطابق قرآن کریم لکھا جس میں سورۃ الفاتحہ اور معوذتین درج تھیں۔ مگر اس بار آپ کا حضرت ابوبکرؓ کے جمع کردہ صحیفہ سے اتنا فرق ضرور تھا کہ یہ صحیفہ آپؐ نے اپنی پسند کی قراءت پر لکھا تھا۔ (عبد الصمد صارم الازہری: تاریخ القرآن، ایڈیشن 1985 ندیم یونس پرنٹرز لاہور، پبلشرز: مکتبہ معین الادب اردو بازار لاہور صفحہ 81)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مقام اور مرتبہ اور خدمت قرآن کے ضمن میں آپؐ کی کوششوں کو مد نظر رکھنے سے دل میں پیدا ہونے والی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں جو بھی اچھا مکان ہو سکتا ہے وہی سوچا جائے۔ آپؐ دن رات قرآن کریم کی درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے اور باقاعدہ ایک نظام کے تحت اپنے تلامذہ کو سند سے بھی نوازتے تھے۔ گویا ایک مدرس یا پروفیسر کی طرح آپؐ تعلیم قرآن کے فریضہ سے وابستہ رہے۔ آپؐ کے اخلاص اور ایمان کا اظہار اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ آپؐ گلی سے گزر رہے تھے کہ آپؐ کے کانوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ۔ آپؐ وہیں گلی میں بیٹھ گئے اور بچے کی طرح زمین پر بیٹھے بیٹھے گھسٹ گھسٹ کر مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ کسی نے آپؐ سے اس طرح گھسٹ کر آگے بڑھنے کا سبب پوچھا تو فرمانے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ اُس نے کہا کہ یہ حکم آپؐ کے لیے تو نہیں تھا تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر اسی حالت میں میری جان نکل جاتی تو؟ میں اپنے مولیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سنا اور اطاعت نہیں کی۔ پس کیسے ممکن ہے کہ اس بلند مرتبہ ایمان کا صحابی قرآن کریم کے معاملہ میں دانستہ کوئی غلط بات سوچ بھی سکے؟

آج غبی اور شقی القلب معترض زبان طعن تو دراز کرتا ہے لیکن اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے یہ اختلافات ختم کر لیے اور باقی امت کے ساتھ متفق ہو گئے۔ بصورت دیگر ہرگز مصحف ام کے مطابق اپنا نسخہ قرآن نہ تحریر کرتے اور اپنے اختلاف پر قائم رہتے۔ صحابہ رسول تو حفاظت قرآن کریم کے لیے کٹ مرنے کو تیار رہتے تھے اور اس معاملہ میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی سبب نہ تھا کہ وہ نہ سمجھتے کہ یہ ممکن تھا۔ چنانچہ ساری اسلامی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ان تمام تاریخی حقائق پر مجموعی نظر ڈالنے سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حفاظت قرآن کے معاملہ میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے معاملہ میں اگر روایات میں مکمل تفصیلات بیان ہیں اور کچھ بھی کمی نہیں ہے تو بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عدم علم کی وجہ سے اور قرآن کی محبت اور غیرت میں نیز حفاظت قرآن کے لیے ایک ایسے حکم کا انکار کر بیٹھے جو سراسر بھلائی کا تھا۔ اس کا قرآن کریم کی حفاظت پر کیا اثر پڑا؟ ہاں یہ صحابہؓ کے بیہوشانہ عشق

قرآن اور حفاظتِ قرآن کے معاملہ میں بے پناہ غیرت پر دلیل ہے۔ پس حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اگر اختلاف کیا تو غیرتِ ایمانی کے جذبہ سے کیا اور اگر سر تسلیم خم کیا تو عشقِ قرآن اور اطاعتِ خلافت کے جذبہ سے۔ اسی طرح صحیفہ اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اختلافِ مصاحف کے ضمن میں بہت بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ابن وراق کو بھی اعتراض ہے کہ حضرت اُبی بن کعبؓ نے صحیفہ میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی تھی۔ مگر آج قرآن کریم کے شائع کیے جانے والے نسخوں میں باقی سورتوں کی طرح ان دونوں سورتوں کے درمیان بھی بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔

حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کتابتِ وحی کے وقت غلطی ہو گئی تھی اور بسم اللہ تحریر ہونے سے رہ گئی مگر باقی کاتبین اور حفاظ صحابہ کا اتفاق تھا سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے درمیان بسم اللہ ہے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ سورتیں ہیں۔ اور حضرت اُبی بن کعبؓ نے کبھی اصرار نہیں کیا کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھنی چاہیے بلکہ اس معاملہ میں بالکل خاموش ہیں۔ گویا خاموش رہ کر اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں۔ پس اس اعتراض کا جواب تو یہ سوال ہی ہے کہ شخص واحد سے غلطی سرزد ہونا زیادہ قرین قیاس ہے یا کل امت سے؟ جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی ہوا اور تمام امت نے مجموعی طور پر اس صحیفہ کے استناد پر گواہی دی تو اس کے بعد کسی ایک شخص کی غلطی کی کیا اہمیت ہے؟ کیا آپ کو اصرار تھا کہ آپؐ درست ہیں اور باقی صحابہ غلطی پر ہیں؟ ہرگز نہیں!! مستشرقین کا معاملہ تو مدعی سست گواہ چست والا ہے۔ پس یہ اعتراض تو بالکل ہی بے حیثیت ہے۔ علاوہ ازیں لوگ عام طور ایک غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مستشرقین بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا اُس دور میں بھی قرآن کریم کے ورژن (Version) ہوا کرتے تھے۔ اُس دور کو آج کے حالات پر قیاس کر لیا جاتا ہے حالانکہ اُس دور میں کوئی نسخہ پریس میں تو نہیں چھپتا تھا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن کریم کا فلاں ورژن ہے اور یہ فلاں۔ جو نسخہ حضرت اُبی بن کعبؓ سے منسوب تھا وہ صرف ایک نسخہ تھا۔ اس میں اگر کوئی غلطی راہ پا گئی تھی تو صرف ایک نسخہ میں یہ غلطی تھی۔ اس سے یہ مراد تو نہیں کہ حضرت اُبی بن کعبؓ کے نسخہ سے کی جانے والی نقول میں ہمیشہ اہتمام کیا جاتا کہ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے درمیان بسم اللہ لکھی ہی نہ جائے۔ پھر جب قرآن کریم کو حضرت ابو بکرؓ کے عہدِ خلافت میں جمع کیا گیا تو کیا اس وقت حضرت ابیؓ نے کوئی اعتراض کیا؟ نہیں!!! بلکہ آپؐ بھی امت کے ساتھ شامل تھے اور مصحف ام کے استناد پر باقی امت سے متفق تھے۔ جب آپؐ کو کوئی اعتراض نہیں تو ابن وراق کو کیا تکلیف ہے؟ اس اعتراض کے جواب میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اُبی بن کعبؓ، اس میں کوئی شبہ نہیں، کہ اُن چار آدمیوں میں سے تھے جن کے متعلق

رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قراءت ہے اگر کسی شخص نے قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھے۔ لیکن جہاں یہ درست ہے وہاں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ابی ابن کعبؓ ویسے ہی غلطی کر سکتے ہیں جیسے کوئی اور شخص غلطی کر سکتا ہے۔ ہم اپنے پاس سے ایک مضمون بنا کر لکھتے ہیں لیکن اُس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کہیں ”ہے“ رہ جاتا ہے، کہیں ”کا“ کی جگہ ”کی“ لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں کوئی اور غلطی ہو جاتی ہے۔ کاتب قرآن کریم لکھتے ہیں تو باوجود اس کے کہ بعض بڑے بڑے مشاق کاتب ہوتے ہیں پھر بھی ان سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کسی جگہ پر غلطی سے ابی ابن کعب کو خیال نہ رہا ہو اور وہ ان دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھنا بھول گئے ہوں۔ جبکہ قرآن کریم کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے اُس میں ان دونوں سورتوں کو الگ الگ لکھا ہوا ہے اور ان کے درمیان بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور قرآن کریم کا یہ نسخہ ایسا ہے جس کی ترتیب میں صرف ابی ابن کعب نے ہی کام نہیں کیا بلکہ بہت سے اور صحابہؓ نے بھی جن کا رتبہ قراءت میں حضرت ابی ابن کعب سے کم نہ تھا کام کیا تھا۔ چاروں قراء نے مل کر اس میں حصہ لیا ہے اور باقی سارے صحابہؓ نے بھی مل کر حصہ لیا ہے۔ جو نسخہ ان ساروں نے مل کر لکھا ہے یہ صاف بات ہے کہ وہ زیادہ احتیاط سے لکھا ہوا ہوگا۔ پھر ابی ابن کعب کے نسخہ میں تو غلطی کا امکان ہے کیونکہ کسی نے اُس پر بحث نہیں کی لیکن اس پر بحثیں کی گئی ہیں اور صحابہؓ نے اس کے متعلق اپنی شہادتیں اور گواہیاں دی ہیں۔ کوئی سورۃ نہیں لکھی گئی، کوئی آیت نہیں لکھی گئی، کوئی زیر اور زبر نہیں لکھی گئی جس کے متعلق دو قسم کی شہادتیں نہیں لی گئیں۔ ایک یہ کہ تحریر موجود ہو۔ دوسرے یہ کہ زبانی گواہ موجود ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ یہ کتنی بڑی محنت ہے اور کتنی بڑی احتیاط کا ثبوت ہے۔ زبانی گواہی کو نہیں مانا گیا جب تک اُس کے ساتھ تحریری شہادت نہ ہو اور تحریری شہادت کو نہیں مانا گیا جب تک اُس کے ساتھ زبانی گواہ نہ ہوں۔ گویا تحریر بھی موجود ہو اور زبانی گواہ بھی موجود ہوں تب کسی سورۃ یا آیت کو قرآن کریم میں شامل کیا جاتا اور یہ زبانی گواہ بھی بعض دفعہ سینکڑوں تک ہوا کرتے تھے صرف ایک دو آیتیں ایسی ہیں جن کے متعلق صرف دو دو گواہ ایسے ملے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ لیکن باقی ساری آیتیں اور سورتیں ایسی ہیں جن میں کسی کے بیس، کسی کے پچاس اور کسی کے سو گواہ تھے اور بہت سے حصوں کے ہزاروں گواہ موجود تھے۔ بہر حال وہ شہادت جو رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کی تحریر سے ثابت ہوتی تھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے املاء اور لکھوانے ثابت ہوتی تھی۔ پھر زبانی گواہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے رسول کریم سے ایسا سنا یا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا پڑھا ہے، وہی قطعی اور یقینی سمجھی جاتی تھی اور اسی قسم کی شہادتوں کے بعد ہی قرآن کریم میں کوئی آیت شامل کی جاتی تھی پس وہ نسخہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اور جس میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کو الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ یہ خود اپنی ذات میں اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ یہ دونوں سورتیں الگ الگ ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے طور پر قرآن کریم لکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسورتوں کے درمیان بسم اللہ اُس سے غلطی سے رہ جائے۔ پس یہ کوئی دلیل نہیں جو پیش کی گئی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اس منفی دلیل کے علاوہ ایسی مثبت دلیل بھی موجود ہے کہ سورۃ قریش سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس کے الگ سورۃ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور وہ یہ ہے کہ تمام مؤرخین اور تمام قراء اور تمام ماہرین فن صحابہؓ سے متفقہ طور پر یہ بات ثابت ہے کہ صرف ایک سورۃ البراءۃ ایسی ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اس شہادت کے دینے والوں میں خود اُبی بن کعب بھی شامل ہیں۔.... اور کوئی سورۃ نہیں جس سے پہلے بسم اللہ نہ ہو تو اگر اُبی ابن کعب نے اپنے نسخہ قرآن میں سورۃ قریش سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی تو یہ بات خود تو اتر کے خلاف ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اُن سے غلطی ہوئی۔

(تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 84، 85 تفسیر القریش: 2)

اسی طرح ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اُبی بن کعب کے صحیفہ میں دوسورتیں درج تھیں جو آج شائع ہونے والے قرآن کریم کے نسخوں میں درج نہیں کی جاتیں۔ ان میں ایک تو وہ دُعا ہے جو دعائے قنوت کے نام سے امت میں معروف ہے۔ دوسری دراصل ایک دعائے ختم القرآن ہے۔

یہ صرف ایک وسوسہ ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ نہ حضرت اُبی کا اور نہ کسی اور صحابی کا یہ دعویٰ ملتا ہے کہ یہ دوسورتیں ہیں اور متن قرآن کا حصہ ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہدِ خلافت میں مصحفِ ام کی تیاری کے وقت ان دوسورتوں کا کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عثمانؓ کے دور میں ہونے والی تدوین میں حضرت اُبی ابن کعبؓ بھی شامل تھے۔ لیکن کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپؓ نے کہیں ایسا کہا ہو کہ یہ دوسورتیں ضرور شامل کی جائیں۔ اسی طرح اُس دور میں کوئی صحابی ایسا نہیں ملتا کہ جو یہ اصرار کرتا ہو کہ اُبی کے صحیفہ میں دوسورتیں زائد ہیں جو مصحف الامام میں درج نہیں کی گئیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو حضرت اُبی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ سورتیں متن قرآن کا حصہ

ہیں اور نہ ہی دیگر صحابہ ان کو متن قرآن کا حصہ سمجھتے تھے۔ یہ صرف دعائیں تھیں جو آنحضرتؐ نے سکھائیں تھیں۔
ورنہ ضرور ان سورتوں کو بھی قرآن کریم میں درج کیا جاتا۔

اختلاف مصاحف کے ضمن میں ان کا دکا فرقوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے مختلف تھی مگر انہوں نے بعد میں اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ دوسرا اختلاف دراصل اختلاف تھا ہی نہیں بلکہ تحریر کی ایک غلطی تھی جس پر کاتب وحی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اصرار کرنا تو درکنار یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میری رائے ہے بلکہ خاموش رہ کر اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اسی طرح دوسری دو دعاؤں کے بارہ میں بھی نہ آپؐ نے اور نہ کسی اور صحابی نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ بھی متن قرآن کا حصہ ہیں بلکہ حضرت ابیؓ نے تاحیات امت کے متفقہ طرز عمل کے مطابق اپنا نمونہ قائم کیا۔

پھر ان دونوں اصحاب کے اختلاف کی کیا اہمیت ہو سکتی جبکہ یہ دونوں اصحاب آپس میں بھی متفق نہ تھے۔ نہ حضرت ابیؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے متفق تھے کہ معوذتین اور سورۃ الفاتحہ نسخہ قرآن میں درج نہیں کرنی چاہئیں اور نہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابیؓ کے نسخہ میں درج دو دعائیں متن قرآن کا حصہ ہیں۔ سورۃ فیل اور سورۃ قریش کے درمیان بسم اللہ نہ لکھنے پر تو کسی صحابی کو اصرار نہیں تھا، حضرت ابی بن کعب کو بھی نہیں۔

یہ اختلاف تو اس وقت بالکل ہی بے حیثیت ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے صحابہؓ کی گواہی لی تھی کہ جو قرآن کریم ان کی نگرانی میں ضبط تحریر میں لایا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو رسول کریم سے امت نے سیکھا ہے، اس وقت یہ تمام تر مصاحف موجود تھے۔ بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ صحابہ جنہوں نے رسول کریمؐ سے قرآن کریم حفظ کیا ہو یا جن کے پاس ایسی تحریرات وحی موجود ہوں جو رسول کریمؐ کے زیر نگرانی یا آپؐ کے حضور پیش کر کے مستند بنائی گئی ہوں تو دو گواہوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ پس یہ بہت عظیم الشان گواہی تھی کہ وہ سب صحابہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے روبرو قرآن کریم لکھایا آپؐ سے حفظ کیا، یا اپنے حفظ اور تحریر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حضور پیش کر کے اس کی تصدیق کروالی تھی وہ آج پورے اطمینان سے یہ گواہی دے رہے تھے کہ یہ قرآن کریم وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ پس اس وقت حضرت ابیؓ کا یہ دوسریں مصحف ام میں درج نہ کروانا اور صحابہ میں سے کسی کا ان دو سورتوں کو پیش نہ کرنا بتاتا ہے کہ یہ سورتیں تھیں ہی نہیں۔ حضرت عبداللہؓ کا اختلاف اور حضرت ابیؓ کا صحیفہ اسی صورت میں قابل توجہ ہوتا اگر کچھ صحابہؓ ان کے حق میں ہوتے اور جس طرح مصحف ام پر صحابہ کا اجماع تھا ان تبدیلیوں کے حق میں کم از کم کچھ صحابہؓ تو گواہی دیتے۔ مگر پورے اطمینان اور خاموشی سے متفق ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ صحابہؓ کو مصحف ام سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔

اختلاف قراءت

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کثرت سے حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں کی آسانی اور قرآن کریم کی کثرت اشاعت کی غرض سے خدا تعالیٰ کی اجازت سے ایک سے زائد قراءتوں پر قرآن کریم کی اشاعت کی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے عہد خلافت میں عالم اسلام کو دوبارہ ایک قراءت پر جمع کر دیا۔ مستشرقین کی طرف سے بہت شد و مد کے ساتھ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں قرآن کریم کے مختلف ورژن رائج تھے اور بہت اختلاف ہو گیا تھا۔ پھر حضرت عثمانؓ نے ایک متن تیار کروا کر بطور مرکزی متن شائع کروایا اور باقی سب جلوادیے۔

مستشرقین کے اس دجل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قراءت دراصل چیز کیا ہے۔ عام طور پر ترتیل اور لحن کے ساتھ تلاوت کرنے کو قراءت سمجھا جاتا ہے۔ مگر جو مسئلہ اختلاف قراءت کے عنوان سے زیر بحث ہے اس سے صرف لحن یا لہجہ کا فرق مراد نہیں بلکہ ایک دوسرا فرق بھی مراد ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 'حرف' کے لفظ سے بیان فرمایا ہے۔ آپؐ نے فرمایا اَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْرَافٍ فَاَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ (بخاری کتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن علی سبعة حروف) یعنی قرآن کریم سات حروف میں نازل ہوا ہے پس جیسے آسانی ہو، پڑھ لیا کرو۔

'قراءت کے فرق' سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ قرآنی آیات مختلف ہیں۔ اس حقیقت کو بہتر طور پر صرف عربی دان ہی سمجھ سکتا ہے کیونکہ یہ خصوصیت اپنی کامل شکل میں صرف عربی زبان میں ہی ہے اور کسی دوسری زبان میں نہیں پائی جاتی۔ عربی زبان کے الفاظ کے زیر اور زبر کوئی طرح جائز ہوتے ہیں لیکن معنی نہیں بدلتے۔ کسی حرف کے نیچے زیر لگائیں تب بھی جائز ہوتا ہے اور اگر اُس پر زبر پڑھیں تب بھی جائز ہوتا ہے اور معنی ایک ہی رہتے ہیں۔ کبھی تو یہ عام قاعدہ کے طور پر فرق ہوتا ہے یعنی علمی زبان میں اس لفظ کو کئی طرح بولنا جائز ہوتا ہے اور بعض موقعوں میں یہ فرق قبائل کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے یعنی بعض قبائل یا بعض خاندان ایک لفظ کو زیر (—) کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے مُنہ پر زبر (—) چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ فرق بعض حروف کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ ایک علاقہ کے لوگ ایک حرف نہیں بول سکتے اور اس کی جگہ دوسرا حرف بولتے ہیں اور کبھی یہ فرق الفاظ میں بھی ہوتا ہے۔ ایک قبیلہ ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتا تھا جبکہ دوسرا قبیلہ اُسی لفظ کا استعمال دوسرے معنی میں کرتا تھا۔ گویا ایک قبیلہ ایک لفظ سے کچھ اور مراد لیتا تھا اور دوسرا قبیلہ اُسی لفظ کے کچھ اور معنی کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی معنوی حفاظت اور کثرت اشاعت کی غرض

سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مختلف قبائل کو اپنے قبیلہ کی زبان اور لغت کے مطابق پڑھنے کی اجازت دیدیتے تھے۔ قراءتوں کے حوالہ سے ابن وراق نے بھی اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہے:

We need to retrace the history of the Koran text to understand the problem of variant versions and variant readings,...

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg 108)

یعنی ہمیں مختلف versions اور مختلف قراءتوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی تاریخ کو دوبارہ کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ پھر کہتا ہے:

The seven [versions] refer to actual differences in the written and oral text., to distinct versions of Quranic verses, whose differences, though they may not be great, are nonetheless real and substantial.

(op. cit.110)

یعنی سات قراءتوں کا مسئلہ قرآن کی تحریر اور تلاوت میں ایک حقیقی اختلاف کی نشان دہی کرتا ہے۔ قرآنی آیات کی قراءتوں کا اختلاف جو کہ بظاہر بڑا نہیں ہے مگر تاہم حقیقی اور بنیادی نوعیت کا ہے۔

تاریخ تو ہم کھنگال چکے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اختلاف قراءت کے مسئلہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فرق اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق تھا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيَّ حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ
(بخاری کتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة)

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے ایک حرف پڑھا اور میں اس سے

اس پر مزید وسعت طلب کرتا رہا اور وہ بڑھاتا رہا یہاں تک کہ سات حروف پڑھا کر بات ختم ہوئی۔

پس اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو خدائے قدیر قرآن کریم کی حفاظت کا ضامن تھا، قراءت کا فرق اسی خدا کی اجازت اور منشا کے مطابق تھا۔ اس فرق کی اجازت کی حقیقت اور افادیت کیا تھی اور یہ اجازت دینے میں کیا حکمت کار فرما تھی یہ تمام امور تاریخ اسلام میں بہت واضح انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کی ہی ایک دوسری روایت ہے:

حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات

مبارکہ میں ایک صحابی ہشام بن حکیم بن حزام (رضی اللہ عنہ) کو سورۃ الفرقان کی تلاوت کرتے سنا۔ میں نے غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے انداز میں پڑھ رہے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں پڑھایا۔ میں ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا اور مجھے ان کی نماز کے اختتام تک بہت صبر سے بیٹھنا پڑا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کو ان کی چادر سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ جو سورۃ میں نے ابھی آپ سے سنی ہے یہ آپ کو کس نے پڑھائی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ رسول کریم نے پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم غلط کہتے ہو کیونکہ رسول کریم نے مجھے بھی پڑھائی ہے اور وہ اس طرح نہیں ہے۔ پس میں انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور عرض کی کہ میں نے انہیں قرآن کریم اس انداز میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھایا۔ اس پر رسول کریم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور کہا اے ہشام پڑھو۔ پھر میں نے بھی اسی طرح تلاوت کی جس طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ اس پر رسول کریم نے فرمایا کہ اس طرح بھی نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ قرآن کریم سات حروف میں نازل ہوا ہے پس جیسے آسانی محسوس کرو، پڑھ لیا کرو۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن علی سبعة حروف)

پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک مرتبہ جب قراءت کا اختلاف جھگڑے کی صورت میں سامنے آیا تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا۔ چنانچہ بخاری میں ذکر ملتا ہے:

حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو ایک آیت اس انداز میں پڑھتے ہوئے سنا جس سے مختلف انداز میں میں نے رسول کریم کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ میں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں درست ہو اور فرمایا کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ ہلاک ہوئے۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن باب اقرئوا القرآن ما ائتلف قلوبکم)

قراءت کے اس فرق کی ماہیت کے بارہ میں صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے ایک حدیث مروی ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأَنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَي حَرْفٍ فَرَجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَي سَبْعَةَ أَحْرَفٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ فِي الْحَلَالِ وَلَا الْحَرَامِ

(مسلم کتاب صلاة المسافرين و قصرها باب بيان ان القرآن علی سبعة أحرف ...)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے ایک حرف پر قرآن

پڑھایا میں اس سے مزید کے لیے کہتا رہا اور وہ بڑھاتا رہا یہاں تک کہ سات حروف تک جا کر بات ختم ہوئی۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ اس سے معنی میں فرق نہیں ہوتا تھا اور حلال اور حرام (یعنی نفس مضمون) میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔

اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قراءتیں جن پر مستشرقین اور پادریوں نے اپنے اعتراضات کی بڑی بھاری بنیاد رکھی ہے۔ وہ درحقیقت صرف عرب کی مختلف اقوام کے لہجوں کا فرق تھا اور اس قسم کے فرق عربی زبان میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ عرب قوم مختلف آزاد زبانوں کے اندر گھری ہوئی تھی۔ عرب کا ایک پہلو حبشہ کے ساتھ ملتا تھا۔ دوسرا پہلو ایران کے ساتھ ملتا تھا۔ تیسرا پہلو یہودیوں اور آرمیوں کے ساتھ ملتا تھا اور چوتھا پہلو ہندوستان کے ساتھ ملتا تھا۔ ایسے مختلف زبانوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی زبان لازماً ان زبانوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض عرب بعض حروف کو ادا کر سکتے تھے اور بعض دوسرے ان حروف کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔ مثلاً بعض ز کی جگہ ل ادا کرتے تھے اور بعض دفعہ کسی لفظ کے ادا کرنے میں مشکل محسوس کر کے اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ استعمال کر لیتے تھے۔ اگر ایک ادیب اپنی کتاب میں ان دونوں لفظوں کا پڑھنا جائز رکھے تو دونوں قوموں کے لیے اس کتاب کا پڑھنا آسان ہو جائیگا۔ مگر دوسری صورت میں ایک حصہ قوم کو اس کا پڑھنا آسان ہوگا اور دوسرے حصہ قوم کو اس کا پڑھنا مشکل ہوگا اور اگر وہ اسے پڑھے گی بھی تو اپنے اختیار سے پڑھے گی مصنف کی اجازت سے نہیں پڑھے گی۔ قرآن کریم نے اس مشکل کو یوں حل کیا کہ جتنے اختلافات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم مقام حروف یا قائم مقام الفاظ تجویز کر دیے جس کی وجہ سے تمام اقوام عرب آسانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر قادر ہو گئیں۔ یہ چونکہ ایک بالکل اچھوتا اور نیا طریق تھا اور قرآن کریم سے پہلے کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا اس لیے لوگوں پر شروع شروع میں یہ بات شاق گزرتی تھی اور ہر فریق سمجھتا تھا کہ قرآن میرے قبیلہ کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ دوسرا قبیلہ اگر لہجہ بدل کر یا حرف بدل کر کسی آیت کو پڑھتا ہے تو وہ گویا قرآن کریم میں تحریف کرتا ہے۔ اس لیے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بار بار سمجھانا پڑی۔ جب لوگ سمجھ گئے تو انکو معلوم ہوا کہ یہ عیب نہیں۔ نہ معنوں میں اس سے کسی قسم کا تغیر پیدا ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو معانی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔..... بعض لوگ بعض حروف پوری طرح ادا

نہیں کر سکتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قراءتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت دے کر ان تمام اختلافات کو مٹا دیا۔ اس طرح قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب بن گئی جس کو مختلف لہجہ رکھنے والے عرب بھی آسانی سے پڑھ سکتے تھے اور وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کتاب ہماری زبان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاقروا ما تیسر منہ یعنی جو طریق تم پر آسان ہو اس کے مطابق پڑھو۔ اگر ان حروف کے بدلنے یا زیر زبر کے بدلنے سے معانی میں فرق پڑتا تو آپ یہ کیوں فرماتے کہ جس طریق پر پڑھنا تمہیں آسان ہو، اس طریق پر پڑھ لو۔ یہ فقرہ صاف بتاتا ہے کہ قراءتوں کا تعلق صرف تلفظ کے ساتھ ہے معانی کے ساتھ نہیں اور اگر کسی جگہ تلفظ سے کوئی وسعت بھی پیدا ہوتی ہے تو اصل معنوں میں فرق نہیں پڑتا۔ اصل حکم وہی رہتا ہے جو قرآن کریم دینا چاہتا ہے۔“

(تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 414 زیر تفسیر سورۃ الفرقان نوٹ نمبر 1)

مندرجہ بالا سطور میں بیان فرمودہ حقائق کو مزید وضاحت کی غرض سے الگ الگ دیکھتے ہیں۔

فرق حرکات (اعراب)

قراءت کا یہ فرق کبھی صرف زیر زبر کے فرق سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان حرکات (اعراب) کے تغیر سے معنوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صرف آسانی کے لیے ہے کہ جس قوم کو جس حرکت سے پڑھنے میں آسانی ہو سکتی ہے وہ اُس سے پڑھ لیتی ہے۔ مثلاً قریش اور اسد کی زبان میں یائے مضارع کو زبر (—) کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور چند دیگر قبائل زیر (—) کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے یَفْعَل کو یَفْعَل۔

فرق حروف

اختلاف قراءت کی ایک شکل ادائے حروف کے فرق کی صورت میں تھی۔ پروفیسر عبدالصمد صارم الازہری اپنی کتاب تاریخ القرآن میں اختلاف قراءت میں ادائے حروف کے اختلاف کے بارہ میں لکھتے ہیں:

یہ اختلاف صرف ادائے حروف میں تھا۔ اس سے معنی و مطلب پر کچھ اثر نہیں پڑتا تھا۔ اہل یمن ”س“ کو ”ت“ سے بدل دیتے تھے۔ بجائے ”الناس“ کے ”النات“ بولتے تھے۔ معنی وہی تھے، اور ”ک“ کو ”ش“ سے بدلتے تھے۔ بجائے ”کلام“ کے ”شلام“ بولتے تھے۔ قبیلہ ہذیل ”ح“ کو ”ع“ سے بدل دیتے تھے اور حٹی کو ”عٹی“ بولتے تھے۔

قبیلہ حمیر لام تعریف کو میم سے بدل دیتے تھے۔ بجائے الشمس و القمر کے الشمس

و امقمر بولتے تھے۔ قبیلہ قضاہ 'ی' (یائے مشدودہ یا مخففہ یا مفتوحہ۔ ناقل) 'کوج' سے بدل دیتے تھے۔ 'عشی' کی جگہ 'عشیج' بولتے تھے۔ ہاں اس زمانہ میں اس اختلاف سے معنی میں کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہندوستان میں دہلی والے 'قلم' بولتے ہیں پنجاب والے 'کلم'۔ حیدرآباد والے 'خلم'۔ معنی ایک ہی ہے۔ (عربی اور دوسری زبانوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری زبانوں میں بولنے میں تو مختلف ہوتا ہے مگر لکھنے میں ایک طرح لکھا جاتا ہے۔ مگر عربی میں لکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے) اس قسم کے الفاظ جن کے اختلاف کی یہ مثالیں نقل کی گئی ہیں، جب غیر ممالک و اقوام میں پہنچتے اور کچھ زمانہ گزر جاتا تو کیا ہوتا؟ مصحف عثمانی سے بعض صحابہؓ کے اس اختلاف کی مثال حدیث میں بتائی گئی ہے۔ قریش تا بوقت بولتے تھے اور زید بن ثابت تا بوہ کہتے تھے۔

(عبدالصمد صارم الازہری: تاریخ القرآن، ایڈیشن 1985 ندیم یونس پرنٹرز لاہور، پبلشرز:

مکتبہ معین الادب اردو بازار لاہور صفحہ 81، 82)

اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلاً

بنو تمیم لفظ کے پہلے 'ء' کو 'ع' سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے 'اسلم' کو 'عسلم'

بنو ہذیل 'ح' کو 'ع' سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے 'حرب' کو 'عرب'

بنو قضاہ لفظ کی آخری 'ی' کو 'ج' سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے 'تمیمی' کو 'تییح'

بنو سعد 'ع' کو 'م' سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے 'اعطی' کو 'امطی'

عام عربی میں 'گ' نہیں بولتے مگر بنو تمیم 'گ' بولتے ہیں۔ اور اہل مصر عام طور پر حرف 'ج' کو حرف 'گ' سے بدل کر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ 'ثلج' کو 'ثلگ' کہتے ہیں اور 'جمیل' کو 'گمیل' کہتے ہیں۔

ربیعہ اور مصر مؤنث میں 'ک' خطاب کے بعد 'ش' بڑھادیتے ہیں جیسے 'علیک' کو 'علیکش'

پھر حمیری زبان والے الفاظ کو کسی قدر کھینچ کر ادا کرتے ہیں جیسے 'یا ابن العم' کو 'یا بن معم'

اسی طرح شمالی اور جنوبی عرب میں اختلاف کی ایک شکل یہ ہے کہ شمالی عرب میں علامت جمع 'ن' ہے جبکہ

جنوبی عرب میں 'م' ہے۔ اسی طرح شمالی عرب میں حرف تعریف 'ا' ہے جبکہ جنوبی عرب میں 'م' ہے۔

شمالی اور جنوبی عرب کی زبانوں میں حروف کے ادائیگی کے اختلاف کی وضاحت عربی عبارت کی اس مثال

سے ہو جاتی ہے:

جنوبی عرب	وہم	واجہو	بنو کلبت	هقنوا	المقه
شمالی عرب	وہب	واخوه	بنو کلبہ	اقنوا	المقه

جنوبی عرب	ذمرن	ذن	مزندن	حجن	وقهہو
شمالی عرب	ذامران	ذا	اللوح	لانه	وقاهم
جنوبی عرب	بمسالہو	لوفیہم	وسعدہم	نعمہ	
شمالی عرب	بماسالوہ	ووفاہم	واسعدہم	منہ	

(ارض القرآن از سید سلیمان ندوی۔ دارالاشاعت کراچی حصہ دوم صفحہ 352)

اختلاف لغت

اختلاف قراءت کی ایک شکل ایسی ہے جس میں ایک ہی لفظ مختلف قبائل میں مختلف معنوں میں رائج ہوتا ہے۔ چنانچہ شمالی اور جنوبی عرب کی زبانوں میں ایک جیسے الفاظ کے معانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مثلاً

لفظ	جنوبی عرب	شمالی عرب
ذو	بادشاہ	والا (ذوالقرنین: سینگوں والا)
بیت	قلعہ	گھر
مصر	شہر	مستقل آبادی خواہ گاؤں ہو یا شہر

(ارض القرآن از سید سلیمان ندوی۔ دارالاشاعت کراچی حصہ دوم صفحہ 354)

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک امیر عورت رہا کرتی تھی جس کا ایک یمنی ملازم تھا۔ وہ عورت حقہ کی عادی تھی۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ حقہ کا وہ حصہ جس میں پانی ہوتا ہے شیشہ کا بنایا جاتا ہے اور اسی نسبت سے اسے شیشہ ہی کہتے ہیں۔ اس عورت نے اپنے ملازم سے کہا کہ ”غیر الشیشة“ ملازم نے پہلے تو اپنی طرف سے وفاداری سے کام لیتے ہوئے اپنی مالکہ کو پورے ادب کے ساتھ حکم واپس لینے کی درخواست کی۔ مگر پھر مالکہ کے ناراض ہونے پر کہ وہ کیوں اس کا حکم نہیں مانتا ملازم نے باہر جا کر حقہ کا شیشہ توڑ دیا۔ اس پر مالکہ نے اسے برا بھلا کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ملازم حیران تھا کہ اس نے تو پہلے ہی ایسا حکم ماننے میں پس و پیش کی مگر مالکہ کے ناراض ہونے پر اسے حکم ماننا پڑا۔ اب جب حکم مان لیا ہے تو مالکہ پھر ناراض ہو رہی ہے۔ اس پر ایک واقف کار نے بتایا کہ تم اسی ججازی زبان میں کہ رہی ہو کہ غیر الشیشة۔ یعنی حقے کا پانی بدل دو اور یمنی میں اس کا مطلب ہے کہ شیشہ توڑ دو۔ پس اس نے وہی کیا جو وہ سمجھا تھا۔ (تفسیر کبیر جلد نہم صفحہ 49 زیر آیت الہیل: 4)

پس اگر ایک قبیلہ کے سامنے دوسرے قبیلہ کی زبان بولی جاتی تو سمجھنے میں مشکل کا امکان ہوتا تھا۔ یا پھر معانی بدل جانے کا امکان ہوتا تھا۔ چنانچہ اس قسم کے قبائلی لغوی اختلافات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریک بین نظر

نے بھانپ لیا اور جب جوق در جوق عرب کے مختلف قبائل حلقہ بگوشِ اسلام ہونے لگے تو آپؐ نے قرآن کریم کی معنوی حفاظت اور کثرت اشاعت کے لیے الہی منشاء اور اجازت کے تحت قرآن کریم مختلف قراءتوں میں سکھایا تاکہ مختلف عرب قبائل اپنی اپنی آسانی کے مطابق قراءت اختیار کر لیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس ہوں اور تاکہ قرآن کریم کی تعلیمات کی کثرت سے اشاعت ہو جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ قرآن کریم کی تفہیم اور درست تفسیر کے لیے قراءت ایک اہم ذریعہ ثابت ہونے لگی۔ چنانچہ اسی فائدہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسری قراءت کو حدیث صحیح کے قائم مقام قرار دیا۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 410)

چنانچہ اس قسم کے لغوی اختلاف کو بھی مخالفین اور مستشرقین اپنی جہالت سے یاد دھوکہ کی غرض سے سادہ لوح لوگوں کو بہکانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے لیے اور نئے عربی مسلمانوں کی آسانی کے لیے عین مناسب تھا کہ ابتداء میں ہر قبیلہ کو اس کی زبان کے معانی کے مطابق قرآن کریم کے وہ الفاظ جو ان کے لیے سمجھنے یا ادا کرنے میں مشکل تھے یا ان کے قبیلہ میں ان الفاظ کے معانی ان معانی سے مختلف تھے جن معانی میں یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہو رہے تھے تو ان الفاظ کے مترادف الفاظ سکھا دیے جاتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی اجازت اور منشاء کے تحت ایسا ہی کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نو مسلم عرب میں قرآن کریم کی تعلیم اتنی سرعت سے نہ پھیلتی جتنی سرعت سے پھیلی۔

گزشتہ سطور میں درج روایات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کو حفاظت قرآن کا کس قدر خیال تھا اور کس توجہ سے وہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے اور کس طرح چھوٹی سی چھوٹی اونچ نیچ بھی فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رپورٹ کی جاتی تھی۔ پھر یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مختلف قراءتوں میں تلاوت کی اجازت دینے کی وجہ محض یہ تھی کہ عربوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں آسانی مہیا کی جائے۔ جہاں بھی اختلاف کی صورت پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا وہاں صحابہ فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ لے لیتے۔ رسول کریم قراءتوں کے اختلاف کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ اختلاف کرنے سے روکتے تھے۔ کیونکہ عربی ماحول میں یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف قراءت کے حوالہ سے یہ حقیقت بھی مد نظر رہنی ضروری ہے کہ اس کی اجازت اس وقت دی گئی جس وقت تک تقریباً مکمل قرآن کریم نازل ہو چا چکا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی تحریری صورت میں اور حفظ کے ذریعہ محفوظ ہو چکا تھا۔ اس اجازت کے بعد بہت قلیل حصہ نازل ہوا۔ اگر ہم حتمی طور پر اس اجازت کے وقت کی تعیین کرنا چاہیں تو سب سے پہلے تو یہ مد نظر رکھنا ضروری ہوگا کہ کئی دور میں اختلاف قراءت کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا۔ چنانچہ کئی دور میں اسلام قبول کرنے والے کبار صحابہ، مثلاً حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ نے اختلاف قراءت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدنی دور میں فیصلہ لیا تھا اور ان

واقعات کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اس اجازت سے بالکل نابلد تھے اور اس پر بہت حساس رویہ دکھایا تھا۔ مدنی دور میں یہ اجازت کب ہوئی اس کا بہت محتاط اندازہ حضرت عمرؓ کے حوالہ سے تاریخ میں مذکور اختلاف قراءت والی روایت سے آسانی سے لگایا جاسکتا ہے۔ حضرت عمر کو پہلی مرتبہ اختلاف قراءت کا علم حضرت حکیم بن ہشام بن حزامؓ کے سورۃ الفرقان کی تلاوت کرنے سے ہوا۔ یہ نہایت مستند اور معتبر روایت ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں درج ہے۔ حضرت حکیم بن ہشام بن حزامؓ نے نو ہجری میں اسلام قبول کیا۔ اس معلوم ہوا کہ یہ واقعہ نو ہجری کے بعد کا ہے جب کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں اختلاف قراءت کا مسئلہ آیا۔ اب تاریخ اسلام سے واقف شخص جانتا ہے کہ حضرت عمرؓ ہمہ وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور یہ ناممکن تھا کہ قرآن کریم کے حوالہ سے کسی نئی بات کا آپ کو دیر سے علم ہوتا۔ پس یہ واقعہ لازماً اس اجازت کے فوراً بعد کا ہی ہے۔ نیز یہ بھی مد نظر رہے کہ حضرت حکیم بن ہشام بن حزامؓ کے قبول اسلام کے فوراً بعد اگر آپؓ سے تلاوت قرآن کریم میں کسی قسم کی غلطی ہوتی تو بطور نو مسلم حضرت عمرؓ آپ سے نرمی کا رویہ اختیار کرتے مگر ایسا نہیں ہوا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کے قبول اسلام سے کافی بعد کا ہے۔ اس پر ایک قرینہ یہ بھی قائم ہوتا ہے کہ سورۃ الفرقان لمبی سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ پس حضرت حکیم بن ہشام بن حزام کو اسلام قبول کیے ہوئے اتنی دیر ضرور ہو چکی تھی کہ آپؓ نے قرآن کریم کی یہ لمبی سورت یاد کر رکھی تھی۔ بہر حال زیادہ سے زیادہ اس اجازت کا زمانہ نو ہجری ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور قرین قیاس ہے کہ نو ہجری کے بھی کافی بعد یہ اجازت ہوئی ہو لیکن اس سے پہلے نہیں۔ یعنی ساڑھے بائیس سال سے زائد عرصہ نزول میں سے اکیس سال سے زائد عرصہ تک ایک ہی قراءت میں پڑھا جاتا تھا اور ان اکیس سالوں میں تقریباً سارا قرآن کریم نازل ہو چکا تھا۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے عرب کے مختلف قبائل کی لغات میں بے شک فرق تھا اور اس وجہ سے قرآن کریم کی قراءت میں فرق کرنے کی اجازت بہت معقول لگتی ہے مگر حضرت عمرؓ اور حضرت حکیم بن ہشامؓ کے اختلاف کا تعلق اس اجازت سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حضرت عمرؓ اور حضرت حکیم بن ہشامؓ، دونوں ایک ہی قبیلہ کے تھے اور ان دونوں کی زبان میں یہ فرق نہیں ہو سکتا۔ پس ان دونوں کے اختلاف کا قراءت کے فرق سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اختلاف قراءت کی اجازت اُس وقت ہوئی جب کہ کثرت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے۔ اُسی دور میں حضرت حکیم بن ہشامؓ نے بھی اسلام قبول کیا۔ پس عین ممکن ہے کہ آپؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس وقت سورۃ الفرقان سیکھی ہو جب کہ آپ کسی دوسرے قبیلہ کے مسلمان ہونے والوں کو سکھا رہے ہوں۔

پھر یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف قبائل کے کثرت سے قبول اسلام اور مدینہ میں ان کے نمائندوں کے کثرت سے

اجتماع کی وجہ سے ایک قبیلہ کی لغت کو کوئی دوسرے قبیلہ کا شخص سیکھ جائے۔ حج کے دنوں میں تو سارے عرب کے قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے اس لیے قریش کے لوگوں کی دوسرے عرب قبائل کی لغات سے واقفیت کوئی اچھنبے کی بات نہیں اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت حکیم بن ہشام اپنے قبیلہ کی لغت کے ساتھ ساتھ دوسرے کسی قبیلہ کی لغت کے بھی ماہر ہوں۔

حضرت عمرؓ نے بھی قرآن کریم کے حوالہ سے حساس رویہ دکھایا۔ روایت سے کوئی ایسا نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ آپؓ اُس لغت سے واقف ہی نہ ہوں۔ ہاں اس رویہ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت آپؓ اس اجازت سے واقف نہ تھے۔ گویا یہ اجازت اس واقعہ کے تھوڑا پہلے ہی ہوئی تھی۔ عین ممکن ہے کہ یہ اجازت ایک دن پہلے ہوئی ہو۔ کیونکہ روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمرؓ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپؓ نے ایک اور صحابیؓ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایک دن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر رہیں گے اور حضرت عمر کو اُس دن کے واقعات سے آگاہ کریں گے اور ایک دن حضرت عمرؓ پیارے آقا کی صحبت میں رہیں گے اور اُن صحابیؓ کو اہم واقعات سے آگاہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے جس دن اختلاف قراءت کی اجازت ہوئی ہو اُس دن دوسرے صحابیؓ کی باری ہو اور یا تو وہ اپنی باری والے روز رسول کریم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے ہوں اور یا پھر اُن کی حضرت عمرؓ سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ واللہ اعلم۔ پس حضرت عثمانؓ نے اپنے دور میں بوجہ اس اختلاف کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا اور استثنائی حالات میں آسانی کی خاطر دی گئی اس اجازت کو موقوف کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ طریق فائدہ مند تھا اور سب سے بڑھ کر منشاء الہی کے مطابق تھا تو پھر کیوں بعد میں اس انداز کو ختم کر دیا گیا؟

اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں اسلام عرب اور غیر عرب بہت سے علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ حضرت عثمانؓ کے دور تک تو مختلف قبائل اپنی اپنی قراءت میں آسانی سے قرآن کریم کی درس و تدریس اور اشاعت کر لیتے تھے۔ مگر جب مختلف قبائل کے لوگ آپس میں ملتے تو ان میں سے وہ جو دوسرے قبیلہ کی زبان کا گہرائی سے علم نہیں رکھتے تھے، الجھ جاتے اور سمجھ بیٹھتے کہ گویا قرآن کریم کی غلط تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے آتا تو آپؓ سمجھا دیتے اور اس بارہ میں اختلاف کرنے سے منع فرماتے۔ لیکن حضرت عثمانؓ کے دور میں کثرت اختلاف اور نو مسلم عربوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے یہ بہتر سمجھا گیا کہ اب ایک قراءت ہونی چاہیے۔ پھر اختلاف قراءت کو ختم کرنے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ بہت سی دوسری اقوام کے اسلام قبول کرنے کے باعث قرآن کریم عرب کے قبائل سے باہر نکل کر عالمی تعلیم کے طور پر رائج ہو رہا تھا اور غیر عرب نو مسلموں کے لیے اختلاف قراءت کے باعث قرآن کریم سیکھنا دشوار تھا اور نہ صرف دشوار تھا بلکہ عربوں کی نسبت زیادہ غلط فہمی کا امکان تھا

اور مخالفین بھی اپنے مزوم مقاصد میں اس غلط فہمی کو استعمال کر سکتے تھے۔ اس طرح مختلف قراءتوں کا جو مقصد تھا یعنی آسانی اور کثرت اشاعت، وہ فوت ہو گیا تھا۔ اب تک تو حفاظت قرآن کے حوالہ سے صحابہ حساس رویہ دکھاتے مگر اب بہت سے عرب ایسے تھے جو نو مسلم ہونے کی وجہ سے اعلیٰ اسلامی اخلاق پر کار بند نہ تھے اور بجائے مقصد کی طرف دیکھنے کے قبائلی عصبیت کی بنا پر اختلاف شروع کر دیتے۔ چنانچہ جو کام آسانی کے لیے شروع کیا گیا تھا وہ اپنا مقصد کھورہا تھا اور مشکل پیدا کر رہا تھا اور ایک سے زیادہ قراءتیں قرآن کریم کے بارہ میں امت مسلمہ کے اتفاق اور اتحاد کے لیے خطرہ بن گئی تھیں۔ پس اب اختلاف قراءت میں قبیلوں کی لغات کا اختلاف آسانی کا سبب کم بن رہا تھا اور نقصان کا اندیشہ زیادہ تھا۔ لوگوں کی توجہ بجائے اس مقصد کے حصول کی طرف ہونے کے، جس کی خاطر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا، اختلاف کی طرف ہو رہی تھی اس لیے اس اختلاف کو ختم کر دیا اور مرکزی قراءت قریش کی تمام عالم اسلام میں رائج کر دی گئی۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو وجہ قراءت کے فرق کو روانہ دینے کی بنی اب وہی وجہ اس فرق کو ختم کرنے کی بھی بنی۔ یعنی پہلے ہم تعلیم قرآن میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اجازت دی گئی اور اب آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ اجازت واپس لے لی گئی۔ پس حضرت عثمانؓ نے صحابہؓ کے مشورہ سے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قرآن کریم کے بارہ میں امت کی زبان کو بھی وحدت پر جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ آپؐ نے جب مصحف ام کی قراءت واحدہ پر امت کو جمع کرنے کے لیے صحابہؓ سے رائے لی تو سب نے کہا کہ آپ کی رائے بہترین ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن جلد 9)

چنانچہ حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہؓ کے پاس محفوظ مصحف ام، جو حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت میں صحابہ کی گواہی سے جمع کیا گیا تھا اور جس پر تمام امت کو اطمینان تھا، قریش کے طرز تحریر کے مطابق شائع کر دیا۔ (بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن) اور اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں کیا۔ چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید میں ایک حرف کی تبدیلی بھی روا نہیں رکھتا۔ (بخاری کتاب التفسیر باب والذین یتوفون و یذرون منکم ازواجاً) آپؐ نے مصحف ام سے سات صحائف تیار کرائے ایک اپنے پاس رکھا اور باقی چھ نسخے بلاد اسلامیہ میں پھیلا دیے اور ان کے ساتھ ایک ایک قاری بھی بھیجا جو ان علاقوں میں ایک انتظام کے تحت لغت قریش کے مطابق قرآن کریم کی تعلیم دیتا۔

اس متن کو اب مرکزی سمجھا گیا اور باقی تمام صحائف ایک نظام کی نگرانی میں ضائع کر دیے گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کریم کے مستند نسخے انہی مصاحف کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں:

لو لم یصنعه لصنعتہ

(کتاب المصاحف الجزء الاول صفحہ 12)

یعنی اگر حضرت عثمانؓ ایسا نہ کرتے تو پھر میں ایسا کرتا۔

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”اے لوگو! عثمانؓ کے بارہ میں غلو سے بچو۔ یہ نہ کہو کہ انہوں نے قرآن کریم کو جلایا۔ بخدا انہوں نے اسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی سے جلایا۔ انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا اور پوچھا کہ تم قرآن میں اختلاف قراءت کے بارہ میں کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا آپ کی کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایک قراءت والے مصحف پر جمع کر دوں کیونکہ آج اگر تم اختلاف میں پڑ گئے ہو تو تمہارے بعد لوگ اس سے زیادہ اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا آپ کی رائے ہی بہترین رائے ہے اور ہمیں اس سے اتفاق ہے۔“

(فتح الباری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن جزء 9)

(ابی عبداللہ الزنجانی: تاریخ القرآن زیر عنوان القرآن فی عہد عثمان صفحہ 46)

یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مصحف ام کس قراءت پر لکھا گیا تھا؟ مصحف ام اور مصحف الامام کی قراءت ایک ہی تھی یا مختلف قراءتیں تھیں؟

مصحف ام لغت قریش پر لکھا گیا تھا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو ہم مذکورہ بالا حوالہ کی طرف قاری کی توجہ مبذول کرواتے ہیں جہاں حضرت عثمانؓ کا یہ قول درج ہے کہ ”میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایک قراءت والے مصحف پر جمع کر دوں“ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مصحف ام کی ایک ہی قراءت تھی اور وہ لامحالہ قراءت قریش تھی۔ اس ضمن میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ اختلاف قراءت کی اجازت صرف تلاوت سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فقروا ما تیسر منه (جس طرح آسانی ہو اس طرح پڑھو) اس امر کی دلیل ہے۔ آنحضرت نے کتابت کے بارہ میں نہیں فرمایا تھا کہ جس طرح آسانی ہو لکھ لو صرف تلاوت کے بارہ میں فرمایا کہ جس طرح آسانی ہو اس طرح پڑھ لو۔ لکھنے کے بارہ میں تو اس قدر احتیاط تھی کہ ایک مرتبہ حکم تحریرات جلوادیں۔ نو ہجری کے لگ بھگ جب یہ اجازت دی گئی تو تقریباً سارا قرآن کریم تحریر اور حفظ کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی لغت قریش محفوظ کیا جا چکا تھا۔ پس لازماً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی عرصہ کے دوران نازل ہونے والی آیات بھی اسی قراءت میں لکھوائی ہوں گی۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ قرآن کریم کی تحریر میں اختلاف قراءت ہوگا تو یہ نو ہجری کے بعد نازل ہونے والی چند آیات کی تحریر میں ہوگا۔ لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ باقی قرآن کریم کی طرح نو ہجری کے بعد نازل ہونے والی آیات بھی آپ نے لغت قریش میں ہی لکھوائی تھیں۔ چنانچہ نزول کے حساب سے جو سب سے آخری آیت ہے وہ آج کے دور میں لغت قریش کے مطابق شائع ہونے والے نسخہ ہائے قرآن کریم میں اسی طرح پائی جاتی ہے جس طرح نزول کے فوراً بعد آنحضرت کے دور میں لکھی گئی۔ حضرت ابو بکرؓ نے جو نسخہ تحریر کروایا اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تحریر کی گئی یا آپ سے تصدیق شدہ

تحریرات ہی بنائی جائیں۔ پھر حضرت عمرؓ نے مصحفِ ام کی تیاری کے وقت یہ نصیحت بھی فرمائی تھی کہ خاندانِ مضر کی لغات پر قرآن کریم تحریر کیا جائے۔ (کتاب المصاحف جزء اول صفحہ 11) قریش خاندانِ مضر کی ہی ایک شاخ تھی اس لیے مصحفِ امام کی تیاری کے وقت زیادہ اختلاف بھی نہیں ہوا اور حضرت عثمانؓ نے مصحفِ ام کو بعینہ نقل کر دیا۔ چنانچہ مستند اور معتبر روایات کے مطابق حضرت عثمانؓ نے مصحفِ ام سے جو صحیفہ تیار کروایا اس میں صرف ایک اختلاف ہوا تھا جو کہ ایک لفظِ تابوت کی محض طرزِ تحریر کا اختلاف تھا۔ اس اختلاف کے بارہ میں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کاتبِ وحی حضرت زیدؓ اور باقی صحابہ کا اختلاف تھا یا اس نئے نسخہ کا مصحفِ ام سے اختلاف تھا۔

ایک اور بہت مضبوط قرینہ اس بات پر کہ مصحفِ ام لغتِ قریش پر تھا یہ ہے کہ جب حضرت عثمانؓ نے مصحفِ الامام کی تیاری کے بعد باقی صحائف جلانے کا حکم دیا تو مصحفِ ام جلانے کی چنداں ضرورت نہ سمجھی۔ اگر مصحفِ ام کا مصحفِ امام سے اختلاف تھا تو پھر رفعِ اختلاف کی خاطر دیے گئے حکم کے تحت باقی صحائف کے ساتھ مصحفِ ام کو بھی جلا دینا چاہیے تھا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مصحفِ ام لغتِ قریش پر ہی تحریر کیا گیا تھا تو حضرت عثمانؓ نے قراءتِ واحدہ پر جمع کرنے کے لیے جو ہدایات دیں ان میں یہ بھی ہدایت دی کہ اگر کسی لفظ کے بارہ میں اختلاف ہو تو پھر قریش کی لغت پر لکھ لو۔ (بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن) اس سے کیا مراد ہے؟

اس ضمن میں عرض ہے کہ اس سے مراد اندازِ تحریر کا اختلاف ہے۔ مصحفِ امام کی تیاری کے لیے حضرت عثمانؓ نے جو کمیٹی بنائی اس میں حضرت زیدؓ مدنی تھے اور باقی صحابہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زیدؓ کا اندازِ تحریر اور قریش کا اندازِ تحریر مختلف تھا اور قرآن کریم قریش کی لغت میں نازل ہوا تھا اس لیے اس کا اندازِ تحریر قریش کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی عربی میں کوئی اختلاف ہو تو قریش کی عربی پر لکھو۔ اب جب کامِ کتابت کا ہو رہا تھا تو پھر اس ہدایت کا تعلق بھی کتابت سے ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جو ایک اختلاف ہوا وہ بھی اسی امر کا مؤید ہے کہ یہ ہدایت اسلوبِ تحریر کے انداز کے حوالہ سے تھی۔ اختلاف یہ تھا کہ لفظ ”تابوت“ حضرت زیدؓ کے قبیلہ کی زبان میں بجائے ”ت“ کے ”ث“ کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ جب یہ اختلاف ہوا تو حضرت عثمانؓ نے فیصلہ فرمایا کہ تابوت لکھا جائے کیونکہ قریش ”ت“ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جب مصحفِ امام تیار ہو گیا تو حضرت عثمانؓ نے اس کا جائزہ لینے کے بعد فرمایا کہ اگر املاء کروانے والا والا ہذیل قبیلہ کا ہوتا اور لکھنے والا بنو ثقیف کا ہوتا تو جو فرق رہ گئے ہیں وہ بھی نہ رہتے۔ اس فرمان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرق صرف تحریر کے تھے۔ مستند روایات میں اکا دکا اختلاف کا ذکر ملتا ہے اور سب غیر مستند روایات کو بھی شمار کر لیا جائے تو ان کے مطابق حضرت عثمانؓ کے صحیفہ میں اس طرح کی کل بارہ تبدیلیاں کی گئیں جو سب کی سب ایسی ہی معمولی لفظی تبدیلیاں تھیں جن سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔

پس مصحفِ ام لغتِ قریش پر تحریر کیا گیا تھا اور حضرت عثمانؓ نے اس کی نقول تیار کراتے وقت یہ خیال رکھنے کی ہدایت فرمائی کہ گو مصحفِ ام لغتِ قریش پر ہے مگر چونکہ حضرت زید قریشی نہیں ہیں اس لیے اسلوبِ تحریر میں فرق ہو سکتا ہے۔ پس باقی صحابہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اسلوبِ تحریر بھی قریش کا ہی ہو۔

حضرت عثمانؓ نے جو نقول کروائیں ان کا حضرت حفصہؓ کے پاس محفوظ اصل نسخہ سے کبھی کوئی اختلاف ثابت نہیں ہوا حالانکہ حضرت حفصہؓ کا نسخہ حضرت عثمانؓ کے زمانے کے بہت بعد مروان بن عبد الملک کے دور تک رہا۔ اس دور میں مخالفوں کا اور حفاظ کا اور دوسرے علماء کا کوئی اختلاف نہ کرنا بتاتا ہے کہ قرآن کریم کا متن بعینہ وہی تھا جو حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ کے جمع کردہ مصحفِ ام کا تھا اور جس کے بارہ میں صحابہ کی متفقہ گواہی موجود تھی کہ یہ نسخہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع کو دیا تھا۔

مصحفِ ام کی تیاری کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ہر لفظ کو اس طرح تحریر کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ قراءتیں متن میں سمودی جائیں۔ پس آج کے دور میں امت مسلمہ میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی اشاعت کے وقت اس کا متن مصحفِ ام کے عین مطابق ہو اور لفظ کو بعینہ اسی طرح انہی حروف کے ساتھ درج کیا جائے جس طرح حضرت عثمانؓ کے دور میں مصحفِ ام یا اس سے تیار کی گئی نقول میں درج کیا گیا تھا۔ پس حضرت عثمانؓ نے اس صحیفہ کو لاگو کر دیا جس پر امت حضرت ابوبکرؓ کے دورِ خلافت میں متفق ہوئی تھی۔ اب امت کی ذمہ داری تھی کہ جس صحیفہ کی انہوں نے متفقہ طور پر تصدیق کی تھی کہ یہ وہ قرآن ہے جو رسول کریمؐ سے انہوں نے سیکھا تھا، اس کو اختیار کریں اور مختلف قراءتوں کو جو کہ اختلاف کا سبب بن رہی ہیں، چھوڑ دیں کیونکہ جس فائدہ کے لیے وہ اختیار کی گئیں تھیں وہ فائدہ اب نہیں رہا تھا بلکہ اب نقصان کا اندیشہ تھا۔ پس حضرت عثمانؓ نے اس کے سوا کوئی نیا کام نہیں کیا تھا۔

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ فرماتے ہیں:

”لوگ حضرت عثمان کو جامع القرآن بتاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ صرف عثمانؓ کے لفظ کے ساتھ قافیہ ملا یا ہے۔ ہاں شائع کنندہ قرآن اگر کہیں تو کسی حد تک بجا ہے۔ آپ کی خلافت کے زمانہ میں اسلام دُور دُور تک پھیل گیا تھا۔ اس لیے آپ نے چند نسخہ نقل کرا کر مکہ، مدینہ، شام، بصرہ، کوفہ اور بلاد میں بھجوا دیئے تھے اور جمع تو اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہوئی ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا تھا اور اسی پسندیدہ ترتیب کے مطابق ہم تک پہنچایا گیا۔ ہاں اس کا پڑھنا اور جمع کرنا ہم سب کے ذمہ ہے۔“

(ضمیمہ اخبار بدر قادیان۔ 4 اپریل 1912ء بحوالہ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ 272)

اختلافِ قراءت کے ضمن میں یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح میں جو الفاظ یا جملے بیان

فرماتے تھے انہیں اُس فرق سے الگ رکھنا چاہیے جسے حضرت عثمانؓ نے ختم فرمایا۔ وہ دراصل تشریحات تھیں جو صحابہ درس و تدریس کے دوران لوگوں کو قرآن کریم کے معانی سکھانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ صحابہ کی زبان کیونکہ عربی تھی اس لیے لازماً تشریح بھی عربی میں ہی کیا کرتے تھے۔ ان تفسیری حواشی کو بھی صحابہ قراءت کا نام ہی دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں صحابی کی قراءت ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ فلاں صحابی کی تفسیر ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برأیه میں مجاہد کا قول درج ہے کہ:

عن الاعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة بن مسعود لم احتج

الی ان اسأل ابن عباس عن كثير مما سألت (رقم الحدیث: 2886)

یعنی اعمش کہتے ہیں کہ مجاہدؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

کی قراءت پڑھی ہوتی تو بہت سی باتیں جو مجھے ابن عباسؓ سے پوچھنا پڑیں نہ پوچھنا پڑتیں۔

اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ قراءت سے تفسیر بھی مراد ہوتی تھی اور صحابہ کا بھی تفسیر میں اختلاف رائے ہوا کرتا تھا۔ مستشرقین عدم علم یا دجل کی راہ سے اختلاف کے قراءت کے موضوع پر سوالات اٹھاتے ہوئے اس تفسیری اختلاف کو بھی پیش کر دیتے ہیں لیکن یہ صرف ان کی جہالت ہے یا پھر ان کا دجل جس سے ناواقف انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ پس یہ معاملہ واضح ہے اور صرف فریبی اور جھوٹا شخص ہی اس سے شبہ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور صرف ناواقف انسان ہی اس سے دھوکہ کھا سکتا ہے ورنہ قرآن کریم کی حفاظت کے بیان میں اختلاف قراءت کا باب کوئی رخنہ نہیں بلکہ ایک اضافی خوبی ہے جو ایک وقت تک قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی تعلیم کی اشاعت کے لیے عمومی طور پر استعمال میں لائی گئی اور جب اس کی افادیت سے زیادہ اس کا نقصان محسوس ہونے لگا تو اسے خوبی سے کام لینا چھوڑ دیا گیا۔ اہل علم اور محققین خواہ وہ کسی مذہب یا عقیدہ سے تعلق رکھتے ہیں اس بارہ میں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں۔ چنانچہ ایک مستشرق John Burton قراءت کے حوالہ سے مفصل بحث کے بعد اپنی تحقیق کے آخر پر لکھتا ہے:

"No major differences of doctrines can be constructed on the basis of the parallel readings based on the Uthmanic consonantal outline, yet ascribed to mushafs other than his. All the rival readings unquestionably represent one and the same text. They are substantially agreed in what they transmit..."

(John Burton, The Collection of the Qur'an, Cambridge: Cambridge University Press, 1977, p. 171)

یعنی (حضرت) عثمانؓ کے مصحف کے متوازی مختلف قراءتوں کے چلنے سے اعتقادی طور پر کوئی بڑا اختلاف ممکن نہیں تھا اور تمام دوسری قراءتیں بلاشبہ ایک ہی متن کی نمائندگی کرتی

تھیں۔ یہ مکمل طور پر ایک متفقہ مضمون آگے منتقل کرتی تھیں۔
 ویلیم میور کی یہ گواہی بہت سچی اور کھری ہے کہ:

No early or trustworthy traditions throw suspicion upon Othman of tempering with the Coran in order to support his own claim..... At the time of the recension, there were still multitudes alive who had the Coran, as originally delivered, by heart; Both of these sources must have proved an effectual check upon any attempt of suppression.

(W Muir, The Life Of Mohammad, 1912, Edinburgh Pg: 558-559)

کسی بھی پرانی اور معتبر روایت سے ذرہ بھر شک کرنے کی وجہ پیدا نہیں ہوتی کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے دعویٰ کی تائید میں قرآن شریف میں ایک ذرہ بھی تصرف کیا ہو۔..... حضرت عثمانؓ کے تدوین قرآن کے وقت ابھی ہزار ہا ایسے حفاظ صحابہ زندہ تھے جنہوں نے وقت نزول سے ہی قرآن شریف کو سن کر حفظ کر لیا ہوا تھا..... یہ دونوں ذرائع ایسی جسارت یا تصرف کو ثابت کرتے اور مؤثر انداز میں اس کی روک تھام کرتے۔

اسی طرح کہتا ہے:

The recension of 'Uthman has been handed down to us unaltered. So carefully, indeed, has it been preserved, that there are no variations of importance, - we might almost say no variations at all, - amongst the innumerable copies of the Koran scattered through out the vast bounds of empire of Islam. Contending and embittered factions, taking their rise in the murder of 'Uthman himself within a quarter of a century from the death of Muhammad have ever since rent the Muslim world. **Yet but ONE CORAN has always been current amongst them....** There is probably in the world no other work which has remained twelve centuries with so pure a text.

(W Muir, The Lfe Of Mohammad, 1912, Edinburgh, John Grant, pp. xxii-xxiii.)

حضرت عثمانؓ کے عہد میں کی جانے والی تدوین ہم تک بلا رد و بدل پہنچی ہے۔ یقینی طور پر اتنی احتیاط کے ساتھ محفوظ کی گئی ہے کہ تحریف کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ ہم شائد حتمی طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وسیع اسلامی سلطنت کی حدود میں شائع ہونے والے صحائف میں کوئی ادنیٰ سی تبدیلی بھی نہیں ہوئی۔ محمد (ﷺ) کی وفات سے لے کر عثمان (رضی اللہ عنہ) کی شہادت تک عالم اسلام بہت

مشکل ادوار سے گزرا لیکن ہمیشہ مسلم دنیا میں ایک ہی قرآن رائج رہا... اس دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا متن بارہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنا محفوظ ہو جتنا قرآن کا ہے۔

یہ بھی بات ذہن میں رکھی جانے والی ہے کہ حضرت عثمانؓ پر نام نہاد مسلمان مخالفین کی طرف سے بہت سے مطاعن کیے جاتے رہے مگر اس دور میں جبکہ آپ تمام عرب کو قرآن کریم کی ایک قراءت پر اکٹھا کر رہے تھے تو کسی عرب نے خواہ وہ مخالف تھا یا موافق آپ کے اس فعل پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ قرآن کریم میں تحریف کی جا رہی ہے۔ قابل غور بات ہے کہ حضرت علیؓ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان کا فعل جو صحابہ کے مشورہ اور اتفاق رائے سے کیا گیا بہت صحیح تھا اور پھر حضرت علیؓ سے جنگ کے وقت حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی کبھی یہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ آپ کے نزدیک وہ قرآن درست ہے جو باقی امت مسلمہ کے نزدیک قابل اعتراض ہے۔ اور تو اور خارجی بھی اسی قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے اس کے مطابق فیصلے کا مطالبہ کرتے۔

حضرت عثمانؓ نے اپنے دورِ خلافت میں جب صحابہ کے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ امت کو ایک قراءت پر جمع کر دیا جائے اور یہ حکم جاری کیا کہ تمام عرب لغت قریش پر جمع کیے اس قرآن کریم پر اکٹھا ہو جائے جو حضرت ابوبکرؓ کے دورِ خلافت میں صحابہ رسول کی نگرانی میں تیار کیے گئے نسخہ سے تیار کیا جا رہا ہے اور باقی نسخے جلا دیے جائیں۔ تو اس مرتبہ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ حکم پسند نہیں آیا اور آپ نے اپنی پسند کی قراءت والے اپنے صحیفہ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریحی فرمودات بھی درج کیے ہوئے تھے جبکہ نبی وجوہ نزاع کو تو ختم کیا جا رہا تھا لیکن کچھ عرصہ بعد آپ متفق ہو گئے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

ان القرآن انزل علی نبیکم من سبعة ابواب علی سبعة احرف او حروف و
ان الكتاب قبلکم کان ینزل من باب واحد علی حرف واحد معناهما واحد
(ابن ابی داؤد: کتاب المصاحف الجزء الاول صفحہ 18)

قرآن کریم تمہارے نبی (ﷺ) پر سات دروازوں سے سات حروف پر نازل ہوا ہے۔ تم سے پہلے کتابیں ایک ہی حرف پر نازل ہوتی تھیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا جس میں قرآن کریم کا مضمون یا آیات ہی بدل جاتی تھیں۔ آپ صرف یہ فرماتے تھے کہ ایک علم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ کسی کے کہنے پر کیونکر چھوڑ دیں؟ بہر حال جب آپ پر حکمت واضح ہوئی تو اپنے نسخہ کو تلف کر دیا اور پھر چوتھی بار قرآن کریم تحریر کیا جو کہ لغت قریش کے مطابق تھا۔ یہ نسخہ آج بھی محفوظ ہے۔ (عبدالصمد صادم الازہری: تاریخ القرآن، ایڈیشن 1985 ندیم

یونس پرنٹرز لاہور، پبلشرز: مکتبہ معین الادب اردو بازار لاہور صفحہ 81)

یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کے دور میں حضرت عبداللہ جیسا صاحب ایمان شخص جو اپنی قراءت کو

مخض اس لیے نہیں چھوڑتا کہ یہ آپؐ نے حضرت رسول کریمؐ سے سیکھی ہے کسی دوسرے کے کہنے پر کیوں چھوڑ دیں کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی بات پر راضی ہو جاتا جو حفاظتِ قرآن کے معاملہ میں درحقیقت شک پیدا کرتی ہو؟ جمع قرآن کے بارہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے خلافِ راشدہ سے اختلافات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خلافِ راشدہ بہت غور و خوض کے بعد کسی حکمت کے تحت ایک حکم جاری کرتی تھی اور مستقبل میں سر اٹھانے والے ممکنہ خطرات کو بھانپتے ہوئے حفاظتِ قرآن کے ضمن میں جو اقدام کیے، جیسے جیسے آپؐ پر ان اقدامات کی حکمتیں کھلتی چلی گئیں آپؐ تسلیم کرتے چلے گئے۔

علاوہ ازیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی دوسرے صحابہ کتابتِ قرآن کا فریضہ سرانجام دے رہے تھے اور پوری احتیاط برتی جا رہی تھی تو اس کے مقابل پر ایک صحابیؓ کے ذاتی اور نامکمل کام کو پیش کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگرانی میں بھی نہیں تھا، کس اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ ہمیں حضرت ابن مسعودؓ کے کام کی اہمیت اور ان کی عظیم الشان خدمتِ قرآن سے انکار نہیں۔ مطلب صرف یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی اور باہتمام خاص ہونے والے کام کے مقابل پر، اور صحابہؓ کے متفقہ اور اجماعی فیصلہ کے برخلاف اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خصوصاً جبکہ عرب معاشرہ میں لکھنے کا رواج نہیں تھا تو اس صورت میں ان مصاحف کا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی تیار ہونے والے مصاحف اور حفاظ کے حفظ کے مقابل پر کوئی فرق ہو تو اس کو اس کے سوا اور کیا حیثیت دی جاسکتی ہے کہ اسے ایک ایسی غلطی سمجھا جائے جس پر ابتداء میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ مصر تھے لیکن بعد میں اپنی غلطی کا اقرار کر لیا۔

مرکزی صحائف کے علاوہ تمام صحائف تلف کرنے کا حکم صحابہ کی متفقہ رائے اور اجماع سے کیا جا رہا تھا۔ پس اُس وقت صحابہ رسولؐ کا ایک مرتبہ پھر متفق ہونا یہ بتاتا ہے کہ انہیں اطمینان تھا کہ آج اسی قرآن کریم پر امت کو جمع کیا جا رہا ہے جس پر حضرت ابو بکرؓ کے دور میں امت پورے اطمینان سے جمع ہوئی تھی اور کسی قسم کی تحریف نہیں ہو رہی۔ نہ ہی اس دور کے اہل زبان مخالفین اسلام کی طرف سے یہ اعتراض ہو، کہ جس قرآن کی حفاظت کا خدائی وعدہ تھا اس میں آج تحریف کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہؓ اور مخالفین دونوں گروہ پوری طرح باخبر تھے اور جانتے تھے کہ یہ معاملہ تحریف کا نہیں بلکہ حفاظت کا ہے اور قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اختلافِ قراءت کے بارہ میں آج ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بزبان رواۃ سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہیں اور حضرت عثمانؓ کی اس خدمت کے اسی یا سو سال یا اس سے بھی بعد تحریری صورت میں اکٹھی کی گئیں ہیں۔ محققین نے تحقیق اور تدقیق سے اس ذخیرہ روایات میں مستند روایتوں کی کھوج کی۔ کچھ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ قراءتوں کو کھوجنے کے شوق میں غلط روایات کو بھی اپنا لیا۔ آج اختلافِ قراءت کے بارہ میں مستند روایات کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے قرآن کریم بلا رد و بدل ہم تک پہنچا ہے اور غیر مستند روایات

جن پر بددیانت مخالفین اسلام اپنی تحقیق کی بنیاد رکھتے ہیں قابلِ اعتنا نہیں ہو سکتیں۔ لطف یہ کہ ان غیر مستند روایات سے بھی یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ قرآن کریم میں کوئی تحریف ہوئی ہے۔

یہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ مختلف قراءتیں حفص اور ورش وغیرہ تو اب بھی جاری ہیں۔ پھر حضرت عثمانؓ نے کون سا اختلاف ختم کیا۔ تو اس ضمن میں عرض ہے کہ علم القراءت ایک بہت وسیع علم ہے۔ اس میں باعث اختلاف حصہ کو ختم کر کے قبیلہ قریش کی لغت پر اٹھا کیا گیا۔ ورش کی موجودگی محافظت قرآن کے مخالف نہیں اور اتنی ضروری بھی نہیں۔ آج تلاوت قرآن میں لحن اور لہجہ کا فرق پایا جاتا ہے۔ اسے بھی اگر قراءت ہی کا فرق سمجھا جائے تو اس فرق کو ختم نہیں کیا گیا اور نہ ہی ختم کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس کی موجودگی اختلافات کا سبب نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا واضح ارشاد تھا کہ قرآن کو عربوں کے انداز میں پڑھو اور عربوں کے اختلاف لغت کے علاوہ ہر قبیلہ کا اپنا لہجہ اور پڑھنے کا اپنا انداز تھا۔ پس وہ لہجے اور انداز آگے بڑھے۔ لغت کے اختلاف کا ذکر آج صرف کتب میں پایا جاتا ہے اور ان لغات کے مطابق قرآن شائع نہیں کیے جاتے بلکہ مصحف عثمانی کے مطابق شائع کیے جاتے ہیں اور قرآن کریم کی لغت کا جو اختلاف تھا وہ اب صرف اس کے اخذ معارف و معانی میں بطور دلیل کے استعمال کیا جاتا ہے۔ پس آج جو اختلاف قراءت موجود ہے وہ لغت اور مختلف قبائل میں استعمال ہونے والے مختلف مگر ہم معنی الفاظ کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اس کی نوعیت دوسری ہے۔ وہ لحن اور حسن تلاوت وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی بنیاد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی راہنمائی پر ہی ہے چنانچہ روایات ملتی ہیں:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.

(سنن ابی داود کتاب الوتر باب استحباب الترتیل فی القراءۃ)

حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے انسؓ سے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی قراءت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ قِرَاءَةً يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - ثُمَّ يَقِفُ

(رواه الترمذی بحوالہ مشکاة المصابیح کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر ۲۲۰۵)

اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے آپ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھ کر توقف فرماتے پھر الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھتے اور توقف فرماتے۔

عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم فإذ أهدى تنعت قراءاً مفسراً حرفاً حرفاً۔

(رواه الترمذی و ابوداود والنسائی بحوالہ مشکاة المصابیح کتاب فضائل القرآن)

يَعْلَى بْنِ مَمْلُكٍ روايت کرتے ہیں کہ میں نے اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کے بارہ میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت، قراءت مفسرہ ہوتی تھی یعنی ایک ایک حرف کے پڑھنے کی سننے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی۔

یہ تو نمونہ کے طور پر چند روایات درج کی ہیں۔ ورنہ بہت کثرت سے روایات ملتی ہیں جن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت نے تلاوت قرآن کے ضمن میں اپنے اقوال اور سنت کے نور سے امت کی بہت تفصیل سے راہنمائی فرمائی۔ اس بارہ میں ہدایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور راہنمائی کو بنیاد بناتے ہوئے قراءت کی یہ شکل ایک باقاعدہ علم کی صورت میں آگے بڑھی۔ امت مسلمہ میں اس پر بہت کام ہوا اور ہر دور میں اس علم کے ماہرین موجود رہے ہیں۔ علم قراءت ایک وسیع علم ہے اور علماء اسلام نے اس پہلو سے اسے دیکھا کہ جیسے کلام اللہ اپنی جلالت سے انتہائی عظمت لیے ہوئے ہے اسی طرح کلمات اللہ کی وہی عظمت اور شان ہے۔ پس دیگر تمام قرآنی علوم و فنون کی طرح یہ علم فن بھی کچھ کم عظمت کا حامل نہیں ہے اس لیے اس فن میں ابتدا سے ہی عربی میں بہت سی کتب لکھی جاتی رہیں اور اس کے بھی ائمہ ہوئے۔ چنانچہ علامہ دانی اور علامہ شاطبی مشہور ائمہ ہیں۔ اس علم کو باقاعدہ سائنس کے طور پر آگے بڑھایا گیا۔ علوم قراءت پر ایک نظر اس نہج سے بھی ڈالنی چاہیے کہ اتنے وسیع علم کی بنیاد جو ڈالی گئی اور باقاعدہ سائنس کی شکل دی گئی تو اس معاملہ میں گہری تحقیقات سے مسلمان علماء نے کیا نتیجہ نکالا؟ آیا یہ سب علوم یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تبدیلی ہوئی ہے یا علماء اسلام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سب قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی اشاعت کا ایک بے نظیر انتظام تھا جو اور کسی کتاب کے لیے نہیں کیا گیا۔ اگر ان علوم سے یہ نتیجہ نکلتا کہ قرآن کریم میں تبدیلی ہوگئی ہے تو پھر ان علماء کا جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بستے اور ایک دوسرے کے اثرات سے بالکل آزادانہ علوم پر تحقیقات کرتے رہے، اسلام پر قائم رہنا اور مجموعی طور پر قرآن کریم کو غیر مبدل کلام الہی تسلیم کرنا اور اس یقین پر قائم رہنا کیسے ممکن ہے؟ علاوہ ازیں یہ بھی چاہیے تھا کہ ان علوم سے امت مسلمہ کو دور رکھا جائے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے اور آج قرآنی علوم میں علوم قراءت پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اگر اس علم سے قرآن کریم کی حفاظت پر سوال اٹھتے تو کیوں اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی؟ اور کیوں ان علوم کے حصول کے بعد لوگ سوال نہیں اٹھاتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان علوم میں خصوصی مہارت رکھنے والے قرآن کریم کے محفوظ ہونے پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح دوسرے مسلمان۔

اب ذرا ایک اور نمونہ ملاحظہ ہو کہ مستشرقین کس طرح دجل اور فریب کی راہ سے شکوک پیدا کرنے کی کوشش

کرتے ہیں۔ ابن وراق کہتا ہے:

Uthman's codex was supposed to standardize the consonantal text; yet we find that many of the variant traditions of this consonantal text survived well into the fourth Islamic century. The problem was aggravated by the fact the consonantal text was unpointed, that is to say, the dots that distinguish, for example, a "b" from a "t" or a "th" were missing. Several other letters (f and q; j, h, and kh; s and d; and z; s and sh; d and dh; t and z) were indistinguishable. As a result, a great many variant readings were possible according to the way the text was pointed (had dots added). The vowels presented an even worse problem. Originally, the Arabs had no signs for the short vowels --- these were only introduced at a later date. The Arabic script is consonantal. Although the short vowels are sometimes omitted, they can be represented by orthographical signs placed above or below the letters -- three signs in all, taking the form of a slightly slanting dash or a comma.

After having settled the consonants, Muslims still had to decide what vowels to employ: using different vowels, of course, rendered different readings.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg 109)

ابن وراق کہتا ہے: حضرت عثمانؓ کے صحیفے کو ابتدائی ملتے جلتے متنوں میں مرکزی حیثیت دی گئی۔ پھر بھی ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ بہت سے ملتے جلتے صحیفے چوتھی صدی ہجری تک محفوظ رہے۔ مگر یہ مشکل مزید گھناؤنی شکل اختیار کر جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ متن بے نقط تھا۔ یعنی حروف پر نقاط نہیں تھے۔ مثلاً حرف ”ب“ کو حرف ”ت“ سے جدا کرنے اور حرف ”ت“ کو حرف ”ث“ سے جدا کرنے والے نقطے نہیں تھے۔ بہت سے دوسرے الفاظ (”ف“ اور ”ق“؛ ”ج“؛ ”ح“ اور ”خ“؛ ”ذ“ اور ”ڈ“؛ ”ز“ اور ”ر“؛ ”س“ اور ”ش“؛ ”ذ“ اور ”ذ“؛ ”ط“ اور ”ظ“) میں امتیاز کرنا ناممکن تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب نقطے لگائے گئے تو بہت سی قراءتیں ممکن تھیں۔ پھر vowels کے معاملے میں زیادہ مشکل پیش آئی۔ دراصل عربی میں چھوٹے vowels کے لیے کوئی علامات تھیں ہی نہیں۔ یہ بعد میں ہی متعارف کروائے گئے۔ عربی تحریر متشابہ ہے۔ اگرچہ کئی vowels حذف کر دیے گئے مگر ان کی جگہ حرکات لگائی جاسکتی ہیں جو حروف کے اوپر یا نیچے ہوتی ہیں۔ یہ علامات ترچھی چھوٹی سی لکیر یا کومے کی شکل کی

ہوتی ہیں۔... الفاظ کو منتخب کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو ابھی vowels لگانے تھے اور مختلف vowels سے یقیناً مختلف قراءتیں بن جانی تھیں۔

اس جگہ بھی حسب معمول اعتراض کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اعتراض بنانے کے لیے اپنا اکلوتا ہتھیار یعنی دجل استعمال کرتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا اختلاف قراءت کی وجہ اعراب اور نکتے بنے حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اعراب اور نقاط 40 ہجری کی دہائی میں لگنے شروع ہوئے۔ اختلاف قراءت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پہلی مرتبہ نظر آیا تھا اور آپ نے ہی اس کا فیصلہ بھی فرمادیا تھا اور اسی فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے حضرت عثمانؓ نے 40 ہجری سے قبل ہی امت مسلمہ کو ایک مرکزی قراءت پر جمع کر کے اس اختلاف کو ختم کر دیا تھا۔ پس یہ کہنا کہ اختلاف قراءت کی وجہ اعراب اور نقطے تھے اس پختہابی کہاوت کی یاد دلاتا ہے کہ:

”ماں جمی نہیں؛ تے پُت ہیرے تے“

یعنی ابھی والدہ پیدا نہیں ہوئی اور اس کی طرف منسوب کر کے ایک بیٹا پیش کیا جا رہا ہے۔ اعراب اور نقطے وغیرہ اختلاف قراءت کے حل کے بہت بعد قریباً 40 ہجری کی دہائی میں بننے شروع ہوئے ہیں اور پھر ان کا ارتقاء ہوا ہے۔ پہلے اعراب لگائے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد حروف کے نقطوں کی باری آئی ہے۔ پس یہ کہنا کہ اعراب لگانے سے اختلاف قراءت ہوا ہے ایک واضح دجل ہے۔ ہاں اعراب لگانے سے غیر عرب مسلمانوں کے لیے عربی تحریر کا سمجھنا اور اختلاف قراءت کی حقیقت سمجھنا اور فرق کرنا آسان ہو گیا ہے۔

نیز یہ ذکر گزرا کہ حضرت عثمانؓ نے جو صحیفہ تیار کروایا اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ جہاں تک ممکن ہو لفظ اس طرح تحریر کیا جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قراءتیں سموی جائیں۔ اب علماء تفسیری نکتہ نظر سے اخذ معارف اور ہم قرآن کے لیے دیگر قراءتوں کو بھی زیر بحث لاتے ہیں لیکن مرکزی متن اور مرکزی قراءت ایک ہی ہے۔

دوسرا دجل یہ کر رہا ہے کہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ جس طرح انگریزی زبان میں vowels اگر نہ لگائے جائیں تو لفظ مکمل نہیں ہوتا اسی طرح عربی میں بھی vowels ابھی لگا کر لفظ مکمل کرنا باقی تھا۔ حالانکہ درحقیقت عربی زبان میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ عربی میں اعراب لفظ کے اندر نہیں لگائے جاتے۔ بلکہ علامات کی شکل میں حرف سے باہر لگائے جاتے ہیں اور ایسا زیادہ تر غیر عربی لوگوں کی آسانی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اہل زبان عربوں کے لیے بغیر اعراب کے عربی پڑھنا چنداں مشکل نہیں ہے۔ آجکل بھی عربی زبان کے چھپنے والے رسائل اور کتب میں اعراب نہیں لگائے جاتے۔ قرآن کریم میں خاص طور پر اس لیے یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم ساری دُنیا میں عربی زبان سے واقف یا ناواقف ہر مسلمان نے پڑھنا ہوتا ہے۔ پس اعراب کی وجہ سے ساری دُنیا میں غیر عرب بچہ بھی آسانی سے قرآن کریم کی درست اور صحیح تلاوت کرتا ہے۔

اسی طرح یہ کہنا کہ حروف پر نقطے نہیں ہوتے تھے اس لیے اختلاف قراءت ہوا، غلط ہے۔ ایک جیسے حروف

جیسے ”ذ“ اور ”ذ“؛ ”ز“ اور ”ز“؛ ”س“ اور ”ش“ وغیرہ کی طرزِ تحریر میں فرق تھا جس کو عرب بخوبی پہچانتے تھے اور پڑھنے والے بالکل صحیح پڑھتے تھے۔ نیز کثرتِ تلاوت اور حفاظ کی کثرت کی وجہ سے غلطی کا راہ پا جانا غیر ممکن تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب اس بات پر اتنی واضح اور قطعی شہادتیں اور تاریخی دلائل موجود ہیں کہ قرآن کریم وہ واحد مذہبی کتاب ہے جو ساتھ ساتھ ضبطِ تحریر میں آتی گئی، حفظ کی جاتی رہی اور جس نبی پر نازل ہوئی اسی کی نگرانی میں یہ سب کام سرانجام دیا گیا تو پھر تو کیوں ابن وراق نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم تحریری صورت میں محفوظ نہیں تھا اور یہ کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کو قرآن کریم جمع کرنے کی فکر ہوئی اور مختلف لوگوں نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق مختلف آیات اکٹھی کر لیں۔ پھر اب قراءت کے معاملہ میں دھوکہ دہی کی کوشش کیوں کی؟ کیا ابن وراق جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ اور فریب کی راہ سے حقیقت پر پردہ ڈال رہا ہے؟ یا ابن وراق کو واقعی صحیح اسلامی تاریخ کا علم نہیں؟

لازمًا ابن وراق جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ اور فریب کی راہ اختیار کر رہا ہے۔ کیوں کہ ابن وراق کو تاریخ کا علم ہے اور کتاب میں اسلامی تاریخ پر مختلف مستند اور غیر مستند دونوں قسم کی کتب کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ ہاں اُن میں موجود حقائق کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا جھوٹ عام قاری نہیں پکڑ سکے گا اور یہی سوچے گا کہ مسلمان علماء خود کو سچا کہتے رہتے ہیں اور غیر مسلم خود کو۔ حقیقت نہ جانے کیا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ بفرض محال ابن وراق کو تاریخ کا علم نہیں ہے۔ تو پھر ہر شخص سوچ لے کہ بنا علم کے کیوں اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور کیوں مستشرقین کی کتب سے صرف اعتراضات ہی چُنے اور ان کے وہ اعتراضات نہیں چُنے جو انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کے بے نظیر ہونے کے بارہ میں کیے۔ پس اگر علم نہیں تو پھر بھی حق کی جستجو کرنے والے کسی شخص کے لیے قابل اعتبار ہی نہ رہا۔

قراءتوں کے حوالے سے ایک اور اعتراض ہے ابن وراق کو۔ کہتا ہے:

At present in modern Islam, two versions seem to be in use: that of Asim of Kufa through Hafsa, which was given a kind of official seal of approval by being adopted in the Egyptian edition of the Koran in 1924; and that of Nafi through Warsh, which is used in parts of Africa other than Egypt.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg: 110)

موجودہ دور میں مسلمانوں میں دو قسم کے قرآن رائج ہیں۔ ایک حفص کے ذریعے ملنے والا عاصم کوفی کا جسکو مصری حکومت نے 1924 میں اختیار کر کے ایک قسم کی سرکاری مہر اس کے استناد پر لگا دی ہے اور دوسرا نافی کا جو وارش سے ملا ہے۔ جو کہ سوائے مصر کے باقی افریقہ میں رائج ہے۔

جو شخص بھی ابن وراق کی کتاب کا مطالعہ کرے گا۔ اگر وہ اسلامی تاریخ سے واقف ہے تو اس کے اس طرح بار بار دھوکہ دینے پر حیران ضرور ہوگا۔ آخر اتنا جھوٹ بولنے کی ضرورت اسی وقت ہی پیش آتی ہے جب اختلاف کی کوئی سچی بنیاد نہ ملے۔ جب تمام معاملات واضح ہوں اور حقیقت کا علم ہو، پھر اگر حقیقت کو چھپانا ہو تو جھوٹ کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے۔ چنانچہ دجل اور فریب کے نمونے بار بار نظر آئیں گے۔

جہاں تک ابن وراق کا یہ کہنا ہے کہ آجکل امت مسلمہ میں دو مختلف قسم کا قرآن کریم رائج ہے تو اس فرق یا اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ پارے کہاں سے شروع ہوتے اور کہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ نیز یہ فرق رکوعوں کی تقسیم میں بھی ہے۔ پاروں کی تقسیم تو صحابہؓ نے کی ہے اور رکوعوں کی تقسیم بہت بعد میں کی گئی۔ اسی طرح آیات میں رموز و اوقاف کا فرق ہے جو کہ مختلف علماء نے بہت بعد میں لگائے ہیں تاکہ عربی سے ناواقف انسان تلاوت کے وقت غلطی نہ کرے۔ پس یہ کوئی اختلاف نہیں بلکہ ایک معنوی وسعت ہے۔ چنانچہ اس حوالہ سے علماء نے بھی بہت بحثیں کی ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی مختلف ٹکڑوں کو مختلف انداز میں لے کر ان سے معانی اخذ کیے ہیں۔ مثلاً املاء ماسن بہ الرحمن ایک مشہور کتاب ہے جس میں گرائمر کے لحاظ سے قرآن کریم کے معانی اور معارف کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں بارہا ایسی مثالیں ملیں گی جس میں آیات کے اندر مختلف الفاظ کی مختلف تراکیب کر کے معارف اخذ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کشاف اور دیگر کتب تفسیر میں علمی نکات و معارف اخذ کیے گئے ہیں۔ کچھ تراکیب رسول کریم صلی اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں اور کچھ علماء کی طرف۔

مغربی محققین اور مستشرقین بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک مستشرق لکھتا ہے:

The simple fact is that none of the differences, whether vocal or graphic, between the transmission of Hafs and the transmission of Warsh has any great effect on the meaning. Many are the differences which do not change the meaning at all, and the rest are differences with an effect on the meaning in the immediate context of the text itself, but without any significant wider influence on Muslim thought.

(Andrew Rippin (Ed.), Approaches Of The History of Interpretation Of The Qur'an, 1988, Clarendon Press, Oxford, p 37)

عام فہم حقیقت یہی ہے کہ حفص اور ورش کی قراءتوں میں کوئی معنوی اختلاف نہیں ہے۔ جو فرق ہیں وہ معنوی بالکل نہیں ہیں۔ اور جہاں لفظ کے معنوں میں فرق ہو بھی تو آیت کا مجموعی معنی وہ فرق ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے جو مسلمانوں میں کوئی اعتقادی اختلاف پیدا کرے۔

جب حضرت عثمانؓ نے ایک قراءت پر لوگوں کو اکٹھا کیا تو اس کے بعد اختلاف قراءت بجائے جھگڑے کے علم بن کر ابھرا اور دوسری صدی سے لے کر نویں صدی تک خوب پھیلا۔ علماء نے اس پر بہت سی کتب لکھیں جن میں تقریباً تمام معروف قراءتوں کو درج کر لیا گیا اور باقاعدہ اس علم میں تحقیقات کے نئے نئے دروازے کھلے۔ پھر ان میں سے آہستہ آہستہ مشہور اور مستند اور عمدہ قراءتوں کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی اور آہستہ آہستہ غیر معروف قراءتیں کتابوں تک محدود ہو کر رہ گئیں اور نسبتاً معروف قراءتیں آگے منتقل ہوتی رہیں۔ ابن مجاہد نے نویں صدی میں ایک کتاب القراءات السبع لکھی جس میں ان سات قراءتوں پر تفصیلی بحث کی جو کہ زیادہ معروف تھیں۔ وہ قراءتیں یہ ہیں:

نمبر شمار	جگہ جہاں کی قراءت ہے	قاری	نام راوی اول	نام قاری دوم
1	مدینہ	امام نافعؓ	قانونؓ	ورشؓ
2	مکہ	امام ابن کثیرؓ	بڑیؓ	قنبلؓ
3	بصرہ	امام ابو عمروؓ	دوریؓ	سوسیؓ
4	دمشق	ابن عامرؓ	ہشامؓ	ابن ذکوانؓ
5	کوفہ	امام عاصمؓ	شعبہؓ	حفصؓ
6	کوفہ	امام حمزہؓ	خلفؓ	خلادؓ
7	کوفہ	امام کیسانیؓ	ابوالحارثؓ	دوریؓ

یہ بڑی بڑی اور مشہور عام قراءتیں ہیں اور سب سے زیادہ استناد اور تواتر سے ہم تک پہنچیں۔ ان میں سے نمبر ایک اور نمبر پانچ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قراءت جو کہ ورش کہلاتی ہے مصر کے علاوہ سارے براعظم افریقہ میں پڑھی جاتی ہے اور پانچویں نمبر کی قراءت جو کہ حفص کے نام سے مشہور ہے باقی اسلامی دنیا میں رائج ہے۔ ان میں سے حفص کے نام سے مشہور قراءت قریش کے مطابق ہے جبکہ ورش مختلف ہے۔ ابن وراق پاروں یا اجزاء کی تقسیم کے اختلاف اور آیات کے شمار کے اختلاف کو ورش اور حفص کی تفریق سے خلط ملط کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا قرآن ہی دو مختلف قسم کے بنے ہوئے ہیں۔

یہ اعتراض فی ذاتہ اپنے غلط ہونے کی شہادت رکھتا ہے۔ اہل اسلام میں اگر مختلف قرآن رائج ہوتے تو لازماً اس کا ذکر عام ہونا چاہیے تھا۔ کسی بھی علاقہ سے چھپنے والے نسخہ قرآن میں اگر کوئی غلطی راہ پاجائے تو شور مچ جاتا ہے اور اغلاط نامے وغیرہ شائع ہوتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کے ملا غلطی کرنے والوں کے خلاف کفر کے فتاویٰ شائع کر دیتے ہیں۔ مگر یہ دو قرآن ایسے ہیں کہ ان کے تضاد کی مسلمان علماء سے پہلے ہی ابن وراق کو خبر پہنچ گئی۔ پھر دیانت دار اہل علم محققین اور مستشرقین بھی ان دونوں قرآنوں سے ناواقف رہے۔ ولیم میور بھی یہی کہتا رہا کہ ONE CORAN has always been current دوسرے مذاہب کے متعصب ملا اور خاص کر

عیسائی پادری اور مستشرقین اعتراض کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور جہاں حفاظت قرآن کے موضوع کو لے کر بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اتنی کثرت سے جھوٹ کی نجاست پر منہ مارنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بس دونوں قرآن پیش کر دیا کریں۔

ایک تحقیق

گزشتہ صدی میں میونخ یونیورسٹی کے شعبہ The Institute for Koranforschung نے قرآن کریم کے چوبیس ہزار سے زائد قدیم مکمل اور نامکمل نسخے ساری دنیا سے اکٹھے کیے تھے۔ جو کہ قرآن کریم کے قدیم ترین نسخہ کی نقل سے لے کر اس دور تک ہر صدی میں اور ہر زمانہ میں پائے جانے والے نسخوں پر مشتمل تھے۔ ان نسخوں پر قریباً 50 سال کی گہری تحقیق کے بعد محققین نے متفقہ طور پر یہ نتیجہ نکالا کہ تحریر کی معمولی غلطیوں کے علاوہ ان تمام قرآنی نسخوں میں آپس میں کوئی ادنیٰ سا بھی اختلاف نہیں ہے۔ افسوس کہ یہ یونیورسٹی دوسری جنگ عظیم کے دوران بمبارمنٹ سے تباہ کر دی گئی مگر پیچھے یہ نہایت عمدہ تحقیق اپنی یادگار چھوڑ گئی۔

(محمد حمید اللہ: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؛ ادارہ اسلامیات لاہور، صفحہ 179) -1

2- (Method of preservations of the Quran during the Prophet's time (http://www.islam101.com/quran/source_quran.html))

کاش ابن وراق سے پہلے کوئی اس حقیقت کو پالیتا اور افریقہ کے اس دوسرے قرآن کا کوئی نسخہ جرمی بھجوا دیتا۔ کم از کم یونیورسٹی والے اپنی 50 سالہ تحقیقات کا نتیجہ تو غلط نہ نکالتے۔

اب تک ابن وراق نے دجل اور تلپیس کی راہ سے تاریخ کو مسخ کر کے اعتراضات بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان سب اعتراضات کے بعد اب ابن وراق یہ تکلیف بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ تاریخی حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرے بلکہ اب تعصب اور بغض میں حد سے گزرتے ہوئے محض اپنے اندازوں اور قیاس کے سہارے ایسے لچر اور بیہودہ اعتراض کرنے پر اتر آیا ہے جن کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر۔ اگر قاری اپنی ناواقفی اور سادگی کی وجہ سے ابن وراق کے تمام تر دھوکوں اور فریب کو حقیقت سمجھ بیٹھا ہے اور اس بات کا قائل ہو گیا ہے کہ تاریخی اعتبار سے قرآن کریم کی حفاظت مشکوک ہے تو اب یہ موقع ہے کہ اب اسی بنیاد پر اعتراضات پیش کیے جائیں۔ چنانچہ آئندہ سطور میں ابن وراق کے اعتراضوں کی نوعیت علمی اور تاریخی نہیں بلکہ محض ظنی ہے۔ اب قاری کچھ ایسے اعتراضات کا سامنا کرے گا کہ قرآن کریم کا فلاں لفظ الہامی نہیں ہو سکتا۔ فلاں مضمون ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ بیان نہیں کر سکتا۔ سورتوں کی آیات کا سائل ایسا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ آیات بعد میں ڈالی گئی ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

متفرق اعتراضات

قرآن کریم میں استعمال ہونے والے لفظ ”قل“ پر اعتراض

As many have pointed out, one only need to add the imperative "say" at the beginning of the sura to remove the difficulty. This imperative from the word "say" occurs some 350 times in the Koran, and it is obvious that this word has, in fact, been inserted by later compilers of the Koran, to remove countless similarly embarrassing difficulties. Ibn Msood, one of the companions of the Prophet and an authority on the Koran, rejected the Fatihah and surah 113 and 114 that contain the words, "I seek refuge" as not part of the Koran. Again at sora 6.104 the speaker of the line "I am not your keeper" is clearly Muhammad.... these words are unworthy of God:"

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg: 106)

جیسا کہ بہت سے لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی بھی سورت کے شروع میں لفظ ”قل“ کا اضافہ درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ”قل“ کا یہ حکمیہ انداز قرآن کریم میں 350 مرتبہ اپنایا گیا ہے۔ درحقیقت بہت سی معنوی مشکلات سے جان چھڑانے کے لیے یہ لفظ قرآن کریم کو جمع اور مدون کرنے والوں نے بعد میں اپنی طرف سے شامل کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم پر سند مانے جانے والے صحابی رسول، ابن مسعود سورۃ الفاتحہ، 113 اور 114 (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) کو جو ”قل“ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں متن قرآن کا حصہ نہ مانتے تھے۔ نیز چھٹی سورت کی آیت نمبر 104 (الانعام: 105- مترجم) میں ”وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ“ کے الفاظ سے محمد (ﷺ) خود مراد ہیں۔..... قرآن کریم کے یہ حصے خدا تعالیٰ کے شایان شان نہیں۔

اس شبہ کے جواب میں ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسا کب ہوا؟ گزشتہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا نظام ایسا تھا کہ کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا تھا اور نزول قرآن اور جمع و تدوین قرآن کے دور میں دوستوں اور دشمنوں کی خاموشی اس حقیقت پر گواہ ہے نیز ہر دور میں اہل علم بلا تمیز مذہب و عقیدہ اس

بارہ میں گواہی دیتے چلے آئے ہیں کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اب ابن وراق کو یہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم میں کئی آیات سے پہلے لفظ قُل آیا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ آیات الحاقی ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ثابت ہو گیا؟ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لفظ اسی طرح متن قرآن کا حصہ تھا جس طرح آج ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے:

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى لي فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

(بخاری کتاب تفسیر القرآن باب فضل المعوذتين)

رسول کریم رات بستر پر لیٹتے تو ہمیشہ اپنی ہتھیلیوں پر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ کر پھونکا کرتے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے:

حضرت عائشہ فرماتی ہیں؛ جب رسول اللہ بیمار ہوتے تو آپ اپنے جسم پر معوذات پڑھ پڑھ کر پھونکتے اور اگر شدت بیماری سے آپ کو توفیق نہ ہوتی تو میں ایسا کیا کرتی تھی۔ (بخاری کتاب تفسیر القرآن باب فضل المعوذتين)

اسی طرح روایت ملتی ہے کہ:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جريف عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة المعوذتين)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم ہے کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں یعنی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

مذکورہ بالا روایات کے علاوہ بھی کثرت سے مستند روایات ملتی ہیں کہ یہ آیات رسول کریم کے دور میں وحی الہی کے طور پر مشہور اور معلوم تھیں اور ان کے شروع میں لفظ ”قُل“ آتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ اور آپ کے صحابہ لفظ ”قُل“ کو اسی طرح وحی الہی اور متن قرآن کا جزو سمجھتے تھے جس طرح کوئی بھی دوسرا قرآنی لفظ وحی الہی اور جزو سمجھا جاتا تھا۔ پس جب یہ لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی قرآن کریم کے متن میں موجود تھا اور صحابہ کو اور اس دور میں عربی جاننے والے مخالفین کو یہ

اعتراض نہ ہو تو اب کیا اعتراض ہے؟

لفظ ”قل“ کا استعمال تو بذات خود آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل اور حفاظت قرآن کریم کا ایک اعلیٰ ثبوت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جو بھی وحی الہی نازل ہوتی تھی آپ اُسے بعینہ آگے پہنچا دیتے تھے اور اپنی سوچ سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کیا کرتے تھے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ حکم رسول کریم کو دیا جا رہا ہے کہ آگے بنی نوع سے کہہ دے اور آپ اس حکم کے الفاظ بھی بعینہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا کہا گیا ہے کہ قل أعوذ... اب اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ کھانا کھالیں تو وہ جا کر یہ اعلان تو نہیں کرتا کہ ”لوگوں سے کہہ دو کہ کھانا کھالیں“ وہ تو یہی کہے گا کہ ”لوگو کھانا کھا لو“ مگر رسول کریم بعینہ الفاظ دہرا دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کوئی لفظ آپ کی ذات سے متعلق ہی کیوں نہ ہوتا اور جیسا بھی ہوتا آپ اُسے بعینہ آگے پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اور کبھی کوئی لفظ یہ سوچ کر نہیں چھوڑتے تھے کہ یہ تو آپ کی ذات کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے یا اس لفظ کے مخاطب صرف آپ ہیں باقی امت نہیں۔ پس ”قل“ کی موجودگی جائے اعتراض نہیں بلکہ حفاظت قرآن کریم کے حوالہ سے آنحضور کی بیمثال دیانتداری کا بہت اعلیٰ ثبوت ہے۔

سوال یہ ہے کہ کوئی مثال، کوئی ثبوت تو دو کہ جس سے علم ہو کہ یہ لفظ کب اور کس نے ڈالا تھا؟ ہاں ایک مثال پیش کرتا ہے مگر پیش کر کے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لیتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم مدون کرنے والوں بعد میں نے ڈالا ہے اور مثال ابن مسعود کی پیش کر رہا ہے جو ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور میں ہی قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ تحریر کیا تھا اور آپ نے بھی یہ سورتیں لکھی تھیں لیکن بعد میں کسی وجہ سے اپنے صحائف سے مٹا دیں۔ یہ اختلاف بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لفظ اسی طرح قرآن کریم کا حصہ تھا جیسا کہ آج ہے۔ پھر روایات میں واضح ذکر ہے کہ اس بارہ میں رسول کریم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ مجھے یہ سورتیں ایسے ہی سکھائی گئی ہیں اس لیے میں تو ایسے ہی تلاوت کروں گا۔ پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بعد میں ڈالا گیا؟ یعنی مدون کرنے والوں نے نہیں ڈالی یہ سورتیں بلکہ عبد اللہ بن مسعود نے رسول کریم کی وفات کے بعد اپنے صحیفہ سے مٹا دی تھیں۔ کیوں؟ اس بارہ میں ہم پہلے دیکھ آئے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کوئی دلیل نہیں دیتے۔

نیز اس بات کا اعتراض سے کیا تعلق ہے کہ عبد اللہ بن مسعود معوذتین کو قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے تھے؟ اگر یہ مراد ہے کہ ابن مسعود لفظ ”قل“ کی وجہ سے معوذتین کو نہیں مانتے تھے تو پھر چاہیے تھا کہ آپ ان تمام مقامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے جہاں جہاں لفظ ”قل“ قرآنی آیات میں استعمال ہوا ہے۔ مگر ان تمام آیات کا

تسلیم کرنا اور صرف معوذتین کا انکار کرنا بتاتا ہے کہ وجہ لفظ ”قل“، نہیں کچھ اور تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مسئلہ پر بحث گزر چکی ہے۔ یہاں سردست یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ آپؐ لفظ ”قل“ کی وجہ سے قرآن کریم کی کسی آیت کو رد نہیں کرتے کیونکہ بقول ابن وراق ”قل“ قرآن کریم میں 350 جگہ استعمال ہوا ہے اور سوائے معوذتین کے ہر جگہ ابن مسعودؓ نے اسے متن قرآن کا حصہ سمجھا ہے۔ پھر یہ بھی مد نظر رہے کہ تاریخ اسلام میں کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ لفظ ”قل“ کی وجہ سے صحابہ یا جید علماء نے قرآن کریم کی ثقاہت میں شک کیا ہو۔

پھر ابن وراق کی دلیل اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد تو بالکل ہی بے حقیقت جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن مسعودؓ نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا اور پہلے کی طرح معوذتین کو دوبارہ اپنے صحیفہ میں درج کر لیا تھا۔ گویا درج کر کے یہ بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سورتیں درج کرتا تھا پھر بعد میں رائے بدل گئی مگر وہ غلطی تھی۔ اب دوبارہ درج کرتا ہوں۔ اس طرح بزمِ عم خود ابن وراق کا اکلوتا گواہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو کہ اعتراض تو یہ ہے کہ قرآن کریم مدون کرنے والوں نے تحریف کردی اور اس ضمن میں دوسری دلیل کیا ہے؟ ابن وراق الانعام آیت: 105 کے حوالہ سے کہتا ہے، ”یوسف علی اپنے ترجمہ میں اس جملے کے شروع میں لفظ ”کہہ دے“ کا اضافہ کرتا ہے۔ جو کہ اصل عربی متن میں نہیں ہے اور ایسا بلا کسی وضاحت اور حاشیہ کے کرتا ہے“ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ جب تمہیں یہ تسلیم ہے کہ عربی متن میں یہ لفظ موجود نہیں ہے تو پھر اس سے قرآن کریم کے محفوظ ہونے پر کیا اعتراض وارد ہوتا ہے؟ یوسف علی کا دفاع ہمارا مقصود نہیں۔ مگر کیا ابن وراق کو یہ نہیں معلوم کہ قرآنی متن میں تحریف اس کے ترجمہ میں کسی لفظ کے زائد کرنے یا نکلنے سے ممکن نہیں؟ ہاں اعتراض تو تم پر وارد ہوتا ہے کہ میاں عربی سیکھ کر قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرو۔ تراجم پڑھ پڑھ کر اعتراض نہ جمع کرتے جاؤ۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ بعد میں تدوین کرنے والوں نے یہ لفظ ڈال دیا اور مثال یوسف علی کی پیش کر رہے ہو۔ کیا یوسف علی نے قرآن کریم مدون کیا تھا؟

سوال یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لفظ ”قل“ کا قرآنی وحی میں شامل ہونے کا ذکر ملتا ہے اور آنحضرتؐ اسی طرح ان سورتوں اور آیات کو پڑھتے تھے۔ صحابہ کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا اور پھر بعد میں عربی کے جید علماء کو بھی اس میں شک نہیں ہوا تو تمہیں اب کیا تکلیف ہے؟ خود ہی ابھی سیوطی کا حوالہ دے کر آئے ہو کہ اس عظیم مفسر کو پانچ جگہ شک ہوا۔ اب بتاؤ کہ باقی 345 جگہ اس کی عظمت نے کیوں گواہی دی کہ ان مقامات پر قل قرآن کریم کی وحی کا حصہ ہے؟ باقی یہ بھی دجل ہے کہ سیوطی کو 5 جگہوں پر شک ہوا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی وحی نہیں ہے۔ علامہ سیوطی تمام تر قرآن کریم کو حرف بحرف وحی الہی مانتے ہیں۔ پس سیوطی جیسا عالم، جس کی عظمت ابن وراق جیسے متعصب کو بھی مسلم وہ تو اعتراض نہیں کرتا اور ابن وراق عربی زبان اور اس کے باریکیوں

سے ناواقف اور نابلد ہو کر محض دوسروں کی دیکھا دیکھی اس معاملہ میں بھی زبانِ طعن دراز کر رہا ہے۔

علامہ سیوطی کہیں یہ نہیں کہتے کہ قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہے جو خدا تعالیٰ کا بیان فرمودہ نہیں بلکہ انسانی ہے۔ قرآن کریم کے الہی کلام ہونے کے بارہ میں آپؐ کی ایک گواہی پہلے درج کی جا چکی ہے ایک یہ ہے کہ اپنی مشہور کتاب، الاتقان، جس کا حوالہ ابن وراق دیتا ہے، کے تمہیدی نوٹ میں اس حقیقت کا اعتراف اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ قرآن کریم انسانی طاقتوں سے بالا ایک الہی کلام ہے۔ آگے چلنے سے قبل ایک ذرہ ٹھہر کر غور کر لیجئے کہ ابن وراق نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ __ شائد یہی وجہ ہے کہ کوئی سچی بنیاد تو کیا کوئی کمزوری دلیل بھی نہیں ملی جو شبہ پیدا کر سکے کہ سورۃ الفاتحہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے اس جھوٹ کو ہی اپنے اعتراض کی بنیاد بنا رہا ہے۔

پس ”قل“ کے بارہ میں مستند روایات اور احادیث میں واضح طور پر مذکور ہے کہ رسول کریمؐ کے دور میں اسی طرح متن قرآن میں موجود تھا جس طرح آج ہے۔ تدوین قرآن کے دوران کب یہ تحریف ممکن ہوئی؟ تمام تر شیعوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے محض اندازے لگانا کہ ”قل“ لازماً بعد میں ڈالا گیا ہوگا پر لے درجہ کی بیہودگی نہیں تو اور کیا ہے؟

باقی رہی حکمت کی بات تو لفظ ”قل“ ان جگہوں پر لایا گیا ہے جہاں مضمون کو خوب پھیلائے اور اس کی اشاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں تو تمام قرآن کریم کے بارہ میں بَلَّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ (المائدہ: 68) کا ارشاد ہے یعنی جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اسے آگے پہنچادے مگر بعض مضامین کے بارے میں بطور خاص اعلان کرتے چلے جانے کا ارشاد ہے۔ چنانچہ انہی مضامین کے شروع میں ”قل“ کا لفظ آتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ فرماتے ہیں:

”قل“ کا لفظ ان مضامین یا سورتوں سے پہلے آتا ہے جن کے اعلان عام کا ارشاد ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کسی امر کا اعلان عام ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ ایسے اعلان کا ذریعہ ایک جماعت ہی ہو سکتی ہے۔ جو نسلاً بعد نسل یہ کام کرتی چلی جائے تاکہ ہر قوم و ملک کو بھی وہ پیغام پہنچ جائے اور ہر نسل اور ہر زمانہ کے لوگوں کو بھی وہ پیغام پہنچ جائے۔ اگر وحی متلو میں یعنی قرآن میں قل کا لفظ نہ رکھا جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تک یہ حکم چلتا۔ آپؐ کے بعد یہ حکم نہ چلتا۔ لیکن جبکہ قرآن کی وحی میں یہ لفظ شامل کر دیا گیا تو اب اس کے متواتر تاقیامت جاری رہنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تُوْكَافِرُونَ کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ اے کافرو! میں تمہارے معبود کی عبادت قطعاً نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا۔ تو آپؐ نے یہ اعلان کافروں میں کر دیا مگر قل کا لفظ پہلے نہ ہوتا تو مسلمان سمجھتے یہ محمد رسول اللہ کا کام تھا، ختم ہو گیا۔ لیکن جب آپؐ نے وحی مسلمانوں کو سنائی اور

یوں پڑھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تو ہر مسلمان نے سمجھ لیا کہ یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے نہ تھا بلکہ میرے لیے بھی تھا کیونکہ میرے سامنے جب وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو اس کے پہلے قُلْ کہا ہے جس کا مخاطب میں ہی ہو سکتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کیونکہ وہ تو پڑھ رہے ہیں سُن تو میں رہا ہوں۔ پس اُس نے اس حکم کی تعمیل میں یہ پیغام آگے پہنچا دیا لیکن چونکہ قُلْ کا لفظ وحی میں تھا اُس نے بھی اگلے شخص کے سامنے اسی طرح پیغام پہنچا دیا کہ قُلْ لفظ بھی دُہرایا اور اُس تیسرے شخص کے سامنے جب قُلْ کا لفظ کہا گیا تو اُس نے سمجھ لیا کہ صرف مجھے پیغام نہیں پہنچایا گیا بلکہ مجھ سے یہ بھی خواہش کی گئی ہے کہ میں آگے دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دوں۔... غرض اس طرح تا قیامت اس حکم کے دہرانے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ جب عام قرآنی سورتوں کو انسان پڑھتا ہے تو اُسے وہ حکم پہنچ جاتا ہے جو ان میں ہے مگر جب وہ اُس سورت یا آیت کو پڑھتا ہے جس سے پہلے قُلْ لکھا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے آگے پہنچاتے چلے جانا میرا فرض ہے اور وہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عمل کی نصیحت کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تم یہ پیغام اپنے بعد کے لوگوں تک اور وہ اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچادیں۔ اب اس حکمت کو سمجھ لو کہ وہ لوگ کتنے دھوکے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ قُلْ کا لفظ وحی میں کیوں رکھا گیا ہے۔... آج کل لوگ بے نام کارڈ ڈال کر بھجوادیتے ہیں اور اُن میں لکھ دیتے ہیں کہ اس خط کا مضمون نقل کر کے دس اور آدمیوں کو بھجوادو۔ کچھ لوگ اس پر عمل کر کے دس اور کو وہ مضمون لکھ کر بھجوادیتے ہیں اور سارے ملک میں وہ بات پھیل جاتی ہے۔ آج کل بہت سی لغو باتوں کے متعلق یہ طریق اختیار کیا جاتا ہے مگر اشاعت کے لیے یہ طریقہ بہت عمدہ ہے بعض قرآنی سورتوں یا آیتوں سے پہلے قُلْ کا لفظ رکھ کر قرآن نے بھی یہی طریق اختیار کیا ہے اور گویا اس طریق کی ایجاد کا سہرا بھی قرآن کے سر ہے۔

(تفسیر کبیر جلد ۴، صفحہ 405، 404 زیر تفسیر الکافرون آیت 2)

پھر ابن وراق یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ فلاں فلاں آیات خدا کا کلام نہیں ہو سکتیں کیوں کہ اُن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کر رہے ہیں یا اس لیے خدا کا کلام نہیں ہو سکتیں کیونکہ ان کا سائل مختلف ہے یا اس لیے خدا کا کلام نہیں ہو سکتیں کہ اُن کا مضمون یا انداز بیان ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا ایک دھوکہ اور دجل ہے۔ ایک طرف مستند تاریخ ہے اور دوسری طرف جھوٹ کی بنیاد پر گھڑے ہوئے اعتراضات کا پلندہ اور جہاں جھوٹ نہیں بولتا وہاں کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے بیہودہ اندازے اور بے ثبوت تخمینے لگانا شروع کر دیتا ہے۔

ان مستشرقین کی یہ گری ہوئی اخلاقی حالت اور ادنیٰ ادنیٰ معاملات میں دجل اور فریب اور دھوکہ دینے کی عادت بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی دُور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ اعتراضات ان کے دماغ کی اختراع ہیں۔ نہ تو یہ لوگ عربی زبان کے ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ عربی اسالیب کو سمجھ سکیں، نہ ہی ملہم من اللہ ہونے کے دعویدار ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے انداز سے واقفیت کا دعویٰ کر سکیں اور نہ ہی ان کی مسلمہ کتب جن پر یہ ایمان کے دعویدار ہیں اس درجہ استناد کو پہنچتی ہیں کہ ان کے بارہ میں یقین سے کہا جاسکے کہ اُن کے کثرتِ مطالعہ سے الہی کلام کے اسلوبِ بیان کے فہم اور عرفان کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی کتاب کا مطالعہ الہی کلام کا عرفان پیدا کر سکتا ہے کیونکہ فی زمانہ اب یہ ناممکن ہو چکا ہے۔ وہ کتب بھی انسانی دست برد کا شکار ہو چکی ہیں۔

پس ایک سوال یہ بھی ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ حفاظتِ قرآن کے بارہ میں تاریخ کیا کہتی ہے، مغربی محققین کو آیا یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ فلاں فلاں آیت بعد میں ڈالی گئی ہے کیونکہ اس کا انداز باقی سورۃ سے مختلف ہے یا اس کا ربط باقی سورۃ یا مضمون سے نہیں بنتا؟ کیا مستشرقین کو اتنی صلاحیت حاصل بھی ہے کہ وہ عربی عبارتوں کو اس طرح سمجھ سکیں جس طرح کہ اہل زبان عربوں نے ان پر تحقیقات کی ہیں؟ مستشرقین کا ایک استاد مارگولیتھ، عربی کا پروفیسر، اور بزعم خود عربی ”سٹائل“ کو سمجھنے والا عربی میں گفتگو کرنے کے چیلنج پر کچھ ہی دیر میں عاجز آ گیا (تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 78 زیر تفسیر القریش)

پس ایک طرف عربی زبان سے ناواقفیت اور دوسری طرف یہ کہنا کہ یہ کلام خدا کا نہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہے کیونکہ اس کا انداز ایسا ہے جو خدا کا نہیں ہو سکتا، ایک لچر دعویٰ اور محض تمسخر ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ دونوں کلام ایک ہستی کے نہیں ہو سکتے۔ یہ بزعم خود سٹائل کے ماسٹر اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ قرآن مجید اور مجموعہ احادیث دو مختلف کلام ہیں جو ایک ہستی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ زبان عربی کے ماہر اور آسمان ادب عربی پر جگمگاتے ستارے، سخن فہم اور اسلوب بیان کے شہسوار یہ گواہی دے چکے ہیں کہ قرآن کریم کا انداز انسانی طاقت اور قدرت سے باہر ہے اور یہ کلام انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا اور لازماً کلام الہی ہے۔ پس اگر تمہارا اسلوب درست تسلیم کرتے ہوئے محض قیاس اور اندازوں کی بنیاد پر قرآن کریم کے انداز پر اعتراض کی بنیاد رکھی جائے تو ماننا پڑے گا کہ اُس دور میں جبکہ عربی ادب اپنی رفعتوں کو چھو رہا تھا، مخالفین میں آسمان ادب کے درخشاں ستارے اور بڑے بڑے سحر بیان سخن ور موجود تھے وہ تو اپنی تمام تر مہارتوں کے باوجود اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔ مگر اسلوب ادب عربی سے ناواقف مستشرقین آج قرآن کریم کے تراجم پڑھ پڑھ کر اس کے اسلوب کو نہ صرف سمجھ گئے بلکہ عربی ادب کی باریکیوں سے واقفیت بھی حاصل کر گئے۔

پس مستشرقین اس بات کے حق دار نہیں کہ اپنی جہالت کو بنیاد بنا کر اندازوں اور قیاس کی بنیاد پر حقائق کو جھٹلا سکیں

اس لیے ہم اس اعتراض کے جواب میں یہی سوال دہراتے ہیں کہ اگر تم سچ بول رہے ہو اور علی وجہ البصیرت بات کر رہے ہو تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ یہ کلام میرا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہے اور ثبوت یہ ہے میں نے آج تک کسی ادنیٰ سے ادنیٰ معاملہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خدا پر کیسے بول سکتا ہوں؟ اب جب ایک شخص کہتا ہے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے اور پھر کوئی دوسرا دعویٰ اور بھی موجود نہیں کہ یہ کلام اس کا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے کسی دوسرے شخص کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کلام بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول کریم کی طرز کلام بھی قرآن کریم کی طرز کلام سے بالکل مختلف ہے۔ پھر مقابلہ میں کلام الہی کی مثل نہ لاسکنے کا چیلنج پندرہ سو سال سے مخالفین کا لالچ رہا ہے۔ پھر قرآن کریم ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو انسانی طاقت سے بالا ہیں، ایسی پیشگوئیاں ہیں جو صرف خدا کی طرف سے ہو سکتی ہیں اور ایسی تاثیر ہے جو صرف الہی کلام میں ہو سکتی ہے تو پھر لازماً اسے خدا تعالیٰ کا کلام ماننا پڑے گا اور اگر ایسا دعویٰ کرنے والے محمد الصدوق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو پھر قانون شہادت کی رو سے ماننا لازم ہو جاتا ہے کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ مزید برآں یہ کہ تاریخی دلائل اور عقلی اور نقلی ثبوت تمام تر اسی بات پر متفق ہیں۔ اگر پھر بھی تسلیم نہیں تو قرآن کریم بار بار فیصلہ کے لیے بلاتا ہے کہ مثال بنا کر پیش کرو۔

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المسیح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اعتراض کرنا سہل ترین کام ہے جو کوئی شخص اپنے مد مقابل کے خلاف کر سکتا ہے۔ صداقت کے منکر ہمیشہ اعتراضوں تک ہی اپنے حملہ کو محدود رکھتے ہیں کبھی کوئی ٹھوس کام مقابل پر نہیں کرتے جس سے ان کے جوہر بھی ظاہر ہوں اور ان کے اعتراض کی حقیقت بھی ظاہر ہو۔ یہی حال قرآن کریم کے منکروں کا تھا۔ وہ قرآن کریم پر اعتراض تو کرتے تھے لیکن اس کے مقابل پر کوئی تعلیم ایسی پیش نہیں کرتے تھے جو اس سے برتر تو الگ رہی اس کے برابر بھی ہو۔ آج تک قرآن کریم کے مخالفوں کا یہی حال رہا ہے۔ مسیحی مصنف قرآن کریم پر اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں لیکن آج تک اس مطالبہ کے پورا کرنے کی جرأت نہیں کر سکے۔“

(تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 226 زیر تفسیر آیت البقرة: 25، 24، کالم: 1)

ابن وراق کی حالت تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص Colour Blind ہو، اور کسی مصوٰر کی شاہکار تصویر میں رنگوں کی خوبصورت جلوہ گری نہ دیکھ سکے کیونکہ اپنی معذوری کی وجہ سے اسے تو وہ رنگ دھبے ہی نظر آتے ہیں۔ اس میں مصوٰر کا تو کوئی قصور نہیں۔ ایک آنکھوں والا تو رحم ہی کھا سکتا ہے کہ یہ بے چارہ جلوہ حسن کے نظارہ سے ہی محروم ہے۔ پھر اگر کسی کو اس ذات کامل کا حسن نظر نہ آئے تو اس کی بیچارگی کی کیا حد ہو سکتی ہے! ہاں یہ چیلنج عام ہے کہ ساری

دُنیا کے منکر مل کرا اگر مثل بنا سکتے ہیں تو بنا کر دکھائیں۔

پس جن آیات کے بارہ میں بلا دلیل صرف یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو اس کے جواب میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم کا دعویٰ موجود ہے کہ یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُن پر نازل کیے گئے ہیں۔ پس یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہیں اور اس کے ثبوت میں گزشتہ صفحات میں دلائل درج کیے جا چکے ہیں کہ کوئی عقلی یا نقلی شہادت اس بات پر نہیں کہ یہ کلام رسول کریم کا ہے اللہ کا نہیں۔ مثلاً ابن وراق یہ آیت پیش کرتا ہے ”وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ“ (سورۃ الانعام آیت 105) اور کہتا ہے کہ اس میں محمد (ﷺ) مخاطب ہیں۔ ایک طرف رسول کریم فرماتے ہیں کہ یہ کلام میرا نہیں اور خدا تعالیٰ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور دوسری طرف یہ انداز ملتا ہے اور عربی جاننے والے اور عربی زبان کی باریکیوں سے واقف اور شعر و سخن میں کمال رکھنے والے معاصر مخالفین اعتراض نہیں کرتے کہ یہ حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ڈالا ہے کیونکہ اس میں بظاہر آپ مخاطب ہیں اور نہ ہی آپ پر ایمان لانے والے اہل زبان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تو خدا کا کلام ہونے کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف یہ انداز بیان؟ پس یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ فلاں آیت میں رسول کریم مخاطب ہیں۔ کیونکہ صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ ساری دُنیا کے ادب پاروں میں بارہا یہ انداز اپنایا گیا ہے۔ پس ابن وراق کو یہ خوبصورت رنگ بھی نظر نہیں آیا، یا وہ اس حقیقت سے بھی اعراض کر گیا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ درجہ کا ادبی انداز ہے۔ بہت سے ادبانے اس کی تقلید کی ہے اور بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ مصنف کسی خیالی کردار کی طرف سے بات کر رہا ہوتا ہے بلکہ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ مصنف ایسے کردار کی طرف سے بات کرتا ہے جو کہ حقیقی زندگی میں ہوتا ہی نہیں یا اگر ہو بھی تو بے جان ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے عام سی بات کو خوبصورت پیرائے میں جو کہ قاری کی دلچسپی کا موجب ہوتا ہے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس انداز کو اپناتا ہے اور بہت اعلیٰ انداز میں اپناتا ہے۔ ایک فرضی واقعہ یا صرف الفاظ کی تک بندی نہیں بلکہ ایک حقیقت بیان کرتا ہے۔

علاوہ ازیں اس بیان میں اور بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس انداز بیان کو اپناتے ہوئے کلام کے تحت السطور اللہ تعالیٰ مخالفین کو یہ مضمون بھی سمجھاتا ہے کہ اس رسول (ﷺ) کا اس کلام کہنے والے سے ایک قریبی تعلق ہے اور اس کا اظہار یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس انداز میں جواب دیتا ہے کہ گویا آپ مخالفین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس طرح خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور اپنی زبان کو گویا ایک ہی قرار دے رہا ہے۔ یہ تو انتہائی قربت اور پیار کا لطیف اظہار ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ محبت اور پیار کے اس تعلق کو اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپس کے تعلق کے حوالہ سے انتہائی محبت کے

ساتھ جمالی انداز میں لطیف پیرایہ میں بیان کرتا ہے اور کہیں مخالفین کے شور و شر پر انتہائی جلال کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح: 11)
 جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

ایک دوسری جگہ جلالی رنگ میں اس قربت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (الانفال: 18)
 اور جب تو نے پتھر پھینکے تھے تو تو نے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ نے پھینکے تھے۔

گرد و پیش موجود سب صحابہؓ اور مخالفین جانتے تھے کہ آپؐ ہی نے بیعت رضوان لی تھی اور آپؐ ہی نے بدر کے موقع پر کفار کی طرف کنکر پھینکے تھے۔ عام ادبی تحریر میں جب کوئی مصنف کسی فرضی کردار کی بابت ایسا رویہ اپناتا ہے تو ہرگز اس کی مراد کوئی حقیقت بیان کرنا نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک ادبی انداز کی تقلید کرتا ہے جو کہ ایک خوبصورت انداز ہے بلکہ بعض دفعہ تو اس خوبصورتی کو اپناتے ہوئے حقیقت سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ مثلاً جب کوئی مصنف کسی بے جان کردار کی زبان میں بات کرتا ہے تو کیا پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے جان چیز سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے یا بے جان چیز اس کے اس انداز سے واقعہً بولنے لگے گی۔ صرف ایک انداز ہے جو پڑھنے والوں کو اچھا لگتا ہے۔ قرآن کریم کی اضافی خوبی یہ ہے کہ اس انداز کو اس طرح اختیار کرتا ہے کہ مضامین میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسی طرح قرآن کریم انبیاء کے مخالفین کے اقوال بھی بیان کرتا ہے۔ اب کیا ابن وراق کی موٹی عقل یہ فتویٰ دے گی کہ جہاں فرعون کا قول بیان کیا ہے وہاں خدا تعالیٰ نہیں بلکہ فرعون نے قرآن کے نزول سے چودہ صدیاں پہلے یہ آیت قرآن کریم میں داخل کر دی تھی؟ یا جہاں انبیاء کے اقوال کا حوالہ دیا ہے وہاں انبیاء نے خود اپنی طرف سے قرآن کریم میں وہ آیت داخل کر دی ہے؟ پس یہ حسن کلام کا ایک شہکار نمونہ ہے نہ کہ جائے اعتراض۔ قاری دیکھ لے کہ قرآن کریم کے انداز پر اعتراض کرنے والا یہ معترض ”ابن وراق“ اس معروف ادبی انداز کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ قرآن کا سٹائل کیا سمجھے گا۔

اعتراض: محققین کے مطابق قرآن کریم کی بہت سی آیات الحاقی ہیں

ابن وراق حسب معمول قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اختیار کیے گئے تمام تراجمات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

The authenticity of many verses has also been called into question not only by modern Western scholars, but even by Muslims themselves. Many Kharijites, who were followers of Ali in the early history of Islam, found the sura recounting the story of Joseph offensive, an erotic tale that did not belong in the Koran.

بہت سے جدید مغربی مستشرقین نے ہی نہیں بلکہ بہت سے مسلمانوں نے بھی اکثر آیات کے اسناد پر سوال اٹھایا ہے۔ بہت سے خارجی، جو کہ اسلام کی ابتدائی دور میں (حضرت) علیؑ کے پیروکار تھے، ان کے لیے سورت یوسف ناراضگی کا موجب ہے کیونکہ وہ جذبات کو انگیزت کرنے والی ایک ایسی کہانی ہے جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتی۔

اسی طرح کہتا ہے:

Shiites, of course, claim that Uthman left out a great many verses favorable of Ali for political reasons.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg: 112)

یقیناً اہل تشیع کا بھی دعویٰ ہے کہ (حضرت) عثمانؓ نے بہت سی ایسی آیات محض سیاسی

وجوہات کی بنا پر درج نہیں کیں جو کہ (حضرت) علیؑ کی مؤید تھیں۔

ہم ابن وراق سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہیں مغربی محققین اور خارجیوں سے ایسے قوی دلائل مل ہی گئے تھے تو ان دلائل کو چھپا کے کیوں رکھ لیا؟ اگر دلائل موجود تھے تو پھر جھوٹ اور فریب کی نجاست پر مبنی کیوں مارا؟ علمی بحث اپنی جگہ لیکن حقائق سے واقف قاری کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی اتنے قوی دلائل میسر تھے تو کیوں دجل اور تلبیس کی راہ اختیار کر کے خود کو غیر معتبر بنا لیا؟ بجائے اس کے کہ ان مسلمان محققین کے دلائل پیش کرتے، تم نے جھوٹ کا زہر کھایا اور علامہ سیوطیؒ کے بارہ میں خلاف واقعہ بات لکھی۔ اگر یہ مسلمان اور غیر مسلم محققین تمہاری امداد کے لیے موجود تھے تو کیوں انہیں پیش نہ کیا اور کیوں علامہ سیوطیؒ کے بارہ میں جھوٹ بولا؟ پس ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ تمہیں کہیں سے دلیل نہیں ملی اسی لیے تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑا

اور تبھی تو یہ اعتراض اٹھاتے ہوئے بھی کوئی دلیل پیش نہ کی۔

جہاں تک مغربی محققین کا چند آیات پر قلم اٹھانے کا سوال ہے اس بارہ میں عرض ہے کہ مغربی مستشرقین نے ہی قرآن کریم کی حفاظت پر بھی گواہیاں بھی دی ہیں کہ یہ راست راست بلا کم و کاست آج تک محفوظ ہے۔ ان گواہیوں کا ذکر گزشتہ سطور میں بھی آتا رہا ہے اور آئندہ بھی آتا رہے گا۔ پس سوال یہ ہے کہ جن محققین نے چند آیات کے استناد پر سوال اٹھایا ہے وہ اپنے اس دعویٰ کی صداقت کا ثبوت کیا دیتے ہیں؟ کسی کی محض ہرزہ سرائی تو قابل توجہ نہیں ہو سکتی۔

ان نام نہاد محققین نے ایک زمانہ تک محض تنگ نظری، تعصب اور اسلام دشمنی کو بنیاد بناتے ہوئے اسلام اور بانی اسلام پر گندے اور گھناؤنے اور بلا دلیل وثبوت اعتراضات کی بوچھاڑ جاری رکھی۔ ان کی مت اس قدر ماری گئی کہ اس حقیقت کو کلیہً فراموش کر بیٹھے کہ حقائق اور زمان و مکاں ان کے گھٹیا اور لچر تصورات کے پابند نہیں۔ چنانچہ جوں جوں یورپ جہالت کے اندھیروں سے باہر نکلنا شروع ہوا تو انوں میں مستشرقین کے سنجیدہ طبقہ کے حقیقت پسندانہ مطالعہ نے رفتہ رفتہ ان لغویات کو مسترد کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اور گھٹے گھٹے انداز میں یہ لوگ کبھی کبھی پادریوں اور نام نہاد مستشرق محققین کے دجل و فریب کا ذکر بھی کر دیتے اور اس رویہ پر ندامت کا اظہار اور معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتے۔ پھر ان میں کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے کھلم کھلا کہنا شروع کیا کہ مغربی محقق تعصب اور اسلام دشمنی میں علمی تحقیق کے نام پر دلوں کی سیاہی سے جو صفحات کالے کرتے رہے ہیں اور جس قبیح اور شرمناک علمی اور تاریخی بددیانتی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں یہ اب ان کے گلے کو طوق بن چکا ہے اور ہمیشہ ”مہذب مغرب“ کے لیے باعث عار اور باعث شرم رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے قائل تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ننگے اور عریاں جھوٹ سے پرہیز کیا جائے اور اسلامی تعلیم کا مطالعہ کر کے اس کا مقابلہ کیا جائے نہ کہ اپنے دماغ کے گند سے نئے نئے فلسفے اور قصے تخلیق کر کے اسلام کی طرف منسوب کیے جائیں۔ چنانچہ علمی تحقیق کے نام پر ان مستشرقین نے بھی اسی روایتی تعصب سے خوب کھل کر کام لیا۔

ابن وراق کے مددگار نام نہاد محققین کے بارہ میں تو خود مغرب کے دیانت دار محقق کہتے ہیں کہ محض اسلام دشمنی اور تعصب میں اسلام اور بانی اسلام اور قرآن کریم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی دُور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ کیرم آرمسٹرانگ، جیفری لیگ اور ایڈورڈ صیڈ کی تحقیق کا ذکر اس ضمن میں گزرا۔ ٹامس کارلائل کی گواہی بھی سن لیجیے:

Our current hypothesis about Mahomet, that he was a scheming Imposter, a Falsehood incarnate, that his religion is a mere mass of quackery and fatuity, begins really to be now untenable to any one. The lies, which

well-meaning zeal has heaped around this man, are disgraceful to ourselves only.

(Thomas Carlyle: On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, p. 41)

ہمارا یہ تصور اب کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں رہا کہ نبی عربی (ﷺ) نعوذ باللہ ایک دھوکہ دینے والے شخص تھے، اُن کا ذہن خرامات کا مجموعہ تھا۔ عمداً جانتے بوجھتے ہوئے ان کے خلاف جو کذب و افترا کا طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے یہ صرف ہماری ہی ذلت کا موجب ہوا ہے۔

اور اس رویہ کی مذمت کرنے والوں کی یہ فہرست چھوٹی نہیں ہے۔ بہت سے دیانت دار اہل علم جیسے جارج برناڈشا، جان لینن پورٹ، سٹینلین پول، ڈاکٹر ہنری اسٹب، گاڈفرے، اور بہت سے محققین جنہیں تمام دُنیا عظیم تسلیم کرتی ہے، کھل کر یہ کہتے ہیں کہ مغربی محققین کا محض کہانیاں بیان کر دینا تو معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تک کوئی دلیل پیش نہ کی جائے ایسے لچر اعتراضات قابل اعتنا نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہ تو عیسائیت اور اہل مغرب کے لیے باعثِ ذلت ہیں۔ اب ابن وراق نے مغرب کا یہ ننگ دوبارہ اُچھال دیا ہے۔ اہل مغرب کو آستین کے اس سانپ پر اور اس قماش کے دوسرے نام نہاد محققین پر نظر رکھنی چاہیے۔

تاریخی اور نقلی دلائل کے بارہ میں عام طور پر مستشرقین اختلاف کرنے کی زیادہ جرأت نہیں کرتے یا اگر کرتے ہیں تو ابن وراق والا ہتھیار استعمال کرتے ہیں؛ یعنی دجل اور فریب۔ ایک اور عجیب و طیرہ یہ بھی ہے مستشرقین کا کہ عربی زبان کے علم میں کورے ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اس آیت کا سائل ایسا ہے کہ یہ اس سورۃ کی نہیں لگتی یا یہ کہ اس کا سائل بتاتا ہے کہ یہ آیت بعد میں شامل کی گئی ہے۔ چونکہ ابن وراق نے مستشرقین کے حوالہ سے یہ ذکر نہیں کیا کہ اُن کے پاس اس دعویٰ کا ثبوت کیا ہے اس لیے ہم انہیں جوابات پر اکتفا کرتے ہیں جو گزشتہ میں درج ہو چکے۔

جہاں تک ابن وراق کے اس قول کا تعلق ہے کہ مسلمانوں نے خود اس بارہ میں شک کا اظہار کیا ہے کہ بعض آیات قرآن کریم کا حصہ نہیں ہیں اور پھر اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ حضرت علیؑ کے پیروکار خارجوں نے سورۃ یوسف پر اعتراض کیا ہے کہ یہ سورت کلامِ الہی کا حصہ نہیں ہو سکتی۔

اس کے جواب میں ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف مکی دور میں نازل ہوئی اور کبھی کسی مخالف نے یہ اعتراض نہ کیا کہ ایک طرف تو ہماری اخلاقی حالتوں پر ہمیں ملزم ٹھہراتے ہو اور ہماری اصلاح کا دعویٰ لے کر سامنے آئے ہو اور دوسری طرف ایسی اخلاق باختہ سورت پیش کرتے ہو؟ حضرت ابوبکرؓ کے دورِ خلافت میں جمع قرآن کے وقت کسی نے اعتراض نہ کیا اور تمام امت نے متفقہ طور پر گواہی دی کہ موجودہ صورت میں قرآن کریم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو کلامِ الہی کا حصہ نہ ہو اور انتہائی اعلیٰ درجہ کا استناد اپنے اندر نہ رکھتا ہو۔ پھر اس گواہی کے ساتھ اکٹھا کیا ہوا قرآن کریم کا نسخہ حضرت علیؑ کے دورِ خلافت میں بھی موجود تھا۔ یہ نسخہ اور قرآن کریم

کے وہ نسخے جو کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے نسخے سے نقل کروائے تھے ان سب پر حضرت علیؓ نے خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا۔ سچ البلاغہ میں درج آپؐ کے 127 نمبر خطبہ میں تو آپؐ یہاں تک فرماتے ہیں کہ عثمانؓ نے جو کام کیا ہے وہ اگر نہ کرتے تو یہی خدمت میں سرانجام دیتا۔ آپؐ اپنے دورِ خلافت میں اسی قرآن کریم کو استعمال کرتے رہے۔ پس جب اس درجہ استناد کے ساتھ قرآن کریم محفوظ کیا گیا اور حضرت علیؓ بھی اسے ہی استعمال کرتے رہے تو خارجیوں کے ہاتھ ایسی کون سی دلیل لگ گئی جو انہوں نے اعتراض کر دیا؟ خارجیوں کے سردار (بقول ابن وراق۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات) تو قرآن کریم کے استناد کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ رسول کریمؐ سے لے کر اب تک محفوظ ہے اور آپؐ کو سورۃ یوسف پر بھی کوئی اعتراض نہیں تو پھر خارجیوں کو کیا اعتراض ہے؟ پھر حیرت کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپؐ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے جمع قرآن کے دور میں اور پھر حضرت عثمانؓ کے عہدِ خلافت میں تو سورۃ یوسف پر نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا ہے اور نہ مخالفوں کی طرف سے لیکن حضرت علیؓ کے دور میں جبکہ مسلمانوں کے خلاف سیاسی محاذ آرائیاں اپنے عروج پر تھیں یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ پس خارجیوں نے سورت یوسف کے کلام الہی نہ ہونے کی کیا دلیل دی؟ کیا وہ خود ملہم من اللہ ہونے کے دعویدار تھے اور خدا تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ یہ سورت قرآن کریم کا حصہ نہیں بلکہ بعد میں ڈالی گئی ہے یا انہوں نے اس سورت کے الحاقی ہونے کے بارہ میں کوئی ثبوت پیش کیا تھا؟

ابن وراق کا یہ کہنا بھی ایک خلاف حقیقت بات ہے کہ خارجی حضرت علیؓ کے ابتدائی دور کے پیروکار تھے۔ خارجیوں پر بحث کا موقع نہیں مختصراً بیان کرنا ہی مناسب ہے کہ اگر اس دور کے حالات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ خارجی وہ سیاسی لوگ تھے جن کے خاص عزائم تھے جیسے خلافت راشدہ کو اور اسلامی مرکزیت کو ختم کرنا اور اسلامی اتحاد کو پارہ پارہ کرنا اور وہ ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے مذہب کا غلط طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کا سرغنہ عبداللہ بن سبا ایک بہت ذہین اور باصلاحیت یہودی تھا اور اس نے جرائم پیشہ لوگ اکٹھے کر لیے تھے اور کچھ سادہ لوح مسلمانوں کو بھی دھوکہ اور فریب کی راہ سے ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ یہ مسلمان زیادہ تر عدم تربیت یافتہ نومبایعین تھے جو مرکز سے دُور رہتے تھے اور مرکز سے رابطہ نہ رکھنے یا مذہب میں زیادہ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ تھے لیکن چونکہ تھے مسلمان اس لیے عبداللہ بن سبا ان کو حضرت علیؓ کے حوالہ سے دھوکہ دیتا تھا کہ حضرت علیؓ خط لکھ لکھ کر عبداللہ بن سبا کی رہنمائی کر رہے ہیں اور حضرت عثمانؓ کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں۔ ساتھ ہی اس ڈر سے کہ حضرت علیؓ کو علم ہو گیا تو اس کی خیر نہیں، وہ عیار انسان یہ بھی کہتا کہ ان خطوط کے مضمون کو راز ہی رکھو ورنہ (حضرت) عثمان (رضی اللہ عنہ) کو خبر ہو گئی تو ان کے ہاتھوں حضرت علیؓ اور زیادہ پریشان ہوں گے۔ اس گروہ کے باقی کرتا دھرتا اور لیڈر صرف نام کے مسلمان اور درحقیقت

انتہائی گھٹیا کردار کے مالک تھے۔ انہیں اسلامی تعلیمات کی چنداں پرواہ نہ تھی۔ یہ وہی خارجی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور پھر حضرت عثمانؓ کی شہادت کو مزید سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا۔ وہ مسلمانوں میں فساد اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے قرآن کو نیزوں پر بلند کرتے اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کا مطالبہ کرتے اور حضرت علیؓ سے مطالبہ کرتے کہ قتل عثمانؓ کے ذمہ دار افراد سے قصاص لیا جائے۔ اب اگر یہ جھوٹے لوگ کہہ رہے ہوں کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے۔ پھر وہ کون سی کتاب تھی جس کے مطابق وہ فیصلہ چاہتے تھے؟ سیاسی عزائم پورے کرنے والی بے ایمان مفسد قوم جس کا علم اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ان کا قول جس قول کے ساتھ کوئی دلیل بھی نہ ہو کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ بہر حال خارجی جو بھی تھے اس کا حفاظت قرآن کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے اس تفصیل میں جانا مضمون سے انحراف کا موجب ہوگا۔ صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کو حضرت علیؓ کا پیروکار قرار دینا ابن وراق کی غلط بیانی ہے۔ خارجی وہ پہلی قوم تھی جس نے خلفاء کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا شروع کیں۔ یہ جھوٹی تحریرات بنانے میں ماہر تھے۔ پس یہ تو ایک ایسا سیاسی گروہ تھا جو عبد اللہ بن سبا کے تحت ملک میں سیاسی ریشہ دوانیوں میں مشغول رہا کرتا تھا اور اپنے مزموم مقاصد کے حصول کے لیے ایسے بیان جاری کرتے رہتے تھے جن کا مقصد صرف سیاسی منفعت تھی اور بس۔

خارجیوں کے بارہ میں حضرت رسول کریم ﷺ نے بطور پیشگوئی فرمایا تھا کہ:

میرے بعد میری امت میں ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو قرآن کریم پڑھیں گے مگر قرآن ان کی گردنوں سے نیچے نہ جائے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے گویا تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ کبھی لوٹیں گے نہیں۔ وہ بدترین اخلاق والی بدترین مخلوق ہوں گے۔

(بخاری کتاب الجہاد باب فی قتال الخوارج)

ابن وراق کے انتخاب کی بھی داد دینی پڑتی ہے کہ صرف اس دور کے دھوکہ بازوں اور غلطی خوردہ لوگوں کے حوالہ جات ہی اکٹھے نہیں کیے بلکہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اپنے ہم قماش ڈھونڈ لیے۔ پہلے بنو نجار کا گناہ عیسائی ڈھونڈ کر اُسے عبد اللہ بن سرح کا نام دیا اور اب عبد اللہ بن سبا ایک یہودی ڈھونڈ کر اُسے حضرت علیؓ کا پیروکار بنا دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ لیکن اب تک کوئی ایک بھی مستند ثبوت پیش نہیں کیا بلکہ سارا زور جھوٹ اور دجل اور تاریخی حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنے پر ہے۔

پھر اس حوالہ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر تاریخی شہادت نہیں ہے تو پھر قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کیا جائے۔ قرآن کریم یہ چیلنج دیتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن کریم غیر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کی کسی سورۃ کے برابر ان خوبیوں کا حامل کوئی کلام بنا کر دکھاؤ۔ یہ چیلنج بذات خود قرآن کریم کی حفاظت کی ایک دلیل اور پیشگوئی ہے۔ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کلام الہی نہیں بلکہ انسانی کلام ہے۔ محض زبان سے یہ کہہ دینا

بہت آسان ہے لیکن ثابت کرنا ناممکن ہے۔ اگر یہ کلام انسانی ہاتھ کا بنایا ہوا ہے تو پھر لازماً کوئی دوسرا شخص بھی ایسا کلام بنا سکتا ہے۔ پس اب یہ معترض کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ انسانی ہے تو اس کی مثل بنا کر ثابت کر دے کہ انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے۔ مگر قرآن کریم کی یہ بھی پیشگوئی ہے کہ کوئی معترض مثل نہیں بنا سکے گا۔ ایک طرف تو چیلنج دیا کہ قرآن کریم کے کسی بھی حصہ کی مثل لانا ہرگز تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا اور سورۃ یوسف کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ احسن القصص ہے۔ سورۃ یوسف پر اعتراض کر رہے ہو کہ الحاقی ہے پس اپنے دعویٰ کو سچا کرنے کے لیے کوئی مستند ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو سورت یوسف کی مثال بنا کر لے آؤ!

پس حقیقت تو دراصل یہی ہے جو امام الزماں علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ:

یونہی دیوانوں اور سودائیوں کی طرح اوہام باطلہ پیش کرنا جن کی کچھ بھی اصلیت نہیں۔ اس

بات پر پختہ دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کو راست بازوں کی طرح حق کا تلاش کرنا منظور ہی نہیں۔

(براہین احمدیہ چہارم حاشیہ گیارہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 226 ایڈیشن اول صفحہ 206)

قرآن کریم کے نزول کے بعد تو عربی زبان کی ادبی خصوصیات زیادہ کھل کر اور نکھر کر سامنے آئیں۔ قرآن کریم کی آیات کو بہترین ادبی مجموعہ قرار دیا گیا اور علم فصاحت اور علم بلاغت کی بنیاد قرآن کریم پر ڈالی گئی۔ اعلیٰ ادبی پیمانے قرآنی آیات کی روشنی میں بننے لگے۔ حسن بیان کے مثالی نمونوں کے طور پر قرآنی آیات پیش کی جاتیں۔ اسباب بلاغت و بداعت میں سینکڑوں قسم کے بدائع ہیں۔ مجاز، استعارہ، کنایہ، تمثیل، تشبیہ، اطناب، ایجاز، استطراد، حسن اتخلص، تضمین، تجنیس، تکرار، انسجام، ایہام، مبالغہ، مطابقت، مقبلہ، ارداف وغیرہ وغیرہ۔ آگے ان کی اقسام ہیں اہل اسلام نے قرآن کی خدمت میں صرف اسی علم کے میدان میں بے شمار علمی کارنامے سرانجام دیے۔ عربی زبان میں ایسے ایسے اہل علم پیدا ہوئے جو علم فصاحت و بلاغت کے گویا استاد مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی کسی سورت کو لے کر یہ نہیں کہا کہ یہ کلام ایسا ہے کہ انسانی ہونے کا اس میں شبہ بھی ہو سکے۔ بلکہ قرآنی آیات گویا پیمانہ تھیں کسی بھی اہل زبان کے حُسن کلام کو جانچنے کا۔ خارجیوں نے ایک سورت کو لے کر یہ تو کہہ دیا کہ یہ سورت الہی کلام نہیں ہو سکتی لیکن کیا انہوں نے اپنے دعویٰ کی صداقت میں کوئی دلیل پیش کی یا قرآن کریم کا چیلنج قبول کیا اور مثال پیش کی؟

اب یہ دیکھتے ہیں کہ خارجی جس وجہ سے سورۃ یوسف کو جائے اعتراض ٹھہراتے ہیں وہ کس حد تک درست ہے اور خارجیوں کے حوالے سے یہ ابن وراق کا یہ کہنا کہاں تک سچ ہے کہ سورۃ یوسف میں جذبات کو انگیخت کرنے والا بیان ہے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ قارئین کے سامنے سورۃ یوسف کا مکمل ترجمہ پیش کر دیا جائے؛ گو کلام کا اصل حسن تو عربی عبارت میں ہی ہے مگر اس وقت بحث حسن بیان کی نہیں بلکہ یہ ہے کہ آیا اس سورۃ میں جذبات کو انگیخت کرنے والی کوئی بات ہے؟

۱۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، دین مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ۲۔ اَنَا اللّٰهُ اَرٰی: میں اللہ ہوں۔ میں دیکھتا ہوں۔ یہ ایک کھلی کھلی کتاب کی آیات ہیں۔ ۳۔ یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پر نازل کیا تاکہ تم عقل کرو۔ ۴۔ ہم نے جو یہ قرآن تجھ پر وحی کیا اس کے ذریعہ ہم تیرے سامنے ثابت شدہ تاریخی حقائق میں سے بہترین بیان کرتے ہیں جبکہ اس سے پہلے (اس بارہ میں) تُو غافلوں میں سے تھا۔ ۵۔ (یاد کرو) جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ! یقیناً میں نے (رُویا میں) گیارہ ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں۔ (اور) میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ ریز دیکھا۔ ۶۔ اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے! اپنی رُویا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ ۷۔ اور اسی طرح تیرا رب تجھے (اپنے لئے) چُن لے گا اور تجھے معاملات کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھا دے گا اور اپنی نعمت تجھ پر تمام کرے گا اور آلِ یعقوب پر بھی جیسا کہ اس نے اُسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پہلے تمام کیا تھا۔ یقیناً تیرا رب دائمی علم رکھنے والا (اور) حکمت والا ہے۔ ۸۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں (کے واقعہ) میں پوچھنے والوں کے لیے کئی نشانات ہیں۔ ۹۔ (یاد کرو) جب انہوں نے کہا کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک مضبوط ٹولی ہیں۔ یقیناً ہمارا باپ ایک ظاہر و باہر غلطی میں مبتلا ہے۔ ۱۰۔ یوسف کو قتل کر ڈالو یا اُسے کسی جگہ پھینک آؤ تو تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہارے لیے رہ جائے گی اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جانا۔ ۱۱۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اُسے کسی کنویں کی اوجھل تہوں میں پھینک دو جو چراگاہ کے پاس واقع ہو۔ اسے کوئی قافلہ اٹھالے جائے گا۔ (یہی کرو) اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ۱۲۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ! تجھے کیا ہوا ہے کہ تو یوسف کے بارہ میں ہم پر اعتماد نہیں کرتا جبکہ ہم تو یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ ۱۳۔ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دے تا وہ کھاتا پھرے اور کھیلے جبکہ ہم اس کے یقیناً محافظ ہوں گے۔ ۱۴۔ اس نے کہا یقیناً مجھے یہ بات فکر میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑ یا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ ۱۵۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑ یا کھا جائے جبکہ ہم ایک مضبوط ٹولی ہیں تب تو ہم یقیناً بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ۱۶۔ پس جب وہ اسے لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے ایسے کنویں کی اوجھل تہوں میں پھینک دیں

جو چراہ گاہ کے پاس واقع تھا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تُو (ایک دن) یقیناً انہیں ان کی اس کارستانی سے آگاہ کرے گا اور انہیں کچھ پتہ نہ ہوگا (کہ تُو کون ہے)۔ ۱۷ اور رات کے وقت وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ ۱۸۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ! یقیناً ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے ہوئے (دُور) چلے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا پس اسے بھیڑیا کھا گیا اور تُو کبھی ہماری ماننے والا نہیں خواہ ہم سچے ہی ہوں۔ ۱۹۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے نفوس نے ایک بہت سنگین بات تمہارے لیے معمولی اور آسان بنا دی ہے۔ پس صبر جمیل (کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں) اور اللہ ہی ہے جس سے اس (بات) پر مدد مانگی جائے جو تم بیان کرتے ہو۔ ۲۰۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا۔ اس نے کہا اے (قافلہ والو) خوشخبری! یہ تو ایک لڑکا ہے اور انہوں نے اسے ایک پونجی کے طور پر چھپا لیا اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کرتے تھے۔ ۲۱۔ اور انہوں نے اسے معمولی قیمت چند دراہم کے عوض فروخت کر دیا اور وہ اس کے بارہ میں بالکل بے رغبت تھے۔ ۲۲۔ اور جس نے اُسے مصر سے خریدا اپنی بیوی سے کہا اسے عزت کے ساتھ ٹھہراؤ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اس طریقہ سے ہم نے یوسف کے لیے زمین میں جگہ بنا دی اور (یہ خاص انتظام اس لیے کیا) تاکہ ہم اسے معاملات کی تہہ تک پہنچنے کا علم سکھا دیں اور اللہ اپنے فیصلہ پر غالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ۲۳۔ اور جب وہ اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچا تو اسے ہم نے حکمت اور علم عطا کئے اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ ۲۴۔ اور اُس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس کے بارہ میں پھسلانے کی کوشش کی اور دروازے بند کر دیئے اور کہا تم میری طرف آؤ۔ اس (یوسف) نے کہا خدا کی پناہ! یقیناً میرا رب وہ ہے جس نے میرا ٹھکانا بہت اچھا بنایا۔ یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ ۲۵۔ اور یقیناً وہ اس کا پختہ ارادہ کر چکی تھی اور وہ (یعنی یوسف) بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی ایک عظیم بُرہان نہ دیکھ چکا ہوتا۔ یہ طریق اس لیے اختیار کیا تاکہ ہم اس سے بدی اور فحشاء کو دور رکھیں۔ یقیناً وہ ہمارے خالص کئے گئے بندوں میں سے تھا۔ ۲۶۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے اور اس (عورت) نے پیچھے سے (اُسے کھینچتے ہوئے) اس کی قمیص پھاڑ دی اور ان دونوں نے اس کے سرتاج کو دروازے کے پاس پایا۔ اُس (عورت) نے کہا جو تیرے گھر والی

سے بدی کا ارادہ کرے اس کی جزا قید کئے جانے یا دردناک عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔

۲۷۔ اس (یعنی یوسف) نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس کے بارہ میں پھسلانے کی کوشش کی تھی اور اس کے گھر والوں ہی میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اُس کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہی سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ ۲۸۔ اور اگر اُس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ ۲۹۔ پس جب اس نے اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو (بیوی سے) کہا یقیناً یہ (واقعہ) تمہاری چالبازی سے ہوا۔ یقیناً تمہاری چالبازی (اے عورت!) بہت بڑی ہوتی ہے۔ ۳۰۔ اے یوسف! اس سے اعراض کر اور تو (اے عورت!) اپنے گناہ کی وجہ سے استغفار کر۔ یقیناً تو ہی ہے جو خطا کاروں میں سے تھی۔ ۳۱۔ اور شہر کی عورتوں نے کہا کہ سردار کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس کے بارہ میں پھسلاتی ہے۔ اس نے محبت کے اعتبار سے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ یقیناً ہم اسے ضرور ایک کھلی کھلی گمراہی میں پاتی ہیں۔ ۳۲۔ پس جب اُس نے اُن کی مکاری کی بات سنی تو اُنہیں بلا بھیجا اور اُن کے لیے ایک ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جگہ تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری پکڑادی اور اس (یعنی یوسف) سے کہا کہ ان کے سامنے جا۔ پس جب انہوں نے اسے دیکھا اسے بہت عالی مرتبہ پایا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا پاک ہے اللہ۔ یہ انسان نہیں۔ یہ تو ایک معزز فرشتہ کے سوا کچھ نہیں۔ ۳۳۔ وہ بولی یہی وہ شخص ہے جس کے بارہ میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں اور یقیناً میں نے اسے اس کے نفس کے بارہ میں پھسلانے کی کوشش کی تو وہ بچ گیا اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ ۳۴۔ اس نے کہا اے میرے رب! قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو مجھ سے اُن کی تدبیر (کامنہ) نہ پھیر دے تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ۳۵۔ پس اس کے رب نے اُس کی دعا کو سنا اور اس سے ان کی چال کو پھیر دیا۔ یقیناً وہی بہت سننے والا (اور) دائمی علم رکھنے والا ہے۔ ۳۶۔ پھر بعد اُس کے جو آثار انہوں نے دیکھے اُن پر ظاہر ہوا کہ کچھ عرصہ کے لیے اسے ضرور قید خانہ میں ڈال دیں۔ ۳۷۔ اور اس کے ساتھ قید خانہ میں دونو جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یقیناً میں (رؤیا میں) اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب بنانے کی خاطر رس نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں (رؤیا میں) اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ

اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی تعبیر سے مطلع کر۔ یقیناً ہم تجھے احسان کرنے والے لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ ۳۸۔ اس نے کہا کہ تم دونوں تک وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر میں تمہارے پاس اُس کے آنے سے پہلے ہی ان (خوابوں) کی تعبیر سے تم دونوں کو مطلع کر چکا ہوں گا۔ یہ (تعبیر) اس (علم) میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ یقیناً میں اس قوم کے مسلک کو چھوڑ بیٹھا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ ۳۹۔ اور میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی۔ ہمارے لیے ممکن نہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے۔ یہ اللہ کے فضل ہی سے تھا جو اس نے ہم پر اور (مومن) انسانوں پر کیا لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے۔ ۴۰۔ اے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! کیا کئی مختلف رب بہتر ہیں یا ایک صاحبِ جبروت اللہ؟ ۴۱۔ تم اُس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر ایسے ناموں کی جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود ہی اُن (فرضی خداؤں) کو دے رکھے ہیں جن کی تائید میں اللہ نے کوئی غالب آنے والی برہان نہیں اتاری۔ فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا دین ہے لیکن اکثر انسان نہیں جانتے۔ ۴۲۔ اے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! جہاں تک تم دونوں میں سے ایک کا تعلق ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو وہ سولی پر چڑھایا جائے گا پس پرندے اس کے سر میں سے کچھ (نوح نوح کر) کھائیں گے۔ اُس بات کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے جس کے بارہ میں تم دونوں استفسار کر رہے تھے۔ ۴۳۔ اور اس نے اُس شخص سے جس کے متعلق خیال کیا تھا کہ ان دونوں میں سے وہ بچ جائے گا کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اُسے بھلا دیا کہ اپنے آقا کے پاس (یہ) ذکر کرے۔ پس وہ چند سال تک قید خانہ میں پڑا رہا۔ ۴۴۔ اور بادشاہ نے (دربار میں) بیان کیا کہ میں سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں سات دُلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سرسبز بالیاں اور کچھ دوسری سوکھی ہوئی بھی (دیکھتا ہوں)۔ اے سردارو! مجھے میری روڈیا کے بارہ میں تعبیر سمجھاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو۔ ۴۵۔ انہوں نے کہا یہ پراگندہ خیالات پر مشتمل نفسانی خوابیں ہیں اور ہم نفسانی خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے۔ ۴۶۔ اور اس شخص نے جو اُن دونوں (قیدیوں) میں سے بچ گیا تھا اور ایک طویل مدت کے بعد اس نے (یوسف کو) یاد کیا،

یہ کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا پس مجھے (یوسف کی طرف) بھیج دو۔ ۴۷۔ یوسف اے راستباز! ہمیں سات موٹی گائیوں کا جنہیں سات ڈبلی گائیں کھا رہی ہوں اور سات سبز و شاداب بالیوں اور دوسری سوکھی ہوئی بالیوں کے بارہ میں مسئلہ سمجھاتا کہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں شاید کہ وہ (اس کی تعبیر) معلوم کر لیں۔ ۴۸۔ اس نے کہا کہ تم مسلسل سات سال تک کاشت کرو گے۔ پس جو تم کا ٹوا سے اس کی بالیوں میں رہنے دو سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم اس میں سے کھاؤ گے۔ ۴۹۔ پھر اس کے بعد سات بہت سخت (سال) آئیں گے جو وہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے آگے بھیجا ہوگا سوائے اس میں سے تھوڑے سے حصہ کے جو تم (آئندہ کاشت کے لئے) سنبھال رکھو گے۔ ۵۰۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگ خوب سیراب کئے جائیں گے اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ ۵۱۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ پس جب اپیلچی اس (یعنی یوسف) کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھیں۔ یقیناً میرا رب ان کی چال کو خوب جانتا ہے۔ ۵۲۔ اس (بادشاہ) نے پوچھا (اے عورتو!) بتاؤ تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس کے بارہ میں پھسلانا چاہا تھا۔ انہوں نے کہا پاک ہے اللہ۔ ہمیں تو اس کے خلاف کسی بُرائی کا علم نہیں۔ سردار کی بیوی نے کہا اب سچائی ظاہر ہو چکی ہے۔ میں نے ہی اسے اس کے نفس کے بارہ میں پھسلانا چاہا تھا اور یقیناً وہ صادقوں میں سے ہے۔ ۵۳۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ (عزیز مصر) جان لے کہ میں (یعنی یوسف) نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی کوئی خیانت نہیں کی اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو سرے نہیں چڑھاتا۔

(ترجمہ از حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ)

جس پر ابن وراق کو اعتراض پیدا ہوا ہے اس بیان میں تو حضرت یوسفؑ کی پاکیزگی، تقویٰ، صحت نیت، خدا پر ایمان، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرما رہا ہے کہ اگر تقویٰ اور حسن نیت ہو اور دل میں بدی کا ارادہ نہ ہو تو بھی انسان بدی سے اپنے طور پر نہیں بچ سکتا۔ ہاں اگر انسان یہ تمام شرائط پوری کرے تو پھر شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ مدد نازل کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دے دی کہ اے بنی نوع اپنے نفس کی پاکیزگی، نیت کی صفائی اور تقویٰ میں ترقی کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے بدیوں سے بچنے کے لیے مدد طلب کرو اور اس بارہ میں بھی راہنمائی کردی کہ انسان کو خدا کی خاطر ابتلاء بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں اور بددیانت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھوٹ اور دجل کی راہ سے خدا کے

بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کے بندوں کے تقویٰ اور شرافت کو دیکھ کر بھی بجائے پر نادام ہونے کے، دل میں ٹھان لیتے ہیں کہ اس شخص کی نیکی اور تقویٰ کو زک پہنچا کر رہنا ہے اور اس کے لیے سچی بنیاد تو کوئی ملتی نہیں پس جھوٹ اور فریب اور دھوکہ دہی سے کوشش کرتے ہیں۔ ایسی صورت حال سے اگر کوئی شخص دوچار ہو جائے تو سوائے اللہ کے کوئی ہستی ایسی نہیں جو انسان کی حفاظت کر سکے اور اللہ حفاظت کرتا بھی ہے۔

پس بیان بھی قاری کے سامنے ہے اور اس سے ظاہر ہونے والی تعلیم بھی۔ یہ بیان پڑھ کر کس کے جذبات میں ہیجان پیدا ہوا ہے؟ آج نام نہاد مہذب مغرب نیز دنیا کے دیگر ممالک میں لوگ کیا سورت یوسف پڑھ کر ان کر تو توں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا ہی ایک باغیرت اور باحیا معاشرہ میں معیوب سمجھا جاتا ہے؟ مہذب ثقافتوں کے نام پر یورپ اور امریکہ کی عریاں کٹافٹیں کس تعلیم کا ثمرہ ہیں؟ آج کی مہذب دنیا میں پھیلی بے غیرتی اور بے حیائی کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ حزقیل باب 23 کی تعلیم کا؟ کون سا نام نہاد مسلمان ہے جو یورپ کے گھر گھر پائی جانے والی دیوٹی جیسی دیوٹی کا مرتکب ہونے کے لیے سورت یوسف کا حوالہ دیتا ہے؟ اس پاکیزہ تعلیم کے مطالعہ سے تو انسان خدا تعالیٰ کے اور قریب ہوتا ہے اور خدا کی محبت اور نیکی کی محبت اور تقویٰ میں ترقی کرتا ہے۔

یہ ساری سورت حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کے واقعات سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلاً آپ کے ساتھ جو دو قیدی تھے ان دونوں کی رویا کی حضرت یوسف نے ایسی تعبیر فرمائی جو بعینہ پوری ہوئی اور اسی وجہ سے وہ قیدی جس کے بچنے کی خوشخبری دی گئی تھی، ذریعہ بن گیا کہ بادشاہ کی اس رویا کے متعلق حضرت یوسف سے تعبیر طلب کرتا جس کو درباری علمائے محض نفس کے خیالات سے تعبیر کیا تھا اور حضرت یوسف کی تعبیر ہی کے عین مطابق یہ عظیم الشان واقعہ ہوا کہ مصر اور اس کے اردگرد ایسے غمناکوں نے یقیناً فاتحوں سے مرجانا تھا فاقہ کشی کے عذاب سے بچائے گئے اور مسلسل سات برس تک ان کو غذا مہیا کی گئی اور اس انتظام کے نگران خود حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام بنائے گئے اور اسی وجہ سے بالآخر آپ کے والدین اور بھائیوں کو آپ ہی کی پناہ میں آنا پڑا اور وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔

یہ تاریخ کے ایسے واقعات ہیں جن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت ذاتی علم نہیں ہو سکتا تھا اس لیے فرمایا کہ تو ان لوگوں میں موجود نہیں تھا جب یہ سب کچھ رونما ہو رہا تھا۔ یہ محض ایک علیم و خیر اللہ ہی ہے جو تجھے ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ فرما رہا ہے۔

غالباً سورت یوسف میں بیان فرمودہ اس واقعہ پر ابن وراق اپنے اعتراض کی بنیاد رکھ رہا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے آپ کی مرضی کے خلاف ایک ناجائز فعل میں الجھانا چاہا۔ مگر سارا واقعہ پڑھ جائیں تو روح آستانہ الوہیت پر سجدہ ریز ہوتی ہے گجایہ کہ جذباتی ہیجان پیدا ہو۔ جب کہ بائبل میں

ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ پڑھ کر ہی شرم آتی ہے۔ مثلاً حضرت لوٹ پر اپنی بیٹیوں سے زنا کے بیہودہ الزامات کا شرمناک بیان (پیدائش 36-19/31) اور حضرت نوح پر شراب نوشی اور نشہ کی حالت میں برہنہ ہو جانے کے لچر الزامات (پیدائش 25-9/20) اور حزقیل نبی کی کتاب کے باب 23 کا حیا سوز بیان جو یورپ کے عیسائی سے تو بعید نہیں مگر اسلامی دنیا میں رہنے والے کسی عیسائی کے لیے بھی اپنے گھر میں ماں بیٹی کے سامنے پڑھنا مشکل ہوگا۔

سورت یوسف پر اعتراض کے بعد سورۃ الشوریٰ کی چند آیات کے بارہ میں بلا ثبوت کہتا ہے کہ:

On the other hand, most scholars do believe that there are interpolations in the Koran; these interpolations can be seen as interpretative glosses on certain rare words in need of explanation. More serious are the interpolation of a dogmatic and political character, such as 42.36-38, which seems to have been added to justify the elevation of Uthman as caliph to the detriment of Ali. Then there are other verses that have been added in the interest of rhyme, or to join together two short passages that on their own lack any connection.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg: 112)

پھر اکثر محققین بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے۔ یہ تحریفات غیر واضح الفاظ کی تفسیر و توضیح میں لکھے گئے تشریحی جملوں کی صورت میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ زیادہ سنجیدہ تحریفات اعتقادی اور سیاسی نوعیت کی ہیں؛ جیسا کہ 42.36-38 جو کہ (حضرت) عثمان (رضی اللہ عنہ) کو بطور خلیفہ (حضرت) علی (رضی اللہ عنہ) سے زیادہ حق دار ثابت کرنے کے لیے داخل کی گئی ہیں۔ پھر دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو شاعرانہ تنگ بندیاں جوڑنے کے لیے داخل کی گئی ہیں یا ایسی دو آیات کا باہمی ربط پیدا کرنے کے لیے ڈالی گئی ہیں جن کا دراصل آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا۔

ابن وراق کے اس دجل کے جواب میں ہم ایک جانے مانے مستشرق ویلیم میور کے الفاظ درج کر دیتے ہیں۔

No early or trustworthy traditions throw suspicion upon Othman of tempering with the Coran in order to support his own claim. The Sheeah of later times, indeed, pretend that Othman left out certain Suras of passages which favoured Ali. But this is incredible..... At the time of the recension, there were still multitudes alive who had the Coran, as originally delivered, by heart; and of the supposed passages favouring Ali had any ever existed there would have been numerous transcripts in the hands of his family and followers. Both

of these sources must have proved an effectual check upon any attempt or suppression.

(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Pg: 558-559)

کسی بھی پرانی اور معتبر روایت سے ذرہ بھر شک کرنے کی وجہ پیدا نہیں ہوتی کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے دعویٰ کی تائید میں قرآن شریف میں ایک ذرہ بھی تصرف کیا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ متاخرین شیعوں نے یہ غلط بات گھڑ رکھی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے بعض سورتیں اور آیات جو حضرت علیؓ کے حق میں تھیں، عمداً قرآن میں درج نہ کرنے دی تھیں۔ لیکن شیعوں کی یہ بات بالکل قابل اعتبار نہیں..... حضرت عثمانؓ کے تدوین قرآن کے وقت ابھی ہزار ہا ایسے حفاظ صحابہ زندہ تھے جنہوں نے وقت نزول سے ہی قرآن شریف کو سن کر حفظ کر لیا ہوا تھا اور اگر حضرت علیؓ کے حق میں کوئی ایسی سورت یا آیت ہوتی تو ضرور اہل خانہ اور ہزار ہا دیگر ایسے لوگوں کے پاس محفوظ ہوتی جو حضرت علیؓ کے ساتھ اخلاص اور تعلق رکھتے تھے۔ یہ دونوں ذرائع ایسی جسارت یا تصرف کو ثابت کرتے اور مؤثر انداز میں اس کی روک تھام کرتے۔

اس جواب کے ساتھ ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں یہ آیات ترجمہ کے ساتھ درج کر دی جائیں۔ قاری خود فیصلہ کر لے کہ کہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حق تلفی کی بات ہو رہی ہے۔

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا
غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَأَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ (آیات 37 تا 39)

ترجمہ: اور جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ ورلی زندگی کا سامان ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ مومنوں اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور (ان کے لیے) جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور جو اپنے رب کی آواز کو قبول کر لیتے ہیں اور نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں اور ان کا طریق یہ ہے کہ اپنے ہر معاملہ کو باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اب ان آیات میں کہاں سیاسی نوعیت کی ہیرا پھیری ہے؟ صاف اور سیدھا سادا مضمون ہے۔ مومنوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر اعلیٰ درجہ کے مومن بننا ہے تو تمہیں چاہیے کہ ان ان خصوصیات کے حامل بنو۔

پھر ایک سوال یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے کیوں اس نسخہ پر کوئی اعتراض نہ کیا؟ حالانکہ آپؑ نے تو خود بھی قرآن جمع کیا تھا اور حافظ قرآن بھی تھے۔ پس آپ کو بکلی اتفاق تھا اور تسلی تھی جس کا نہج البلاغہ میں درج آپؑ کے خطبات میں بار بار ذکر ملتا ہے۔ پھر یہ بھی غور طلب بات ہے کہ حضرت عمرؓ باوجود انتہائی اہم سمجھنے کے رجم کے ایک حکم کو تو قرآن کریم کے حاشیہ میں بھی درج نہیں کرتے کہ مسلمان اعتراض کریں گے گجایہ کہ اتنی بہت سی آیات متن قرآن کا حصہ بنا دی جائیں اور صحابہ میں سے کوئی آواز بلند نہ ہو۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آیت ڈالی گئی تھی تو حضرت علیؑ نے اپنے عہد خلافت میں اس کو نکال کیوں نہیں دیا؟ نیز کیوں خارجیوں نے اس آیت کے نکالنے پر اصرار نہ کیا؟ آخر مکمل سورۃ یوسف کی نسبت چند آیات کا نکالنا زیادہ آسان تھا۔ سورۃ یوسف پر تو اعتراض کر دیا مگر ان آیات پر نہ کیا۔ پھر بقول ابن وراق خارجی تو حضرت علیؑ کے پیروکار تھے۔ اپنے آقا کی حق تلفی پر کیوں خاموش رہے؟ اور جب حضرت علیؑ کا عہد خلافت شروع ہوا تو پھر ان آیات کو نکالنے میں کیا روک تھی؟

جہاں تک اس وسوسہ کا تعلق ہے کہ بعد میں شامل کی گئی آیات میں سے ”دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو شاعرانہ تک بندیاں جوڑنے کے لیے داخل کی گئی ہیں یا ایسی دو آیات کو آپس میں جوڑنے کے لیے ڈالی گئی ہیں جن کا دراصل آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا۔“ تعجب ہے کہ یہ شاعرانہ تنگ بندیاں آج ابن وراق کو تو نظر آگئیں مگر اہل کمال عرب سخن و روں، لبید، طفیل، ضمرازدی، عمرو بن جموح وغیرہ کو علم ہی نہ ہوا کہ جس کلام کو وہ بلند شان اور غیر معمولی سمجھ کر کلام الہی تسلیم کر بیٹھے ہیں وہ تو ابھی غیر مربوط آیات ہیں اور آئندہ ابھی کچھ آیات شامل کرنے کے بعد اس قابل ہوگا کہ یہ مربوط کلام قرار دیا جاسکے۔ پس یہ اعتراض تو محض دیوانوں اور سودانیوں کے اوہام باطلہ ہیں۔

ایسے اعتراضوں کا اصولی جواب تو دیا جا چکا ہے کہ نہ تو تاریخ سے ثابت ہے کہ بعد کے زمانہ میں کوئی آیت شامل کی گئی ہو اور نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؑ کے صحابہؓ سے یہ توقع کی جاسکتی ہے اور نہ ہی خاموشی سے ایسا کرنا ممکن تھا اور نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اخلاقِ فاضلہ کی بلند یوں پر فائز صحابہؓ سے ایسی بددیانتی متصور ہو سکتی ہے اور نہ ہی صحابہؓ اور اہل زبان علما ایسی آیات کی موجودگی قرآن کریم میں تسلیم کرتے ہیں۔

کسی آیت کی یا کسی حصہ کی ترتیب یا آیات کا باہمی ربط سمجھ نہ آنا ایک دیگر امر ہے اور اس کے بارہ میں یہ دعویٰ کرنا کہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت بعد میں شامل کی گئی ہے امر دیگر ہے۔ ہم جمع و تدوین قرآن کے بارہ میں یہ بات وضاحت سے دیکھ آئے ہیں کہ تمام تر حقائق کے مطالعہ سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم بعینہ اسی حالت میں محفوظ ہے جس حالت میں خدا تعالیٰ نے نازل کیا۔ تمام تر آیات پر امت مسلمہ نے گواہی دی تھی کہ یہ قرآن کریم کی ہی آیات ہیں جو انہوں نے رسول کریم سے حفظ کے ذریعہ اور تحریری صورت میں حاصل کی تھیں اور پھر وہ قرآن کریم ایک نہ ٹوٹنے والے تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ چنانچہ اس بات کے ثبوت میں

کہ قرآن کریم بعینہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے امت کو ملا تھا، یہ ذکر گزر چکا کہ حضرت عثمانؓ کے عہدِ خلافت میں صحابہؓ کے اتفاق رائے سے تیار ہونے والا مصحفِ امام 25 ہجری کے لگ بھگ تیار ہو چکا تھا اور اس کی نقول بلادِ اسلامیہ میں اشاعت کی غرض سے بھجوائی جا چکی تھیں وہ آج بھی موجود ہے۔ جبکہ حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں صحابہ کی گواہی سے تیار ہونے والا مصحفِ ام مروان بن عبد الملک کے دور تک یعنی 50 ہجری تک موجود رہا ہے۔ گویا یہ دونوں نسخے 25 سال تک اکٹھے موجود رہے ہیں۔ کسی دوست یا دشمن نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ مصحفِ امام میں ایسی کوئی آیات موجود ہیں جو مصحفِ ام میں نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی حفاظ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ مصحفِ امام میں ایسی آیات درج کی گئی ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سُنیں اور نہ حفظ کی تھیں۔ حضرت عثمانؓ کے دور کے صحائف آج بھی موجود ہیں۔ پس اس تو اتر کے ہوتے ہوئے کون محافظتِ قرآن کریم کے باب میں ادنیٰ سا بھی شبہ پیدا کر سکتا ہے؟

پھر ہر زمانہ میں اختلافِ مذہب کے باوجود محققین قرآن کریم کی غیر معمولی حفاظت کی گواہی دیتے آئے ہیں۔ ان سب ناقابلِ تردید شہادتوں کے باوجود بھی یہ بات ان نام نہاد سکارلز کو سمجھ نہیں آرہی کہ تاریخی دلائل سے قرآن کریم کی صحت اور اس کے ہر لفظ کا مستند ہونا ثابت ہے۔ پس ان ثبوتوں کے مقابل پر یہ کہنا کہاں کا انصاف ہے کہ چونکہ اس آیت کا ربط عربی سے نابلدرا ایسے لوگوں کو نظر نہیں آیا جو اسلام کے خلاف دلوں میں بیجا کینہ، بغض اور تعصب رکھتے ہیں اس لیے ثابت یہ ہوا کہ فلاں آیت قرآن کریم کے اصل متن کا حصہ نہیں بلکہ الحاقی ہے اور بعد میں شامل کی گئی ہے۔ یہ تو ایک بھونڈا مذاق اور تمسخر ہے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ کتنے ہی اہل علم اور اہل زبان علما مذہبی اختلاف کے باوجود قرآن کریم کے غیر معمولی ربط اور ترتیب اور اسلوبِ بیان کے اعجاز کو تسلیم کرتے آئے ہیں۔ پس اُن کے مقابل پر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تمہاری بات تسلیم کی جائے! میاں دلائل کی رو سے ثابت کرو کہ یہ آیت بعد میں ڈالی گئی ہے۔ ثبوت دو کہ پہلے یہ آیت متن قرآن میں موجود نہیں تھی اور فلاں زمانہ میں قرآن کریم میں راہ پانگئی۔ یہ کیا کہ آج اٹھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ہو سکتی کیونکہ مجھے اس کا ربط سمجھ نہیں آ رہا؟

نزول کے زمانہ میں قرآن کریم کا غیر معمولی فصاحت و بلاغت کا دعویٰ ہو اور اہل زبان بھی کبھی چیلنج کے جواب میں خاموش رہ کر اور کبھی باوازِ بلند قرآن کریم کی فصاحت اور اس کے غیر معمولی حسنِ بیان کا اعتراف کریں لیکن ایک عربی زبان سے نابلدرا اٹھ کر یہ اعتراض کر دے کہ قرآن کریم کی عبارت میں ربط و تسلسل نہیں تھا اس لیے کچھ آیات ربط پیدا کرنے کے لیے بعد میں شامل کی گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک عربی جاننے والے قرآن کریم کے حسنِ بیان اور حیرت انگیز فوق البشر اسلوب کا اعتراف کرتے چلے آئے ہیں۔ اگر عربی سے نابلدرا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ سب جھوٹ ہے تو اس کو یہ حُسن دکھانا ایسا ہی ہے جیسے کسی اندھے کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ کسی خوبصورت لالہ زار میں بیٹھا چلا رہا ہو کہ بہت بُری جگہ ہے۔

جب کوئی اُسے بتائے کہ میاں یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے تو وہ کہہ دے کہ تم غلط کہہ رہے ہو کیونکہ مجھے تو کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ پس ثابت ہوا کہ اس لالہ زار میں کوئی خوبصورتی ہے ہی نہیں۔ پھر تو یہی کیا جاسکتا ہے کہ میاں ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو اوروں سے پوچھ لو جو اس حسن کا خود مشاہدہ کر چکے ہیں۔ لیکن اگر وہ اندھا ابن وراق ہو تو ایک اور مشکل پیش آجاتی ہے۔ وہ بجائے آنکھ والوں سے پوچھنے کے کسی دوسرے اندھے کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم بتاؤ وہاں تم نے کوئی حسن دیکھا ہے۔ ابن وراق بھی عربی کے حسن ترتیب کا انکار کرتے ہوئے یہی ثبوت دیتا ہے کہ دیکھ لو فلاں فلاں عربی سے نابلد انسان بھی قرآن کریم کا حسن بیان نہیں دیکھ سکا۔

قرآن کریم کی حسن ترتیب پر بات ترتیب قرآن کے باب میں کی گئی ہے۔ یہاں صرف تحریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہی عرض ہے کہ جب تمہیں اپنی جہالت کی وجہ سے دو آیات کا باہمی ربط نظر نہیں آتا تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: 44)

یعنی اگر کسی معاملے میں سمجھ نہ آئے تو اس علم کے ماہرین سے پوچھ لیا کرو۔

پس ہم ابن وراق کو یہی فلسفہ پھر سمجھاتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا اور ان کے لیے بہت ہی مشکل اور گہرا واقع ہوا ہے کہ صاحب! اگر قرآن کریم کا حسن بیان عربی زبان سے عدم واقفیت کی وجہ سے آپ کے بس کا روگ نہیں ہے تو پھر ان گواہیوں پر اعتبار کر لو جو اُس دور کے اہل زبان دے چکے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ہزاروں ہزار صفحات لکھے گئے ہیں جن میں اس کے معجز نما ربط کا بھی بیان ہے اور زبان کی شیرینی کا بھی۔ جو شخص اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کے گہرے باہمی ربط کو سمجھ سکے؟ آخر یہ فلسفہ اتنا گہرا تو نہیں کہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ جو شخص عربی نہیں جانتا وہ عربی زبان کے حسن کا خود مطالعہ نہیں کر سکتا۔ ایسے شخص کے لیے کلام کے حسن کو سمجھنے کے لیے اس زبان کے ماہر کی خدمات لینا ضروری امر بن جاتا ہے اور ہم گزشتہ سطور میں تکرار کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ ابن وراق کی مشکل حل کرنے کے لیے علامہ سیوطی کی گواہی کافی ہے۔

خارجیوں کا ذکر کرنے کے بعد ابن وراق اہل تشیع کے حوالہ سے شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے:

Shiites, of course, claim that Uthman left out a great many verses favorable of Ali for political reasons.

یقیناً اہل تشیع کا بھی دعویٰ ہے کہ (حضرت) عثمان نے بہت سی ایسی آیات جو کہ

(حضرت) علیؑ کی مؤید تھیں محض سیاسی وجوہات کی بنا پر چھوڑ دی ہیں۔

یہ کہنا بالکل جھوٹ اور دجل ہے کہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ شیعہ ہرگز ایسا عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ اس کو کلیتاً رد کرتے ہیں۔ اکابر علماء شیعہ جن کے اقوال و تحقیقات کے محور پر آسمان تشیع کی

گردش ہے قرآن کریم کی عدیم النظیر حفاظت کے قائل ہیں اور جا بجا اس حقیقت کی تصریح کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف و تبدل کے قائل نہیں۔ مناسب ہوگا کہ اہل تشیع کی زبان سے ہی ابن وراق کے اس الزام کی تردید کی جائے۔ چنانچہ معروف اور اہم شیعہ کتاب مجمع البیان میں لکھا ہے:

فاما الزيادة فيه فجمع على بطلانه و اما النقصان منه فقد روى جماعة من اصحابنا و قوم من حشوية العامة ان فى القرآن تغييرا و نقصانا و الصحيح من مذهب اصحابنا خلافه و هو الذى نصره المرتضى قدس الله روحه و استوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء فى جواب المسائل الطرابلسيات و ذكر فى مواضع ان العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان و الحوادث الكبار و الوقائع العظام و الكتب المشهورة و اشعار العرب المسطورة فان العناية اشتدت و الدواعى توفرت على ثقله و حراسته و بلغت الى حد لم يبلغه فيما ذكرناه لان القرآن معجزة النطوة و ماخذ العلوم الشرعية و الاحكام الدينية علماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه و حماية الغاية حتى عرفوا كل شىء اختلف فيه من اعرابه و قرائته و حروفه و آياته فكيف يجوز ان يكون مغيرا او منقوصا مع العناية الصادقة و الضبط الشديد

(ابوالفضل بن الحسن الطبرسى: مجمع البيان الجزء الاول: الفن الخامس صفحہ 15: الناشر مكتبه علميه الاسلاميه ملتان)

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن کریم میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو یہ بات سب کے نزدیک غلط ہے۔ باقی رہی کمی کی بات تو اگرچہ ہماری (اہل تشیع) جماعت میں سے ایک گروہ نے اور اہل سنت میں سے حشویہ روایت کیا ہے کہ قرآن کریم میں تغیر اور کمی ہوگئی ہے لیکن ہمارے فرقہ کا صحیح مذہب اس کے خلاف ہے اور حضرت سید علی مرتضیٰ قدس اللہ روحہ نے اسی کی تائید کی ہے اور مسائل الطرابلسیات کے جواب میں اس پر نہایت مفصل بحث کی ہے۔ سیدنا علیؑ نے متعدد مواقع پر فرمایا ہے کہ قرآن کی صحت کا علم ایسا ہی ہے جیسا شہروں کا علم اور بڑے بڑے واقعات اور مشہور کتاب اور عرب کے مدون اشعار کا علم کیونکہ قرآن کی نقل اور حفاظت کے اسباب کثرت سے موجود اور مہیا تھے اور اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ کسی اور چیز کے سنے نہیں گئے۔ اس لیے قرآن نبوت کا معجزہ اور علوم شرعیہ اور احکام دینیہ کا ماخذ ہے اور مسلمان علمائے اس کی حفاظت اور حمایت میں انتہا درجہ کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ قرآن کے اعراب، قراءت،

حروف اور آیات کے فرق تک انہوں نے محفوظ رکھے۔ اس لیے کیوں کر خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس قدر احتیاط کے ہوتے ہوئے اس میں کسی قسم کی تغیر یا کمی راہ پا جائے؟
حضرت علیؑ کے بارہ میں یہ ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کے دور میں جمع قرآن پر آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ تھا۔ حضرت عثمانؓ کی خدمت قرآن کے بارہ میں تو آپؓ فرماتے ہیں:

لو لم يصنعه لصنعتُه (کتاب المصاحف الجزء الاول صفحه 12)

یعنی اگر عثمانؓ یہ کام نہ کرتے تو میں یہ خدمت سرانجام دیتا۔ آپؓ کا یہ قول اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے جب اس نسخہ قرآن کو شائع کیا تو آپؓ اس وقت بھی متفق تھے اور بعد میں اپنے دورِ خلافت میں بھی حضرت علیؓ کا اسی قرآن کریم پر انحصار کرتے رہنا اور اسے ہی حجت کے طور پر پیش کرنا ایک ناقابل تردید تاریخی ثبوت ہے۔ (نہج البلاغہ خطبہ 125) چونکہ بات اہل تشیع کے حوالہ سے ہو رہی ہے اس لیے شیعوں کی مستند کتاب نہج البلاغہ میں حضرت علیؓ کے خطبہ نمبر 18 اور خطبہ نمبر 127 کا مطالعہ فائدہ مند رہے گا۔ ان خطبات میں حضرت علیؓ نے حضرت عثمانؓ کی خدمت قرآن پر اپنی رضامندی، خوشنودی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اُمت کو اسی قرآن پر قائم رہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔

علامہ الطبرسی اپنی تحقیق پیش کرنے کے بعد اپنی تائید میں ایک اور عالم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

و كذلك القول في كتاب المزنى ان القرآن كان على عهد

رسول الله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن

(مجمع البيان الجزء الاول: الفن الخامس صفحه 15: مکتبہ علمیہ الاسلامیہ ملتان)

علامہ مزنئی نے اپنی کتاب میں یہی بیان فرمایا ہے... کہ قرآن رسول کریمؐ کے دور میں ہی

جمع ہو گیا تھا اور اسی طرح تالیف ہو گیا تھا جیسا کہ آج کے دور میں ہے۔

اہل تشیع میں بہت قدر و منزلت کی حامل معروف شیعہ تفسیر بحار الانوار میں لکھا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ - (الحجر: 10) عن الزيادة و النقصان و

التغیر و التحریف و قيل نحفظه من كيد المشركين فلا يمكنهم ابطاله

و لا يندرس و ينسى -

(علامہ مجلسی: بحار الانوار؛ مؤسسة الوفاء؛ بیروت لبنان ایڈیشن 4 (1983) جزء

9 صفحہ 113 باب احتجاج الله تعالى على ارباب الملل المختلفة في القرآن الكريم)

یعنی آیت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. (الحجر: 10) کا مطلب ہے کہ ہم

اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ پس اس میں نہ تو کسی قسم کا کوئی اضافہ ممکن ہے نہ کوئی کمی۔ نہ

کوئی تبدیلی ممکن ہے اور نہ کوئی تحریف اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مشرکوں کے منصوبوں کے مقابل پر ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ان کے لیے اس کا ابطال ممکن نہیں رہے گا اور نہ یہ پس پشت ڈالی جائے گی اور نہ ہی بھلائی جائے گی۔

پھر علامہ مجلسی قرآن کریم کی آیت سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسِي إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کے بارہ میں شیعہ عقیدہ کی یوں وضاحت کرتے ہیں:

”اما قوله ”إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“ ففيه احتمالان - أحدهما ان يقال هذه الاستثناء غير حاصل في الحقيقة و أنه لم ينس بعد نزول“

(بجارج الانوار جزء ١٧ صفحه ٩٧ باب ١٦ سهوه و نومه عن الصلوة ايديشن ٤ مكتبه مؤسسة الوفاء بيروت لبنان ٤٠٤ ٥١ بمطابق 1983)

یعنی جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس قول ”إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“ کا تعلق ہے تو اس میں دو احتمال ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ استثناء غیر حاصل ہے اور درحقیقت قرآن کریم نزول کے بعد کبھی نہیں بھلایا گیا۔

پھر علامہ بیضاوی کا موقف بھی اپنے موقف کی تائید میں بیان کرتے ہیں:

وقيل المراد به القلة أو نفى النسيان رأسا

(بجارج الانوار جزء ١٨ صفحه ١٧٤ باب ١٠، المبعث و اظهار الدعوه و ما لقي من القوم ... ايديشن ٤ مكتبه مؤسسة الوفاء بيروت لبنان ٤٠٤ ٥١ بمطابق 1983)

یعنی اس کے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے بھولنے کی قلت یا کلیۃً نفی مراد ہے۔

پس اتنی واضح شہادتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے ایک واضح جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ شیعہ عالم ملا فتح اللہ کاشانی سچ کہتے ہیں کہ:

هر کس بما شيعه نسبت زهد که ميگوئيم از قرآن
چيزی نقصان يافته دروغ ميگويد و ما هرگز چنين
سخن نگوئيم

(ملا فتح اللہ کاشانی: منہج الصادقين مقدمة الكتاب صفحہ 15)

وہ سب لوگ جو شیعہ فرقہ کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی کمی ہوگئی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ہرگز ایسی بات نہیں کہتے۔

ایسا جھوٹ تو کوئی بھی گھڑ سکتا ہے۔ ابن وراق بھی شیعہ فرقہ سے تعلق کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر کوئی ابن وراق کی جہالت کے حوالہ سے ہی یہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ شیعہ نہ اسلام کو سچا مانتے ہیں نہ قرآن کو کلام الہی تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ ہرزہ سرائی شیعہ فرقہ کا

عقیدہ بن جائے گا؟ پس چند متعصب جاہلوں کی رائے کو کسی قوم کی رائے قرار نہیں دیا جاسکتا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایسی روایات تاریخ کی کتب میں کیوں ملتی ہیں؟ تو اہل علم جانتے ہیں کہ اہل اسلام نے اپنے دور میں دشمنان اسلام کی طرف سے پھیلائی جانے والی افواہوں وغیرہ کو بھی انتہائی دیانت داری کے ساتھ تاریخی امانت سمجھ کر دنیا کے سپرد کیا ہے اور جیسی روایات بھی منافقوں یا غیر مسلموں کی طرف سے پھیلائی جا رہی تھیں ان کو بے درج کرنا اپنی ذمہ داری سمجھا۔ ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے گئے کہ یہ روایات غلط ہیں اور ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ صرف آئندہ زمانہ کے لوگوں کے علم کے لیے یہ خبریں آگے منتقل کی جا رہی ہیں تاکہ انہیں علم ہو کہ ہر زمانہ میں دشمن زور لگاتا رہا ہے مگر اپنے مزموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ یہ رائے صرف ہماری ہی نہیں بلکہ دیانت دار مستشرقین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ مشہور رومن کیتھولک نرن اور مشرقی علوم کی ماہر کیرم آرم سٹرانگ اسلامی تاریخ کے ابتدائی ماخذ اور مشہور مسلمان مؤرخین ابن اسحق، ابن سعد، طبری اور واقدی کے بارہ میں لکھتی ہیں:

یہ چاروں بہت معتبر مؤرخ اور سوانح نگار ہیں۔..... ان سوانح نگاروں کے ہاں آپ کو محض ان کے خیالات اور معتقدات ہی نہیں ملتے بلکہ حقائق کو تلاش کرنے کی محققانہ کاوش بھی دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً انہوں نے تمام ابتدائی اور بنیادی دستاویزات کو پڑھا، سیدہ بسینہ چلی آرہی روایات و حکایات کو سنا اور اس کے باوجود کہ وہ سچے مسلمان تھے اور نبی کریم (ﷺ) کی ذات مبارک سے گہری عقیدت رکھتے تھے، تاریخ لکھتے ہوئے کم ہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں جانب دار ہوئے ہوں۔..... ان سوانح عمریوں کی درستگی پر اعتبار کرتے ہوئے ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ہم نبی (ﷺ) کی حیات مبارکہ کا ایک زیادہ حقیقت پسندانہ اور سچا خاکہ حاصل کر سکتے ہیں۔

ان مؤرخین کے انداز تحقیق و تحریر سے ظاہر ہے کہ وہ اس موضوع پر کام کرنے والے دیگر جدید مغربی مؤرخین سے بے حد مختلف ہیں۔ وہ اپنے عہد اور معتقدات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے۔ اپنی کتب میں انہوں نے بہت سے غیر معمولی اور کافی حد تک ایسے ناقابل یقین واقعات بھی شامل کیے ہیں جنہیں ہم آج بہت مختلف انداز میں بیان کریں گے۔ لیکن وہ معاملات کی پیچیدگی اور سچائی کی باریک اور مبہم نوعیت سے کما حقہ آگاہ تھے۔..... وہ کسی ایک نظریہ کی بنیاد پر کسی دوسرے نظریہ کو ثابت یا واقعہ کی وضاحت نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات وہ مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی روایت کی ایک سے زیادہ معروف صورتیں پیش کر دیتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی درستگی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتے اور نہ اس ضمن میں قارئین کی رائے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔..... یہ اور بات ہے کہ ہم آج انہیں کن معیارات پر پرکھیں۔

اس دور میں جس حد تک ان سے ممکن تھا انہوں نے ہر ایک واقعہ کو انتہائی تفصیل اور ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تاہم بہت سے موقعوں پر وہ اس بات کو واضح بھی کرتے ہیں کہ وہ خود بھی پیش کردہ واقعے یا ثبوت سے متفق نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس کے باوجود کہ ان مؤرخین کی پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ سے گہری عقیدت تھی، انہوں نے آپ کی زندگی کی تفصیلات کو ممکنہ حد تک درست اور ٹھوس دلائل اور شواہد کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

(محمد ﷺ) باب دوم، صفحہ 58، 59 پبلشرز: علی پلازہ 3 مزنگ روڈ لاہور)

ہمیں مذکورہ بالا حوالہ میں مصنفہ کی تمام باتوں سے اتفاق ہونا ضروری نہیں۔ درج کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیانت دار محققین تسلیم کرتے ہیں کہ اسلامی مؤرخین اور محققین نے کس دیانت داری سے گردش کرنے والی تمام سچی اور جھوٹی تفصیلات کو اکٹھا کر دیا ہے۔

اس قسم کی کمزور اور جھوٹی روایات اہل سنت کی طرف بھی منسوب کی گئی ہیں اور اہل تشیع کی طرف بھی مگر مستشرقین زیادہ تر اہل تشیع کی روایات پر اپنے اعتراضات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع کی اکثر روایات کی صحت پر کما حقہ تحقیق نہیں کی گئی۔ اہل سنت کے مقابل پر اہل تشیع روایات اور تاریخ کی تحقیق میں بہت ناقص ثابت ہوئے ہیں۔ اہل تشیع کے سامنے کوئی بھی روایت اہل بیعت یا ائمہ کی طرف منسوب کر کے بیان کی جائے تو بلا تحقیق فوراً تسلیم کر لیتے اور زیادہ تر جذباتیت کی نظر سے اسے دیکھتے اور غیرت کے نام پر اس کے بارہ میں یہ سُننا بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ روایت بے اصل اور اہل تشیع کی اہل بیعت اور ائمہ سے محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گھڑی گئی ہے۔ حالانکہ محبت کا صحیح تقاضا تو یہ تھا کہ اہل بیت کے اصل اقوال کی کھوج کی جاتی اور ان کی طرف منسوب جھوٹی باتیں ان سے دُور کی جاتیں کیونکہ وہ اُن پاک وجودوں پر الزام ہیں۔

ان روایات کو گھڑنے کی ایک اور وجہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے نفرت اور تعصب بنی۔ وہ روایات جن میں صحابہ کی ذم ہوتی ان کو بلا تحقیق تسلیم کر لیا جاتا۔ حضرت علیؓ نبیؐ البلاغہ میں خطبہ نمبر 127 میں اسی خطرہ کا اظہار فرماتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ محبت میں غلو کی وجہ سے یا نفرت میں شدت کی وجہ سے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ تاریخ کے حوالہ سے یہ بات مزید واضح ہو کر سامنے آگئی ہے۔ اہل سنت کی روایات کے بارہ میں گہری تحقیقات کی گئیں اور جب بھی ان روایات کی بنیاد پر کوئی غلط نتیجہ نکالنے کی کوشش کی گئی تو اکثر و بیشتر ایسی روایات کے بارہ میں معلوم ہوا کہ اہل علم پہلے سے ہی اس کا غلط ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ جبکہ اہل تشیع کی روایات عام طور پر روایت اور درایت کے اصولوں کی پروا کیے بغیر تسلیم کر لی گئی ہیں اور انہیں کتابوں میں جگہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے بہت سے دشمنان اسلام ان روایات پر بنیاد رکھ کر اعتراضات کرتے ہیں۔ جب بھی ایسی روایت کے بارہ

میں تحقیق کی جائے تو کچھ پتا نہیں چلتا کہ یہ بات کب کہی گئی اور اس کے راوی کون تھے۔

یہ درست ہے سنی اور شیعہ اور اسی طرح مختلف فرقوں کے ملاً جہالت اور دشمنی میں ایک دوسرے پر قرآن کریم میں یا تحریف کرنے کے الزامات لگاتے رہتے ہیں مگر وہ بھی عام طور پر مستشرقین والا رویہ ہی اختیار کرتے ہیں اور تعصب میں اندھے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ملاً نون کا وطیرہ ہے کہ ایک دوسرے الزامات لگانے کے شوق میں ایسی موٹو گافیاں کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ سادہ لوح دوسرے فرقوں کے بارہ میں واقعی ایسا سمجھتے بھی ہیں۔ ایسے مستند علماء جو یہ اقرار کرتے ہوں پیش کرنے چاہئیں۔ ہم ثابت کرائے ہیں کہ ایسی کوئی آیات نہیں جو درج ہونے سے رہ گئی ہوں یا بعد میں ڈالی گئی ہوں۔ اگر کوئی ایسی آیت ہے تو دلائل کے ساتھ پیش کرنی چاہیے۔

پس قرآن کریم تاریخ مذاہب کی واحد ایسی کتاب ہے جو نزول کے ساتھ ساتھ تحریری اور حفظ، دونوں طور سے محفوظ کی گئی اور واحد کتاب ہے جس کے بارہ میں اپنے اور پرانے، دوست اور دشمن بلا تفریق مذہب و عقیدہ گواہیاں دیتے چلے آئے ہیں کہ یہ کتاب آج تک انسانی دست برد سے مکمل طور پر پاک ہے۔ حضرت عثمانؓ کے دور تک تو مستشرقین حفاظت قرآن کے موضوع پر اپنی جہالت یا عوام کی عدم واقفیت اور سادہ لوحی کی بنیاد پر اعتراض یا شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ کے دور کے بعد اشاعت قرآن کا ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جس میں قرآن کریم میں تبدیلی کا کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔ کثرت سے قرآن کریم کے نسخہ جات تحریر کیے گئے جو حضرت عثمانؓ کے مصحف کی بعینہ نقل تھے۔ کثرت سے حفاظ پیدا ہوئے اور قرآن کریم کی کتابت، حفظ اور تلاوت ہر شعبہ میں امت مسلمہ میں بے مثال کام ہوا۔ کتابت، حفظ اور تلاوت کے شعبوں کو علماء نے باقاعدہ سائنسی بنیادوں پر استوار کیا۔ پھر تفسیر اور اخذ معارف کے میدان میں بھی بہت وسیع کام ہوا اور بلا مبالغہ ہزاروں جلدیں لکھی گئیں۔ ان تمام کاموں میں قرآنی آیات کا کثرت سے اندارج ہوتا تھا اس لیے اس میدان میں ترقی سے بھی قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی ظاہری حفاظت کا امر بھی قوی تر ہوتا چلا گیا۔ پھر مسلمان سائنس اور دیگر دنیاوی علوم کے میدانوں میں نکلے تو بھی قرآن کو ہی بنیاد بنایا اور ہر علم کی وضاحت قرآن کریم سے کرنے کی کوشش کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سب کتابوں سے آیات کو جمع کیا جائے تو ان سے بھی سارا قرآن جمع ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں قرآن کریم کی خدمت کے لیے دوسرے علوم کی طرف رجوع کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوا کہ پہلی کتابوں سے تو دنیوی علما کا طبقہ سخت بیزار تھا مگر مسلمانوں میں سے ان علوم کے ماہر ہمیشہ قرآن مجید کے خادم ہی رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سچے علوم کا دشمن نہیں بلکہ مؤید ہے۔“

(تفسیر کبیر جلد چہارم زیر تفسیر آیت سورۃ الحج: 10 صفحہ 17)

قرآن کریم کے قدیم نسخے آج بھی موجود ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت کے ناقابل تردید ثبوت اور ایسے گواہ ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ مزید برآں حضرت عثمانؓ کے دور کا ایک نسخہ آج بھی موجود ہے جو کہ 25ھ میں تیار کیا گیا۔ اس مصحف پر لکھا ہوا ہے ”ہذا ما اجمع علیہ جماعة من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم زید بن ثابت و عبد اللہ بن زبیر و سعید ابن العاص“ آگے اور صحابہؓ کے نام ہیں۔ یہ نسخہ تاحیات حضرت عثمانؓ کے پاس رہا پھر حضرت علیؓ کے پاس رہا، پھر حضرت امام حسنؓ کے پاس رہا۔ پھر امیر معاویہؓ کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد اندلس لے جایا گیا۔ اندلس سے مراکش کے دارالسلطنت فاس منتقل ہوا اور پھر کسی طرح مدینہ واپس پہنچایا گیا۔ جنگ عظیم اول میں فخری پاشا گورنر ترکی دیگر تبرکات کے ساتھ اس نسخہ کو بھی قسطنطنیہ لے گیا۔ اب تک وہاں موجود ہے۔ اس کے متعلق یہ حقائق درج کیے جا چکے ہیں کہ اس نسخہ کی تیاری کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے دورِ خلافت میں تیار کیا گیا نسخہ مصحف ام قریباً 25 سال تک محفوظ موجود رہا۔ مگر کسی نے اس کا مصحف ام سے اختلاف ثابت نہیں کیا۔ گویا قرآن کریم کے ان نسخہ جات سے لے کر، جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر نگرانی تحریری صورت میں محفوظ کیے گئے اور جن کی موجودگی میں مصحف ام تیار کیا گیا، جسے حضرت ابوبکرؓ نے امت کی گواہی سے تیار کیا، آج تک ایک نہ ٹوٹنے والا ایک تو اتر ہے۔

ابن وراق کہتا ہے کہ اکثر ”محققین“ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے۔ ان محققین کے بارہ میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ یہ دراصل کون لوگ ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے تو بہت سے مسلمان اور غیر مسلم محقق ایسے بھی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پس دونوں گروہوں میں سے سچا کون ہے اس کا فیصلہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب دونوں گروہوں کے دلائل کا تجزیہ کیا جائے۔ ایک گروہ کے دلائل کا مطالعہ تو ہم کر آئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ آئے ہیں کہ جو تحریف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ تر جھوٹ اور دجل سے کام لیتے ہیں اور دلائل کی جگہ قیاسی اور ظنی باتیں پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے بارہ میں تحقیق کرتے ہوئے دیانت داری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مستند روایات کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ رسول کریمؐ کے بعد سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں پھر سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ضبط تحریر میں آئیں۔ مگر جب اپنے مفید مطلب کوئی غلط نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو ایسی غیر مستند اور ضعیف روایات پر اپنے اندازوں کی بنیاد رکھتے ہیں جنہیں محققین بالاتفاق کمزور اور غلط تسلیم کر چکے ہوتے ہیں۔ جبکہ محافظت قرآن کریم کے تاریخی پہلو پر غور کرنے والے بہت سے مغربی محققین اور مستشرقین یہ گواہی دینے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کتاب بعینہ اسی حالت میں ہم تک پہنچی ہے جس حالت میں محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بنی نوع کے سپرد کی تھی۔ کچھ گواہیاں گزشتہ میں گزر چکی ہیں۔ کچھ ہم یہاں ابن وراق کے محققین کے مقابل پر پیش کر دیتے ہیں۔

حفاظت قرآن کے ضمن میں مستشرقین اور مغربی محققین کی گواہیاں

H.A.R. Gibb کہتے ہیں:

It seems reasonably well established that no material changes were introduced and that the original form of Mohammed's discourses were preserved with scrupulous precision.

(H.A.R. Gibb, Mohammedanism, London: Oxford University Press, 1969, p.50)

یہ ایک نہایت قوی حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی تحریف ثابت نہیں کی جاسکی اور یہ حقیقت بھی بہت قوی ہے کہ محمد (ﷺ) کے بیان فرمودہ الفاظ کو اصل حالت میں مکمل احتیاط کے ساتھ اب تک محفوظ رکھا گیا ہے۔

ریورنڈ باسورٹھ سمتھ رقم طراز ہیں:

In the Quran we have, beyond all reasonable doubt, the exact words of Muhammed without subtrection and without addition.

(R. Basworth Smith "Mohammad and Mohammadanism". London 1874, p. 15)

جو قرآن کریم آج ہمارے پاس موجود ہے وہ بلا شک و شبہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی کے بغیر بعینہ محمد (ﷺ) کا کلام ہے۔

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

اختلاف قراءت ختم کرتے وقت الفاظ اور اعراب کو مکہ کی بہترین قراءت پر قائم کر دیا گیا لیکن یہ بات طے شدہ ہے محمد (ﷺ) کا پیش کردہ اصل متن انتہائی درستی کے ساتھ قائم رکھا گیا۔

(R. Basworth Smith "Mohammad and Mohammadanism". London 1874, p. 165)

اطالوی مستشرقہ و گلیری قرآن کریم کی بے مثال حفاظت کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

...the centuries from the day of the delivery until today, and will remain so, God willing, as long as the universe continues to exist.

(An Interparatation of Islam P: 41)

(قرآن کریم) اپنے نزول سے لے کر صدیوں کا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی محفوظ ہے

اور آئندہ بھی ان شاء اللہ رہتی دنیا تک محفوظ رہے گا۔

دوسری جگہ لکھتی ہیں:

It is to the holy book which has never been altered at the hands either of its friends or its enemies, by either the learned or the unlettered, the book that time does not wear out but which remains just as it was revealed by God to the rough and simple Apostle, the last of all law-bearing Prophets.

(opcit P:87)

یہ وہ مقدس کتاب ہے جو کبھی بھی انسانی دست برد کا شکار نہیں ہوئی، نہ اپنوں کے ہاتھوں اور نہ ہی دشمنوں کے ہاتھوں، نہ علما کے ہاتھوں اور نہ جہلا کے ہاتھوں۔ یہ بعینہ وہی ہے جیسی خدا کی طرف سے اس نبی معصوم، خاتم النبیین (ﷺ) پر نازل کی گئی۔

فلپ کے حتی کہتے ہیں:

The Arabic copy that a Moslem uses today is an exact replica of a heavenly prototype, dictated word by word to the Prophet Mohammad.

(Islam, A Way of Life P:26)

آج قرآن کریم کا عربی متن اس الہی صحیفہ کی نقل بمطابق اصل ہے جو محمد رسول اللہ

(ﷺ) کو لفظاً لفظاً لکھوایا گیا تھا۔

مستشرق John Burton اختلاف قراءت پر بحث کے بعد اپنی تحقیق کے آخر پر لکھتا ہے:

No major differences of doctrines can be constructed on the basis of the parallel readings based on the Uthmanic consonantal outline, yet ascribed to mushafs other than his. All the rival readings unquestionably represent one and the same text. They are substantially agreed in what they transmit...

(John Burton, The Collection of the Qur'an, Cambridge: Cambridge University Press, 1977, p. 171)

یعنی (حضرت) عثمانؓ کے مصحف اور دیگر قراءتوں والے صحائف کے متن میں کسی قسم کے اعتقادی اختلاف کی نشان دہی نہیں ہوتی۔ تمام قراءتیں بلاشک و شبہ ایک ہی متن کی نمائندگی کرتیں اور ایک مضمون بیان کرتی ہیں۔

مزید کہتا ہے اور گزشتہ سطور میں یہ گواہی گزر بھی چکی ہے:

(The Qur'an as we have it today is) the text which has come down to us in the form in which it was organized and approved by the Prophet.... What we have today in our hands

is the mushaf of Muhammad.

(John Burton, The Collection of the Qur'an, Cambridge: Cambridge University Press, 1977, p.239-40)

ہم تک پہنچنے والا متن بعینہ وہی ہے جو خود نبی (کریم ﷺ) کا مرتبہ اور مصدقہ ہے۔ چنانچہ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ دراصل مصحف محمدی ہی ہے۔ ممتاز مستشرق Kenneth Cragg حفظ قرآن پر بحث کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

This phenomenon of Qur'anic recital means that the text has traversed the centuries in an unbroken living sequence of devotion. It cannot, therefore, be handled as an antiquarian thing, nor as a historical document out of a distant past. The fact of hifz (Qur'anic memorization) has made the Qur'an a present possession through all the lapse of Muslim time and given it a human currency in every generation, never allowing its relegation to a bare authority for reference alone.

(Kenneth Cragg, The Mind of the Qur'an, London: George Allen & Unwin, 1973, p.26)

قرآن کریم کے حفظ کا اعجاز یہ ہے کہ متن قرآن کریم صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے انتہائی محبت اور خلوص اور وقف کی روح کے ساتھ ایک تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ نہ تو کسی قدیم چیز جیسا سلوک روا رکھنا چاہیے اور نہ ہی اسے محض تاریخی دستاویز سمجھنا درست ہے۔ درحقیقت حفظ کی خوبی نے اس کتاب کو مسلم تاریخ کے مختلف ادوار میں زندہ و جاوید رکھا ہے اور بنی نوع کے ہاتھ میں نسلاً بعد نسل ایک معتبر متاع تہمادی اور کبھی بھی محض غیر اہم کتابی صورت میں نہیں چھوڑا۔

Schwally اپنی تحقیق، جس میں تعصب نمایاں طور پر جھلکتا ہے بیان کرتے ہوئے بمشکل تسلیم کرتا ہے:

"As far as the various pieces of revelation are concerned, we may be confident, we may be confident that their text has been generally transmitted exactly as it was found in the Prophet's legacy"

(Schwally, Geschichte des Qorans, Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1909-38, Vol.2, p.120)

جہاں تک (قرآنی) وحی کے مختلف حصوں کا تعلق ہے، ہمیں یہ اعتبار کر لینے میں کوئی حرج نہیں کہ ان کا متن بالعموم ہم تک اسی حالت میں پہنچا ہے جیسے نبی (کریم ﷺ) چھوڑ گئے تھے۔

ویلیئم میور کہتا ہے:

"There is probably no other book in the world which has

remained twelve centuries with so pure a text"

(قرآن کریم کے علاوہ) شائد دنیا کے پردے پر اور کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا متن بارہ سو سال گزرنے کے باوجود اپنی اصل حالت میں قائم ہو۔

مزید کہتا ہے:

We may upon the strongest presumption affirm that every verse in the Coran is genuine and unaltered composition of Muhammad Himself.

ہم نہایت مضبوط قیاسات کی بنیاد پر یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنی اصل حالت میں، جس میں محمد (ﷺ) نے لکھا تھا، ہے اور بالکل غیر محرف و غیر مبدل ہے۔

And conclude with atleast a close approximation to the verdict of Van Hammer that we hold the Coran to be as surely Muhammad's words as the Muhammadans held it to be the word of God.

(William Muir, Life of Mohamet, London, 1894, Vol.1, Introduction)

یعنی اور ہماری اس بحث کا نتیجہ Van Hammer کے اس قول کے قریب ترین ہے کہ ہمارے پاس وہ قرآن ہے جس کے بارہ میں ہم اتنے ہی یقین سے کہتے ہیں کہ یہ محمد (ﷺ) کے ہی الفاظ ہیں جتنے یقین سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔

Dr. Maurice Bucaille لکھتے ہیں:

The Book contains the Word of God, to the exclusion of any human additions. Manuscripts dating from the first century of Islam authenticate today's text, the other form of authentication being the recitation by heart of the Qur'an, a practice that has continued unbroken from the time of the Prophet down to the present day.

(The bible The Qura'n and Science (translation from French by Alastair D. Pannel and The Ahtor) Under Heading The Quran and Modern Science Pg 120)

یہ کتاب خدا کا کلام ہے جس میں کوئی انسانی ملونی نہیں، ہمارے پاس محفوظ پہلی صدی کی تحریرات آج ہمارے پاس موجود متن کو مستند بناتی ہیں، اور اسناد کا دوسرا ذریعہ حفظ قرآن کا طریق ہے یعنی ایک ایسی عادت مستمرہ جو نبی (ﷺ) کے دور سے آج تک ایک تو اتر کے ساتھ جاری ہے۔

نیز کہتے ہیں:

There was absolutely no doubt about it: The text of the Qur'an we have today is most definitely a text of the period.
(opcit)

اس بات میں ذرہ بھی شک نہیں کہ ہمارے پاس قرآن کریم کا وہی متن موجود ہے جو آپ (ﷺ) کے دور میں تھا۔
اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

They had the advantage of being checked by people who already knew the text by heart, for they had learned it at the time of the Revelation itself and had subsequently recited it constantly. Since then, we know that the text has been scrupulously preserved, It does not give rise to any problems of authenticity.

(Under Heading "Conclusions" Pg 250-251)

انہیں (یعنی جن لوگوں کو حضرت ابو بکرؓ نے جمع قرآن کا حکم دیا تھا) ایک فائدہ یہ بھی حاصل تھا کہ ان لوگوں سے تصدیق کروا لیتے تھے جنہوں نے وحی کے نزول کے وقت ہی اسے حفظ کر لیا تھا اور بار بار اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سے قرآن کریم کا متن بلاشبہ محفوظ ہے اور اس کے استناد پر کوئی سوال نہیں اٹھتا۔

In contrast to the Bible, therefore, we are presented with a text that is none other than the transcript of the Revelation itself;

بائبل کے برعکس ہمارے پاس وہ متن موجود ہے جس میں وحی الہی کے علاوہ کوئی اور تحریر شامل نہیں۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت مفید بحث پیش کی ہے جس میں وہ قرآن کی حفاظت کے حوالے سے مفصل اور مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ اور آخر میں پھر یہی نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ:

Today's editions of the Qur'an are all faithful reproductions of the original copies. In the case of the Qur'an, there are no instances of rewriting or corruption of the text over the course of time.

(The bible The Qura`n and Science (translation from French by Alastair D. Pannel and The Ahtor) Under Heading Conclusions Pg 102)

آج کے دور میں مہیا ہونے والے قرآن کریم کے تمام نسخے اصل متن کی دیانت داری سے

کی گئی نقول ہیں۔ قرآن کے معاملہ میں اب تک کے شب و روز میں تحریف یا تبدل کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔

پھر انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا میں درج نولڈیکے کی یہ شہادت بہت مشہور ہے۔ زیر لفظ قرآن درج ہے:

Efforts of European scholars to prove the existence of later interpolations in the Qur'an have failed."
(Encyclopedia Britanica Edition 11 under Heading "Quran")

یورپ کے محققین کی وہ تمام کوششیں جو قرآن میں بعد میں اضافہ جات ثابت کرنے کے لیے کی گئی تھیں قطعاً کام رہی ہیں۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے محققین اور مستشرقین ہیں جو یہ گواہی دیتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کریم بلاشبہ محفوظ اور انسانی دست برد سے بکلی پاک کلام ہے۔ ان میں میونخ یونیورسٹی کے محققین کی 50 سال کی تحقیق بھی شامل ہے۔

1- (محمد حمید اللہ: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ادارہ اسلامیات لاہور، صفحہ 179)

2- (Method of preservations of the Quran during the Prophet's time (http://www.islam101.com/quran/source_quran.html))

ابن وراق کو چاہیے کہ ان سب اہل علم کو سمجھائے کہ قرآنی حفاظت کے موضوع پر اپنی جان اتنی ہلکان کر رہے ہو۔ گہری گہری تحقیقات اور لمبی لمبی بحثیں کر کے یہ نتائج اخذ کر رہے ہو کہ قرآن کریم بلاشبہ محفوظ ہے۔ دل میں تعصب بھی ہے پھر بھی دلائل کو دیکھ کر محافظت قرآن کریم کی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہو۔ اپنے دل کی جلن اور حسرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آسان راہ تو یہی ہے کہ کہہ دو کہ میرا خیال اور اندازہ ہے کہ قرآن کریم میں ضرور تحریف ہوئی ہے۔ کیوں گہری تحقیقات کی مشقت اٹھاتے ہو؟

محافظت کے حوالہ سے قرآن کریم کا دیگر مذاہب کے صحائف کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو دوسرے صحائف میں ہمیں جگہ جگہ انسانی دست برد کی کارستانیوں نظر آتی ہیں اور تحریف اور تبدل کے نمونے ملتے ہیں۔ دیگر مذہبی صحائف خاص کر بائبل کو جب اس نظر سے دیکھتے ہیں تو اس دور میں بھی جبکہ ہر طرف بائبل پھیلی ہوئی ہے، انتہائی دیدہ دلیری سے تحریف کی جاتی ہے کہ ایک نسل ہی اس تحریف کے نمونے دیکھ لیتی ہے اور صدیوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:-

یہودیوں کو توریت کے لیے کہا کہ اس میں تحریف و تبدل نہ کرنا اور بڑی بڑی تاکیدیں ان کو اس بات کی کی گئیں۔ لیکن کم بخت یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ. (الحجر: 10) پھر دیکھ لو کہ کیسی حفاظت اس نے فرمائی۔ ایک لفظ اور نقطہ تک پس و پیش نہ ہوا۔ اور کوئی ایسا نہ کرے گا کہ اس میں

تخریف و تبدیل کرتا۔ صاف ظاہر ہے کہ جو کام خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے۔
(ملفوظات جلد سوم۔ صفحہ 405 مطبوعہ ربوہ)

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:-

اگر تمام دنیا میں تلاش کریں تو قرآن مجید کی طرح خالص اور محفوظ کلام الہی کبھی نہیں مل سکتا۔ بالکل محفوظ اور دوسروں کی دستبرد سے پاک کلام تو صرف قرآن مجید ہی ہے۔..... روئے زمین پر ایک بھی ایسی کتاب نہیں جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ کریم نے کیا ہو اور جس میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر: ۱۰) کا پُر زور متحد یا نہ دعویٰ موجود ہو۔
(ملفوظات جلد 5 صفحہ 338 مطبوعہ ربوہ)

قرآن کریم وہ یقینی اور قطعی کلام الہی ہے جس میں انسان کا ایک نقطہ یا ایک شعشعہ تک دخل نہیں اور وہ اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور کسی فرقہ اسلام کو اس کے ماننے سے چارہ نہیں۔ اس کی ایک ایک آیت اعلیٰ درجہ کا توازن اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ وہ وحی مملو ہے جس کے حرف حرف گئے ہوئے ہیں۔ وہ باعث اپنے اعجاز کے بھی تبدیل اور تخریف سے محفوظ ہے۔
(ازالہ ادہام۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 384)

اب تک ہم قرآن کریم کی حفاظت کے پہلو کا تاریخی اور منطقی نقطہ نظر مطالعہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن کریم میں چھوٹی یا بڑی کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی راہ نہیں پاسکی۔ قرآن کریم کا اصل متن تمام تر حفاظت کے ساتھ بعینہ اسی حالت میں ہم تک پہنچا ہے جس حالت میں یہ متن رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر نازل ہوا اور جس حالت میں آپ نے صحابہ کے سپرد کیا۔ اس ضمن میں ابن وراق کے اٹھا گئے اعتراضات کی قلعی بھی کھل گئی۔ یہ ذکر گزر چکا ہے کہ اس کتاب کا مقصد عام قاری کے دل میں حفاظت قرآن کے بارے میں شک پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ ابن وراق مذکورہ بالا اعتراض کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا حفاظت قرآن کے معاملہ میں امت مسلمہ میں بھی شکوک و شبہات ہیں اور ابتدائی زمانہ اسلام سے لے کر آج تک مسلمان ان شکوک میں گرفتار ہیں۔ اب بھی مسلمانوں میں دو مختلف قرآن رائج ہیں اور اہل تشیع کو بھی قرآن کی حفاظت کے معاملہ میں شک ہے۔ گویا قاری کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک نہیں ہے تو یہ حیرت کی بات ہے۔ تمہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ محافظت قرآن کریم کے بارہ میں سارا عالم اسلام تو شکوک و شبہات کا شکار ہے اور تم بھولے بادشاہ اسے محفوظ سمجھے بیٹھے ہو۔

حفظ قرآن کریم پر اعتراض

Both Hugronje and Gulliaume point to the mindless way children are forced to learn either parts of or the entire Koran (some 6,200 odd verses) by heart at the expense of teaching children critical thought: "[The Children] accomplish this prodigious feat at the expense of their reasoning faculty, for often their minds are so stretched by the effort of memory that they are little good for serious thought.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg 105)

ہم آواز معترضین کے حوالہ سے درج کیے جانے والے ابن وراق کے اس اعتراض کا لب لباب یہ ہے کہ سارا قرآن کریم فضول طریق پر بچوں کو زبانی یاد کروایا جاتا ہے۔ اس کوشش سے بچے کا ذہن متاثر ہوتا ہے اور وہ کسی قابل ذکر سنجیدہ کام کے قابل نہیں رہتا اور معاشرے میں مفید وجود بننے کی بجائے ناکارہ وجود بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ اعتراض بھی اندھے حسد اور تعصب کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک جانی مانی حقیقت ہے کہ انسانی قوی ورزش اور مشق سے مضبوط اور قوی ہوتے ہیں اور جتنا استعمال کیا جائے ان کی صلاحیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ ہم عربوں کے حافظہ کا ذکر کر آئے ہیں۔ اس غیر معمولی حافظہ کی ایک بڑی وجہ تحریر کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے حافظہ پر زیادہ انحصار اور حفظ کرنے کی زیادہ مشق تھی۔ اس دور میں عربوں کو ہزاروں کی تعداد میں نسب نامے اور اشعار اور ادب پارے یاد ہوتے تھے۔ جوں جوں لکھنے کا رواج عام ہوتا گیا تو عربوں نے بھی بجائے حافظہ پر زور دینے کے تحریر پر زور دینا شروع کر دیا اس لیے حافظہ پہلے جیسا نہ رہا۔

پس ابن وراق برائے اعتراض ایک ایسی بات کر رہا ہے جو قوانین قدرت کے بھی خلاف ہے اور صدیوں کے جانے مانے حقائق کو بھی جھٹلا رہی ہے۔ وہ قوم جسے ہزاروں ہزار شعر یاد ہوتے، جو نسب ناموں کو از بر رکھتی، جسے اپنی صدیوں کی تاریخ حفظ ہوتی، کیا قرآن کریم جیسی ایک باربط، منظم، اور آسانی سے یاد ہو جانے والی کتاب سے اس کی ذہنی صلاحیتوں پر اثر پڑنا تھا؟ قوت حفظ کی زیادہ مشق سے ہی تو ان کا حافظہ غیر معمولی ہوا تھا۔ اور قرآن کریم جیسے مرتب کلام کے حفظ سے تو بہت صحت مند مشق ہوتی ہے اور حافظہ کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

تمام قوی انسانیہ کا قیام اور بقا محنت اور ورزش پر ہی موقوف ہے۔ اگر انسان ہمیشہ آنکھ بند رکھے اور کبھی اس سے دیکھنے کا کام نہ لے (تو جیسا کہ تجارب طیبہ سے ثابت ہو گیا ہے)

تھوڑے ہی دنوں کے بعد اندھا ہو جائے گا اور اگر کان بند رکھے تو بہرہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہاتھ پاؤں حرکت سے بند رکھے تو آخر یہ نتیجہ ہوگا کہ ان میں نہ حس باقی رہے گی اور نہ حرکت۔ اسی طرح اگر قوت حافظہ سے کبھی کام نہ لے تو حافظہ میں فتور پڑے گا۔ اور اگر قوت متفکرہ کو بیکار چھوڑ دے تو وہ بھی گھٹتے گھٹتے کا لعدم ہو جائے گی۔ سو یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے بندوں کو اس طریقہ پر چلانا چاہا جس پر ان کی قوت نظریہ کا کمال موقوف ہے۔

(براین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 507 تا 509 ایڈیشن اول صفحہ 424 تا 426)

پس انسانی قوی کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخلیق کیا ہے کہ جن قوی کو زیادہ استعمال میں لایا جاتا ہے وہ طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں اور جن قوی کو استعمال میں نہ لایا جائے وہ کمزور تر ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے ازمہ گزشتہ میں عمومی طور پر بنی نوع آج کے دور کے انسان سے زیادہ مضبوط اور صحت مند تھے۔ اس کی ایک وجہ اپنے قوی کا زیادہ استعمال تھا۔ اسی طرح بنی نوع عمومی طور پر، موجودہ دور کے ترقی یافتہ طبقہ میں پلنے بڑھنے والے انسان سے زیادہ اچھے حافظہ کے مالک تھے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ازمہ گزشتہ سے حوالے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی ایسے بچے سے جو روایتی انداز میں حساب کتاب کا عادی ہو کوئی حسابی جمع تفریق کروا کر دیکھیں تو وہ اس بچے کی نسبت بہت جلد کر لے گا جو کیلکولیٹر اور کمپیوٹر وغیرہ کی مدد حاصل کرنے کا عادی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بچہ روایتی طور پر حسابی سوالات حل کرنے کے لیے ذہن سے کام لیتا ہے اور اس مشق سے اس کا ذہن حساب کتاب میں تیز ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا بچہ جو کسی ایسے معاشرہ کا فرد ہے جہاں کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا رواج ہے تو وہ بجائے ذہن استعمال کرنے کے فوراً کسی حسابی آلے کی مدد سے سوال حل کرتا ہے۔ گو کیلکولیٹر سے حل کرنے کی رفتار عام رفتار کی نسبت تیز ہوتی ہے مگر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ذہن کام کے اتنا قابل نہیں رہتا جتنا کہ اس بچے کا جو کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی بجائے اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح عمومی طور پر مزدور پیشہ افراد ظاہری طور پر ان افراد سے زیادہ مضبوط اور صحت مند ہوتے ہیں جو دفتری کام کرتے ہیں۔

پس اب ابن وراق بیچارے نے قرآن کریم کی دشمنی اور بغض میں قوانین قدرت کو بدلنے کا بیڑہ اٹھالیا ہے تو اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ تعصب اور بغض میں اتنا اندھا ہو رہا ہے اور دل میں ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ بچھنے کو ہی نہیں آرہی۔ اس غم میں جلتا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کیوں اس درجہ بے مثل اقدام کیے گئے کہ کوئی شک ہی نہیں رہنے دیا؟ کیوں نہ قرآن کو نزول کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا؟ محافظت قرآن شریف کی عدیم النظیر حقیقت نے اس نادان دشمن بدطینت کو پاگل کر دیا ہے۔ اب کچھ بس نہیں چل رہا تو دل کی آگ بجھانے کے لیے قوانین قدرت کو جھٹلانا شروع کر دیا ہے؟ اب کون اسے سمجھائے کہ

میاں قرآن کریم ہر لحاظ سے قوانین فطرت اور قوانین کے قدرت کے عین مطابق ہے۔ اس کی تعلیم بھی اور اس کی حفاظت کے انتظامات بھی۔ پس اگر کائنات میں جاری اصولوں کو مانو گے تو قرآن کریم کو بھی ماننا پڑے گا۔ نہیں تو اپنی کوئی الگ ہی دنیا بسانی پڑے گی کیونکہ تمہاری کیا کسی بھی انسان کی مجال نہیں کہ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان قوانین میں کوئی ادنیٰ سا رخنہ بھی پیدا کر سکو۔ اب خدا تعالیٰ تمہارے دل میں لگی بغض اور نفرت کی آگ بجھانے کے لیے اپنے لاکھوں سال سے جاری قوانین کو تو نہیں بدل سکتا۔ پس اگر توفیق ہے تو اپنی ہی کوئی دنیا بسا لو۔ قرآن کریم تعلیم اور حفاظت کے ذرائع ہر لحاظ سے قوانین قدرت اور قوانین فطرت سے ایسے مطابقت رکھتا ہے کہ ان کو الگ کیا ہی نہیں جاسکتا اور ایسا کیوں نہ ہو؟ قرآن اسی خالق کا ہی تو کلام ہے جس کی تخلیق یہ کائنات ہے! علاوہ ازیں جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے تو اب ہم یہ سوال پوچھنے کے بھی حق دار ہیں کیا انسانی ذہن خدا تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا؟ کیا وہ انسانی ذہن کی ساخت ایسی نہیں بنا سکتا کہ اس کے کلام کو حفظ کرنا ذہنی قویٰ کے لیے آسان اور فائدہ مند ہو جائے؟

پھر ابن وراق کا یہ کہنا تاریخی حقائق کے بھی خلاف ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے سے ذہنی قویٰ متاثر ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کریم کے حافظ کبھی بھی قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے دوسرے انسانوں سے پیچھے نہیں رہے۔ کیا ابن وراق نہیں جانتا کہ سب سے پہلے حافظ قرآن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تھے۔ کیا آپ نے دنیا میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی؟ آج جو آگ ابن وراق کے دل میں لگی ہوئی ہے کیا اس کی وجہ وہ عظیم الشان انقلاب نہیں جس کے تار رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی انگلیوں میں ہیں۔ ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ ہر دور میں ابن وراق کی قماش کے بدنصیب پیدا ہوتے رہے اور اس پاکیزہ انقلاب کے اثرات ختم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے حسرتناک اور نامراد انجام کو پہنچتے رہے۔ اگر ابن وراق کی یہ بات درست ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کس طرح یہ عظیم الشان تبدیلی پیدا کر گئے؟ قرآن کریم حفظ کرنے کا ذہنی صلاحیتوں پر اگر کوئی بد اثر ہو سکتا تھا تو سب سے پہلے آپ کو اس کا شکار ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی پیدا کردہ تبدیلی کس شان کی ہے اس بارہ میں آپ کے غلام کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

وہ زمانہ کہ جس میں آنحضرت مبعوث ہوئے حقیقت میں ایسا زمانہ تھا کہ جس کی حالت موجودہ ایک بزرگ اور عظیم القدر مصلح ربانی اور ہادی آسمانی کی شدید محتاج تھی اور جو تعلیم دی گئی وہ بھی واقعہ میں سچی اور ایسی تھی کہ جس کی نہایت ضرورت تھی اور ان تمام امور کی جامع تھی کہ جس سے تمام ضرورتیں زمانہ کی پوری ہوتی تھیں اور پھر اس تعلیم نے اثر بھی ایسا کر دکھایا کہ لاکھوں دلوں کو حق اور راستی کی طرف کھینچ لائی اور لاکھوں سینوں پر لا الہ الا اللہ کا نقش جمادیا

اور جو نبوت کی علّت غائی ہوتی ہے یعنی تعلیم اصول نجات کے اس کو ایسا کمال تک پہنچایا جو کسی دوسرے نبی کے ہاتھ سے وہ کمال کسی زمانہ میں بہم نہیں پہنچا۔

(براہین احمدیہ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 112، 113 ایڈیشن اول صفحہ 120، 121)

اور پھر غیر بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ مشہور فرانسیسی شاعر اور مفکر LaMartin نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ اعلیٰ ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کو کتنا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ہے:

Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without images, the founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire, that is Muhammad. As regards all standards by which human greatness may be measured we may well ask, is there any man greater than he.

Lamartine: Histoire de la Turquie, Paris 1854, vol. 2, pp. 276-277.

فلاسفہ، دانش ور، رسول، مقتن، جنگجو، دلوں کو تسخیر کرنے والا، دین کو منطقی بنیادوں پر استوار کرنے والا، ایک بت شکن مذہب کا بانی، ایک روحانی اور بیس دُنیاوی سلطنتوں کا بانی۔ یہ ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ اُن تمام پیمانوں کی رو سے جن سے کسی بھی انسان کی عظمت کو ماپا جاسکتا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا محمد (ﷺ) سے بڑھ کر بھی کوئی شخص عظیم ہو سکتا ہے؟

مائیکل ہارٹ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب میں ان ایک سو افراد کا ذکر کیا ہے جنہوں نے انسانی تاریخ میں انقلابی کارنامے سرانجام دیے۔ اس کتاب میں سب سے بڑی انقلاب انگیز شخصیت کے طور پر وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level.

Of humble origins, Muhammad founded and promulgated one of the world's great religions, and became an immensely effective political leader. Today, thirteen centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive.

The majority of the persons in this book had advantage of being born and raised in centers of civilization, highly cultured or politically pivotal

nations. Muhammad, however was born in the year 570,.....at that time a backward area of the world, far from the centers of trade, art, and learning.

The Bedouin tribesmen of arabia had a reputation as fierce warriors. But their number was small, and plagued by disunity and interecine warfare, they had been no match for the larger armies of the kingdoms in the settled agricultural areas to the north. However, unified by muhammad for the first time in history, and inspired by thier fervent belief in the one true God, these small Arab armies now embarked upon one of the most astonishing series of conquests in human history.

.....it may initially seem strange that Muhammad has been ranked higher than Jesus. There are two principal reasons for that decision. First, Muhammad played a far more important role in the development of Islam than Jesus did in the development of Christianity....

Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played the key role in proselytizing the new faith, and establishing the religious practices of Islam.

(Michael H. Hart:"The 100: A Ranking of the Most Influential Person in History", New York: Hare Publishing Company, Inc., 1987. p. 33-40)

ترجمہ: دُنیا کی عظیم اور مسخور گن شخصیات کے تذکرہ میں محمد (ﷺ) کا نام سرفہرست رکھنے میں شاید بعض قارئین کو حیرت ہو اور کچھ کو اعتراض بھی۔ لیکن میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت محمد (ﷺ) تاریخ عالم میں واحد ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر یکساں کامیاب و کامران رہے۔ انہوں نے نہایت عاجزانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا لیکن نہایت مؤثر سیاسی قائد اور مذہبی پیشوا ثابت ہوئے، آپ کی وفات پر تیرہ سو سال گزر جانے کے باوجود آپ کی قوتِ قدسیہ کے اثرات آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہیں۔ اس کتاب میں شامل افراد کو یہ برتری حاصل ہے کہ وہ دُنیا کی مہذب اور متمدن، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سیاسی طور پر مستحکم اقوام میں پرورش پانے والے افراد تھے۔ ان کے برعکس حضرت محمد (ﷺ) جنوبی عرب میں 570ء میں پیدا ہوئے جو کہ اس وقت تجارت، علوم و فنون کے مراکز سے بہت دُور، دنیا کا ایک انتہائی دِقیا نوسی گوشہ تھا۔

عرب کے بدوقبالی تندخو جنگجوؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ باوجودیکہ وہ تعداد میں کم، پراگندہ، جدید آدابِ جنگ سے ناواقف تھے اور شمالی زرعی علاقوں میں قائم وسیع بادشاہتوں کی افواج سے ان کی کوئی برابری نہیں تھی۔ تاہم تاریخ میں پہلی بار آنحضرت (ﷺ) نے انہیں یکجا کیا اور وہ سب سچے خدائے واحد و یگانہ پر ایمان لے آئے جس کے بعد اتنی مختصر سی عرب افواج نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کر دیا۔

... اولاً تو یہ بات ہی نہایت حیران کن ہوگی کہ میں نے حضرت محمد (ﷺ) کو حضرت عیسیٰ سے بلند مرتبہ ظاہر کیا ہے لیکن میرے پاس اس فیصلہ کے لیے دو اصولی وجوہ ہیں:

پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد (ﷺ) نے ترویج و فروغِ اسلام میں جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے اس کردار سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو انہوں نے عیسائیت کی ترویج میں ادا کیا۔..... حضرت محمد (ﷺ) نے نہ صرف پوری ذمہ داری کے ساتھ اسلام کے بنیادی عقیدہ، عقیدہ توحید کو قائم کیا اور دیگر بنیادی اخلاقی ضوابط کی تعیین بھی فرمائی بلکہ آپ نے اس عقیدہ کی دعوت و تبلیغ میں بھی کلیدی کردار ادا کیا اور اسلامی عبادات کی مکاتھ توضح کی۔

Edward Gibbon حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ دماغی اور ذہنی صلاحیتوں کا ان

الفاظ میں اعتراف کرتا ہے:

"His (i.e., Muhammad's) memory was capacious and retentive, his wit easy and social, his imagination sublime, his judgment clear, rapid and decisive. He possessed the courage of both thought and action; and... the first idea which he entertained of his divine mission bears the stamp of an original and superior genius."

(Edward Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, John Murray, Albemarle St. London 1855, vol.6, p. 335.)

یعنی آپ کا حافظہ وسیع اور تیز تر، آپ کا فلسفہ آسان اور عام فہم، آپ کا تصور اعلیٰ و اکمل، آپ کا فیصلہ بالکل صاف اور واضح، تیز اور درست، آپ کو قول اور فعل دونوں کی جرأت یکساں عطا کی گئی تھی اور.... اپنے الوہی مشن کے بارہ میں پہلا نظریہ جو آپ نے قائم کیا وہ ایک حقیقی اور بلند تر سوچ کی حامل ہستی کی طرف سے ہونے کا ثبوت اپنے اندر رکھتا تھا۔

پھر ابن وراق کے اس اعتراض کی دھجیاں بھی نہیں ملتیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خدا تعالیٰ نے جن خلفاء راشدین کے ذریعہ تمکین دین کی وہ سب بھی حافظ قرآن تھے۔ اگر

صرف حفاظتِ قرآن کے حوالہ سے ہی دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے آقا و مطاع پر نازل ہونے والے کلام کی حفاظت کے لیے اپنے آقا کی پیروی میں ایسے ایسے غیر معمولی اقدامات کیے کہ ابن وراق جیسے کتنے مخالفین ہیں جو صدیوں کوششیں کرنے کے بعد بھی قرآن کریم کی حفاظت کے میدان میں اپنے تمام تر بُرے اور کریہہ ارادوں کے ساتھ ناکام و نامراد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہی خلفاء رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں متبعین اسلام نے حیرت انگیز طور پر معلوم دُنیا کا بڑا حصہ انتہائی کم وقت میں معجزانہ طور پر فتح کر لیا تھا۔ پس اگر حفظ سے ذہن پر بُرا اثر پڑتا ہے تو پھر یہ حفاظ کس طرح دُنیا سے آگے نکل گئے؟ ان فاتحین نے صرف غلبہ ہی حاصل نہ کیا بلکہ مفتوح علاقوں میں تہذیب و تمدن کی بنیاد ڈالی اور علوم و فنون کو ترقی دی۔ صرف یہ لوگ ہی حافظ قرآن ہی نہ تھے بلکہ اسلامی افواج کی کثیر تعداد بھی حفاظ پر ہی مشتمل ہوتی تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب جھوٹے مدعیان نبوت سے برسریکا رہونا پڑا تو جنگِ یمامہ میں لشکر اسلام کے شہداء میں صرف حفاظ کی تعداد ہی 700 تک جا پہنچی تھی (عمدۃ القاری جزء 20 کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن ص 16) یہ فتح نصیب قوم بقول ابن وراق کے اُن لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی جن کی ذہنی صلاحیتیں حفظ قرآن کے نتیجے میں کند ہو چکیں تھیں۔ لاحول و لا قوۃ الا باللہ!

حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں اسلام کی بیماریاں دیکھ کر دُنیا آج بھی انگشت بدنداں ہے۔ نافع بن عبد الحارث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عسفان میں ملے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں اہل مکہ کا والی مقرر کیا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عمر کو سلام کیا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے دریافت کیا۔ تم نے وادی مکہ میں اپنا قائم مقام کس کو مقرر کیا۔ نافع نے عرض کیا کہ میں نے ابنِ اَبُزَی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے دریافت فرمایا۔ ابنِ اَبُزَی کون ہے؟ نافع نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! وہ حافظ قرآن اور علم الفرائض کا ماہر ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے۔ (الدارمی کتاب فضائل القرآن باب ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع آخرین) یہی تو وہ درست فیصلے تھے جن کی وجہ سے غیر معمولی فتوحات نصیب ہوئیں۔

پھر ان فاتحین نے علمی میدان میں ایسے ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دیے کہ جدید علوم کے جدا جدا مسلمان ہی کہلائے۔ کیا ذہن ناکارہ ہوں تو علمی فتوحات حاصل ہوتی ہیں؟ اس وقت جب اسلام اپنے عروج پر تھا یورپ نے کونسی بائبل حفظ کر رکھی تھی کہ ذہن کند تھے اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کی برکات سے عربوں نے کیا کیا حیرت انگیز انقلاب پیدا کیے، غیروں کی زبان سے ان کا ذکر سنیں:

The rise of Islam is perhaps the most amazing event in human history. Springing from a land and a people alike previously negligible, Islam spread within a century over half the earth, shattering great empires,

overthrowing long-established religions, remolding the souls of races, and building up a whole new world - the world of Islam.....

For the first three centuries of its existence (circ. C.E. 650-1000) the realm of Islam was the most civilized and progressive portion of the world.

Studded with splendid cities, gracious mosques, and quiet universities where the wisdom of the ancient world was preserved and appreciated, the Moslem world offered a striking contrast to the Christian West, then sunk in the night of the Dark Ages."

(A. M. Lothrop Stoddard: The New World of Islam, London 1932, pp. 1-3)

اسلام کا عروج انسانی تاریخ کا شاندار سب سے زیادہ حیران کن واقعہ ہے۔ اسلام ایک دور افتادہ سرزمین اور معمولی پسماندہ لوگوں سے پھوٹا اور دنیا کی بڑی بڑی اور نامور سلطنتوں ایوانوں میں زلزلہ پھا کرتے ہوئے، لمبے عرصہ سے قائم مذاہب کو پچھاڑتے ہوئے، اقوام کی تعمیر نو کرتے ہوئے محض ایک سو سال کے قلیل عرصہ میں ایک جہان نو کی تعمیر کرتے ہوئے جو کہ اسلام کا جہان تھا، نصف سے زائد دنیا فتح کر چکا تھا.....

ابتدائی تین صدیوں میں اسلامی سلطنت دنیا کا سب سے مہذب اور ترقی یافتہ حصہ تھا۔ عالی شان شہروں سے مزین، پُر وقار مساجد اور ایسی پُرسکون یونیورسٹیاں، جہاں زمانہ قدیم کے علوم نہ صرف محفوظ رکھے جاتے بلکہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ مسلمان دنیا عیسائی مغرب سے ایک بالکل برعکس نظارہ پیش کرتی تھی جو کہ اس وقت جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔

ابن وراق کو کیا نظر آئے گا قاری خود سمجھ لے کہ قرآن کریم حفظ کرنے والی ذہنی طور پر ناکارہ اقوام اس شان و شوکت کو کیسے پاکئیں؟ اور یہ محض قصے نہیں بلکہ یہی نمونے آج بھی ملتے ہیں۔ امام جماعت احمدیہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں جماعت کو تمام تر خطرات سے نکالتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن رکھا، لشکر اسلام کے یہ فتح نصیب شہسوار حافظ قرآن بھی تھے۔

ہم نے وہ ہستیاں بطور نمونہ کے پیش کر دی ہیں جن کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اسلام کی کلید فتح و ظفر تھمائی اور یہ وہی ہستیاں ہیں جو ابن وراق کو اور اس جیسے دجل اور مکر سے کام لینے والے دیگر مخالفین اسلام کو شکست فاش دیتی چلی آئی ہیں۔ کیا ابن وراق اور اس کی قماش کے یہ لوگ عقل مند نہیں تھے؟ بخدا ان کی

مکاریاں اور عیاریاں دیکھ معلوم ہوتا ہے کہ بہت عمدہ ذہنی صلاحیتوں کو اسلام دشمنی اور تعصب کی راہ میں برباد کرتے رہے تھے۔ پس ان عیار دماغوں کے دانت ہر میدان میں کھٹے کرنے والے یہ حافظ قرآن لیڈر اس بات کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ حفظ قرآن کریم سے انسانی ذہن کو مزید جلا ملتی ہے۔ اگر کوئی بڑا اثر پڑا ہے تو حفظ قرآن کے خدائی اہتمام سے مخالفین اسلام اور مخالفین قرآن کے ذہنوں پر پڑا ہے اور اس غم میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ عدیم النظیر ذریعہ محافظت قرآن کریم کو نصیب ہی کیوں ہوا! حفاظت قرآن کے باب میں حفظ قرآن کا باب تو ایسا باب ہے کہ اس کے سامنے کسی انسان کا کچھ بس نہیں چلتا۔

کیا ان حافظ قرآن ہستیوں کے ہاتھوں دین اسلام کی اس درجہ شوکت و تمکنت کو دیکھ کر، اور پھر خدمت اسلام کے جہاد میں ان لوگوں کا کردار دیکھ کر کوئی شخص یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے والے کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور وہ کسی بڑے کام کے قابل نہیں رہتا؟ آدھی دنیا فتح کرنا بڑا کام نہیں؟ اور صرف ظاہری غلبہ نہیں بلکہ من موہنا، دلوں کو تسخیر کرنا۔ کیا یہ بڑا کام نہیں؟ کیا مفتوحین کو مہذب اور متمدن بنانا بڑا کام نہیں؟ کیا مفتوحین کی تعلیم و تربیت اور انہیں علوم و فنون میں دسترس دلانا بڑا کام نہیں؟ بخدا دنیا کے ہر کونے سے اس حقیقت کی شناسائی کے بعد یہی پکار اٹھے گی کہ ابن وراق اگر تم کوئی وجود رکھتے ہو تو سُن لو کہ تمہارا جھوٹا ہونا ظاہر ہو چکا ہے!!! ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ابن وراق ان جگہوں پر سراسر دجل، فریب اور جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی کہ کہیں تو کوئی بات دیانت داری سے کہی ہو۔ ابن وراق کو اتنی سی شرم اور حیا بھی نہیں ملی کہ خوبی کا اعتراف نہ کرے تو اس سے اعراض ہی کر لے۔ یہ شخص تو کمال بے حیائی سے ہر خوبی کا نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ اسے خامی کی شکل میں پیش کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ قاری یہ تو سوچتا ہی ہوگا کہ اس کتاب کے مطابق تو مذہب اسلام کی توہر بات ہی اُلٹ اور غلط ہے اور کوئی بات درست ہے ہی نہیں۔ کتاب ہے تو وہ گھٹیا عربی زبان میں؛ تعلیم ہے تو وہ عقل سے عاری؛ بانی ہے تو وہ عام اخلاق سے بھی بے بہرہ (نعوذ باللہ) پھر کروڑہا انسانوں کی عقلیں کیوں ماری گئیں کہ ایک ایسے مذہب کو اس درجہ محبت اور اخلاص سے چمٹے کہ جان و مال لٹا دیے، دنیا بھر کی دشمنی مول لے لی، اپنے پٹھو لے، پرائے دشمن ہوئے، جانیں گنوا دیں مگر اس دین کو نہ چھوڑا؟

جس شخص کو بھی اسلامی تاریخ سے ادنیٰ سا بھی مس ہے وہ تو یہ کتاب پڑھ کر وہی نتیجے نکال سکتا ہے کہ ہر دور کے پاگل، جاہل، غبی، کند ذہن، بددیانت وغیرہ وغیرہ اس دین کو تسلیم کرتے ہوں گے اور اسلام دراصل جرائم پیشہ افراد کا ایک گروہ ہی ہوگا۔ مگر یہ نتیجہ تاریخ اور حالات کے آئینہ میں سچا اور درست نظر نہیں آتا کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہؓ نے وہ شان دکھائی کہ ایک دنیا دنگ رہ گئی۔ ایسا بے نظیر جسمانی اور روحانی انقلاب ایک سچا مذہب پیدا کر سکتا ہے۔ پس ہونہ ہو ابن وراق جھوٹ بول رہا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں:-

دوسرا معجزہ قرآن شریف کا جو ہمارے لیے حکم مشہود و محسوس کا رکھتا ہے وہ عجیب و غریب تبدیلیاں ہیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں ببرکتِ پیروی قرآن شریف واثرِ صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم ظہور میں آئیں۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مشرف باسلام ہونے سے پہلے کیسے اور کس طریق اور عادت کے آدمی تھے اور پھر بعد شرفِ صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم واتباع قرآن شریف کس رنگ میں آئے اور کیسے عقائد میں، اخلاق میں، چلن میں، گفتار میں، رفتار میں، کردار میں اور اپنی جمیع عادات خبیث حالت سے منتقل ہو کر نہایت طیب اور پاک حالت میں داخل کئے گئے تو ہمیں اس تاثیرِ عظیم کو دیکھ کر جس نے ان کے زنگ خوردہ وجودوں کو ایک عجیب تازگی بخشی اور روشنی اور چمک بخش دی تھی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ تصرف ایک خارق عادت تصرف تھا جو خاص خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے دکھایا۔

(بحوالہ مرزا غلام احمد اپنی تحریرات کی رو سے صفحہ 519)

ایک طرف اخلاقِ فاضلہ کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کیں اور خدا کی عبادت اور تقویٰ اور توحید کے قیام کا ایسا نمونہ دکھایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ جدید علوم کی نہ صرف بنیاد ڈالی بلکہ ان کو اپنے دور کے مطابق ان کی معراج تک پہنچا دیا۔ علم کے ہر میدان میں ایسے ایسے کارنامے دکھائے کہ اور کسی قوم کو یہ علوشان نصیب ہی نہیں ہوئی۔ گہرے عقلی مضامین اور فلسفیانہ نکات نکالے اور پرانے فلسفہ کی اصلاح کی، عظیم ترین سائنس دان پیدا کیے۔ جدید علوم کے بانی مبنی بنا اور بے شمار علوم کی بنیاد ڈالنا۔ اب یہ سعادت کون لے سکتا ہے؟ کیا یہ سب عالی شان لوگ اس کتاب کے پیروکار اور حافظ تھے جس کی پیروی سے انسانیت جاتی رہتی ہے اور جس کے حفظ کرنے سے دماغی صلاحیتوں کو نقصان ہوتا ہے؟ اور پیروکار بھی ایسے کہ جو اپنی ہر بات کی بنیاد قرآن کریم پر رکھتے تھے۔

پس پہلا نتیجہ ہی درست نظر آتا ہے کہ ابن وراق ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ تو عقل سے کام لیتا کہ اسلام کی خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں تو تسلیم کر لوں کہ تاکہ لوگ کم از کم یہ ہی سمجھ لیں کہ کوتاہ بین جاہلوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا ہے نہ کہ یہ سمجھنے لگیں کہ سلمان رشدی کا ساتھی پیدا ہو گیا ہے۔ اعتراضات پر اعتراضات جمع کرتا جا رہا ہے جس میں ہر قسم کا جھوٹ اور فریب کوٹ کوٹ کر بھرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر جگہ دجل اور فریب۔ گویا اس کے علاوہ اس شخص کے پاس اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ چنانچہ نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے جماعت احمدیہ پر ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم کا ذکر کرتا ہے۔ جو صرف یہ ذکر پڑھے وہ کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے لیکن اس کا دجل تب ظاہر ہوتا ہے جب ان مظالم کو پیش اصل اسلامی تعلیم کے طور پر کر دیتا ہے۔ پس ہم باواز بلند

کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام دشمنی پر مبنی اور دجل و فریب سے گندھی ہوئی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں! اسلام کی حسین تعلیم میں کسی ظلم کی ادنیٰ سی بھی گنجائش نہیں ہے اور قرآن کریم میں تو یہ بہت واضح اعلان ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ لَيَسَّ بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ

یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنے بندوں پر ادنیٰ سا بھی ظلم روا نہیں رکھتا

پس جماعت احمدیہ قرآن کریم کے اس اعلان پر بھی ایمان لاتی ہے اور غلطی خوردہ ظالموں کے ظلم پر خدا کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتی ہے اور جماعت کے نزدیک ابن وراق کی اس جھوٹی ہمدردی کی کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے۔

اتنے اعتراضات تو جمع کرنے سے ہی انسان کو تمام اعتراضات کا جواب مل جاتا ہے کیونکہ ایک کتاب میں ایک بات اعتراض کے رنگ میں لکھی ہوتی ہے اور دوسری کتاب میں اسی اعتراض کا جواب مل جاتا ہے اور کسی دوسرے پہلو پر اعتراض ہوتا ہے۔ بہر حال ان کا حال تو وہی ہے کہ:

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ - وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (التوبة: 32)

یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو بالضرور پورا کرنے والا ہے خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔

ایک لطف کی بات یہ ہے کہ ابن وراق کسی قسم کی شرم یا حیا کو اپنا منہ چھپانے کی وجہ قرار نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے کہ جس طرح سلمان رشدی کی کتاب کے بعد مسلمانوں نے جوش دکھایا تھا اور اسے جان کے لالے پڑ گئے تھے اسی طرح مجھے بھی اپنی جان کی فکر ہے۔ ہم اس وقت مسلمانوں کے رویہ پر تبصرہ کر کے مضمون کو طویل نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ بیان کر دیتے ہیں یہ کہہ کر ابن وراق خود ہی اپنی کرتوتوں کو سلمان رشدی سے ملا رہا ہے اور اس حقیقت سے کون اہل علم واقف نہیں کہ سلمان رشدی کی بدنام زمانہ کتاب کی بیہودگی پر صرف اہل اسلام ہی نہیں بلکہ غیر مسلم مہذب دنیا نے بھی احتجاج کیا تھا۔ پس خود ہی ایک مکروہ انسان سے جا ملا۔

حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”ایسے مکروہ دماغ ہیں کہ کراہت آتی ہے ان میں جھانکتے ہوئے بھی۔ لیکن وہ خود اگلتے

ہیں تو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بعض کی الٹیاں ہیں، قے ہے جو یہ باہر نکالتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً،

اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کے خلاف کیسے بغض میں پلے ہوئے ہیں!..... ایک جھوٹا

بے بنیاد الزام ہے تم ایک ایسی بات کو جو اس سے کئی گنا زیادہ ناممکن ہے اس کو قبول کر کے

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوتے ہو جن کی نیتوں کی پاکی تمہارے لوگوں کی نیتوں سے ہزار گنا زیادہ قابل قبول اور قابل اعتماد ہے۔ یہ نا انصافی کی باتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں۔ تقویٰ سے خالی، سچائی سے خالی۔ صرف وہی بات ہے کہ کھول رہے ہو غصے میں، اسلام کیوں نہیں مٹا دیا گیا ایک ہی وقت تھا تمہاری نظر میں جب کہ اسلام کو کلیتاً نابود کیا جاسکتا تھا اور نہیں ہو سکا نتیجہ کچھ اور نکل آیا۔“

(درس القرآن 5 رمضان 16 فروری 1994ء زیر آیت و لقد صدقکم اللہ وعدہ اذ

تحسونہم..... آل عمران 153 تا 155)

جہاں تک ابن وراق اور اس قماش کے دوسرے لوگوں کی اس قسم کی گھٹیا کوششوں کا تعلق ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر دیانت دار اور سعید فطرت شخص جو ایسے اعتراض پڑھ کر تحقیق کی نظر سے اسلام کو دیکھے گا تو یہ اور اس جیسی دوسری تمام کتب اور ان کتب کے لکھنے والوں سے متنفر ہو کر اسلام کے قریب ہی ہو گا نہ کہ دور۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

یقیناً سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کو سچے دل سے وہی لوگ قبول کریں گے جو باعث سخت اور پُر زور جگانے والی تحریکوں کے کتب دینیہ کی ورق گردانی میں لگ گئے ہیں اور جوش کے ساتھ اس راہ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں گو وہ قدم مخالفانہ ہی سہی۔ ہندوؤں کا وہ پہلا طریق ہمیں بہت مایوس کرنے والا تھا جو اپنے دلوں میں وہ لوگ اس طرز کو زیادہ پسند کے لائق سمجھتے تھے کہ مسلمانوں سے کوئی مذہبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور ہاں میں ہاں ملا کر گزارہ کر لینا چاہیے لیکن اب وہ مقابلہ پر آ کر اور میدان میں کھڑے ہو کر ہمارے تیز ہتھیاروں کے نیچے آ پڑے ہیں اور اس صید قریب کی طرح ہو گئے جس کا ایک ہی ضرب سے کام تمام ہو سکتا ہے ان کی آہوانہ سرکشی سے ڈرنا نہیں چاہیے دشمن نہیں ہیں وہ تو ہمارے شکار ہیں..... سو تم ان کے جوشوں سے گھبرا کر نومیدمت ہو کیونکہ وہ اندر ہی اندر اسلام کی ڈیوڑھی کے قریب آ پہنچے ہیں۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ مخالفانہ جوش سے بھرے ہوئے آج تمہیں نظر آتے ہیں تھوڑے ہی زمانے کے بعد تم انہیں نہیں دیکھو گے۔ حال میں جو آریوں نے ہم لوگوں کی تحریک سے مناظرات کی طرف قدم اٹھایا ہے تو اس قدم اٹھانے میں گو کیسی ہی سختی کے ساتھ ان کا برتاؤ ہے اور گو گالیوں اور گندی باتوں سے بھری ہوئی کتابیں وہ شائع کر رہے ہیں مگر وہ اپنے جوش سے درحقیقت اسلام کیلئے اپنی قوم کی طرف راہ کھول رہے ہیں اور ہماری تحریکات کا واقعی طور پر کوئی بد نتیجہ نہیں ہاں یہ تحریکات کو تہ نظروں کی نگاہ میں بدنما ہیں مگر کسی دن دیکھنا کہ یہ تحریکات

کیونکر بڑے بڑے سنگین دلوں کو اس طرف کھینچ لاتی ہیں۔ یہ رائے کوئی ظنی اور شکی رائے نہیں بلکہ ایک یقینی اور قطعی امر ہے۔ لیکن افسوس اُن لوگوں پر جو خیر اور شر میں فرق نہیں کر سکتے اور شتاب کاری کی راہ سے اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں مداہنہ سے تو صاف منع فرمایا ہے لیکن حق کے اظہار سے باندیشہ اس کی مرارت اور تلخی کے باز آجانے کا کہیں حکم نہیں فرمایا۔ فتدبروا ایہا العلماء المستعجلون الا تقرؤن الفرقان مالکم کیف تحکمون۔

در اصل تہذیب حقیقی کی راہ وہی راہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام نے قدم مارا ہے جس میں سخت الفاظ کا داروئے تلخ کی طرح گاہ گاہ استعمال کرنا حرام کی طرح نہیں سمجھا گیا بلکہ ایسے درشت الفاظ کا اپنے محل پر بقدر ضرورت و مصلحت استعمال میں لانا ہر ایک مبلغ اور واعظ کا فرض وقت ہے جس کے ادا کرنے میں کسی واعظ کا سُستی اور کاہلی اختیار کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ غیر اللہ کا خوف جو شرک میں داخل ہے اس کے دل پر غالب اور ایمانی حالت اس کی ایسی کمزور اور ضعیف ہے جیسے ایک کیڑے کی جان کمزور اور ضعیف ہوتی ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم روحانی خزائن جلد سوم صفحہ 115، 116 ایڈیشن اول صفحہ 25 تا 28 زیر

عنوان ہم اور ہمارے نکتہ چین)

باب سوم

قرآن کریم کی معنوی محافظت

ان کو کہہ دے کہ تمہارے خیالات کیا چیز ہیں۔ ہدایت وہی ہے جو خدائے تعالیٰ براہ راست آپ دیتا ہے ورنہ انسان اپنے غلط اجتہادات سے کتاب اللہ کے معنی بگاڑ دیتا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ وہ خدا ہی ہے جو غلطی نہیں کھاتا۔ لہذا ہدایت اسی کی ہدایت ہے۔ انسانوں کے اپنے خیالی معنی بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔

(حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام الرماں علیہ السلام)

قرآن کریم کی حفاظت کے حوالہ سے ایک بہت اہم پہلو کلام اللہ کے درست اور صحیح معانی و مطالب کی تعلیم ہے۔ سب سے بڑے معلم قرآن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی ساری زندگی قرآن کریم کی تعلیم و اشاعت میں صرف ہوئی۔ آپ کے بارہ میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گواہی ہے کہ آپ سرِ اُپا قرآن تھے۔ قرآن کریم کی درس و تدریس اور اس کی تعلیم کی اشاعت کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مساعی کا تعلیم القرآن کے عنوان کے تحت ایک مختصر خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

قرآن کریم کی درست تفسیر کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی عطا کردہ تعلیم القرآن بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ آپ کے عطا کردہ تعلیم و فہم قرآن کے صحیح فہم اور ادراک کے لیے امت مرحومہ میں بہت کام ہوا۔ امت مسلمہ میں بہت سے علوم کی بنیاد بلا واسطہ یا بلا واسطہ قرآن کریم کے درست تفسیر اور اس کا فہم ہی تھی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں علمائے تفسیر قرآن کے لیے اصول وضع کیے اور علوم تفسیر کو ان کی معراج تک پہنچایا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ایک ذریعہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ تھا کہ اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی۔ اس ذریعہ سے اس کی ہر حرکت و سکون محفوظ ہو گئے۔ مثلاً نحو پیدا ہوئی تو قرآن مجید کی خدمت کے لئے..... پھر مسلمانوں نے تاریخ ایجاد کی تو قرآن مجید کی خدمت کی غرض سے کیونکہ قرآن مجید میں مختلف اقوام کے حالات آئے تھے۔ ان کو جمع کرنے لگے تو باقی دنیا کے حالات ساتھ ہی جمع کر دیئے۔ پھر علم حدیث شروع ہوا تو قرآن مجید کی خدمت کے لئے تا معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کیا معنی کئے ہیں۔

پھر اہل فلسفہ کے قرآن مجید پر اعتراضات کے دفعیہ کے لئے مسلمانوں نے فلسفہ وغیرہ علوم کی تجدید کی اور علم منطق کے لئے نئی نگر زیادہ محقق راہ نکالی۔ پھر طب کی بنیاد بھی قرآن مجید کے توجہ دلانے پر ہی قائم ہوئی۔ نحو میں مثالیں دیتے تھے تو قرآن مجید کی آیات کی۔ ادب میں بہترین مجموعہ قرآن مجید کی آیات کو قرار دیا گیا تھا۔ غرض ہر علم میں آیات قرآنی کو بطور حوالہ نقل کیا جاتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سب کتابوں سے آیات کو جمع کیا جائے تو ان سے بھی سارا قرآن جمع ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں قرآن کریم کی خدمت کے لئے دوسرے علوم کی طرف رجوع کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوا کہ پہلی کتابوں سے تو دنیوی علماء کا طبقہ سخت بے زار تھا مگر مسلمانوں میں سے ان علوم کے ماہر ہمیشہ قرآن مجید کے خادم رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سچے علوم کا دشمن نہیں بلکہ مؤید ہے۔

(تفسیر کبیر جلد چہارم صفحہ 52 زیر تفسیر الحجر آیت 10)

پس مسلمانوں نے قرآن کریم کے معانی سمجھنے کے لیے تمام علوم کو بطور خادم استعمال کیا اور قرآن کریم کے

نور سے اپنی کتب منور کریں۔ صرف علوم تفسیر کے حوالہ سے ہی دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں بے شمار کام ہوا اور قرآنی معارف سے ہزاروں ہزار صفحات جگمگانے لگے۔ ان علوم کی اہمیت اور ان سے استفادہ کی تاکید کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام فرماتے ہیں:

قرآن شریف سے اعراض کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صوری اور ایک معنوی۔ صوری یہ کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے جیسے اکثر لوگ مسلمان کہلاتے ہیں مگر وہ قرآن شریف کی عبارت تک سے بالکل غافل ہیں اور ایک معنوی کہ تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کی برکات و انوار و رحمت الہی پر ایمان نہیں ہوتا۔ پس دونو اعراضوں میں سے کوئی اعراض ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ (ملفوظات جلد سوم صفحہ 519)

ایک دوسری جگہ تفسیر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

ہم ہرگز فتویٰ نہیں دیتے کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جاوے۔ اس سے قرآن کا اعجاز باطل ہوتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قرآن دنیا میں نہ رہے (ملفوظات جلد سوم صفحہ 265) صرف قرآن کا ترجمہ اصل میں مفید نہیں جب تک اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو مثلاً غِيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کی نسبت کسی کو کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ اس سے مراد یہود نصاریٰ ہیں جب تک کہ کھول کر نہ بتلایا جاوے اور پھر یہ دعا مسلمانوں کو کیوں سکھلائی گئی۔ اس کا یہی منشا تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت مسیحؑ کا انکار کر کے خدا کا غضب کمایا۔ ایسے ہی آخری زمانہ میں اس امت نے بھی مسیح موعود کا انکار کر کے خدا کا غضب کمانا تھا اسی لیے اول ہی ان کو بطور پیشگوئی کے اطلاع دی گئی کہ سعید رو ہیں اس وقت غضب سے بچ سکیں۔ (ملفوظات جلد سوم صفحہ 449)

یہ بات بہت عام فہم ہے کہ آئندہ زمانوں میں لفظی محافظت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی معنوی محافظت اور ہمہ وقت نگرانی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بس سے باہر تھی۔ آپ کی وفات کے بعد اگر ہر شخص اپنے طور پر قرآن کریم کے معانی کرنے لگتا تو بہت اختلاف پیدا ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر قرآن کریم کے الفاظ تو محفوظ ہوں لیکن اس کے معانی اور مطالب میں بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی لفظی حفاظت بنی نوع کے کس فائدہ کی؟ گو مسلمانوں نے قرآن کریم کی ایضاح و تفسیر کے لیے ایسے ایسے اصول تفسیر وضع کیے جن پر کار بند رہ کر بہت حد تک درست معانی اور مطالب اخذ کیے جاسکتے ہیں لیکن پھر بھی شک کا ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے کیونکہ ان معانی اور مطالب کی بنیاد بہر حال انسانی عقل پر ہوتی ہے اور بالفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام

عقل اندھی ہے اگر تیرا الہام نہ ہو

پس خدا تعالیٰ نے محافظت قرآن کریم کے ظاہری سامانوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انتظام بھی فرمایا جو غیر

اللہ کے دخل سے بلکل پاک ہے اور وہ الہام ہے۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ امت کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا
(سنن ابی داؤد کتاب الملاحم باب ما جاء فی قرن المائة)

اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ مبعوث کرتا رہے گا جو اس صدی کی ضروریات کے مطابق تجدید دین کریں گے۔

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام فرماتے ہیں:

صرف رسمی اور ظاہری طور پر قرآن شریف کے تراجم پھیلا نایا فقط کتب دینیہ اور احادیث نبویہ کو اردو یا فارسی میں ترجمہ کر کے رواج دینا یا بدعات سے بھرے ہوئے خشک طریقے جیسے زمانہ حال کے اکثر مشائخ کا دستور ہو رہا ہے سکھلانا یہ امور ایسے نہیں ہیں جن کو کامل اور واقعی طور پر تجدید دین کہا جائے بلکہ مؤخر الذکر توشیطانی راہوں کی تجدید ہے اور دین کارہن۔ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کو دنیا میں پھیلا نایا بے شک عمدہ طریق ہے مگر رسمی طور پر اور تکلف اور فکر اور خوض سے یہ کام کرنا اور اپنا نفس واقعی طور پر حدیث اور قرآن کا مورد نہ ہونا ایسی ظاہری اور بے مغز خدمتیں ہر ایک با علم آدمی کر سکتا ہے اور ہمیشہ جاری ہیں ان کو مجدد دیت سے کچھ علاقہ نہیں۔ یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے نزدیک فقط استخوان فروشی ہے اس سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: 3، 4) اور فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (المائدة: 106)۔ اندھا اندھے کو کیا راہ دکھاویگا اور مجزوم دوسروں کے بدنوں کو کیا صاف کریگا۔ تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اسکی سرایت ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ ﷺ اور روحانی طور پر آخنباب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں اور ان کی باتیں از قبیل جوشیدن ہوتی ہیں نہ محض از قبیل پوشیدن اور وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد و قال سے اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجللی اُنکے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں اور انکی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بلکل مصفا کئے گئے اور تمام و کمال کھینچے گئے ہیں۔ (فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 6-7 حاشیہ)

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

یہ ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پاک کوئی شخص اس کے صحیح معانی نہ بتائے۔ تو کون یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کا صحیح مطلب بیان کر رہا ہے یا اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ نقص اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہیں جو کتاب کے صحیح مفہوم کی طرف لوگوں کو لاتے رہیں اور یہ حفاظت دائمی طور پر قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بے شک دوسری کتب سماویہ کو بھی اُس عرصہ میں کہ وہ زندہ کتب تھیں یعنی دنیا کے لیے قابل عمل تھیں، یہ حفاظت حاصل تھی مگر اب نہیں۔ اب صرف قرآن کریم ہی کو یہ حفاظت حاصل ہے۔ صرف اس کے ماننے والے ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ سے براہ راست الہام پانے کے مدعی ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور اس زمانہ میں کہ دین سے غفلت انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مامور مبعوث فرمایا ہے۔ جس نے کلی طور پر قرآن کی تفسیروں کو زوائد اور حشو سے پاک کر کے اصلی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن جو اسی زمانہ کے علوم کے سامنے ایک معذرت خواہ کی صورت میں کھڑا تھا۔ اب ایک حملہ آور کی صورت میں کھڑا ہے۔ جس کے سامنے سب فلسفے اور مذاہب اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے شیر کے سامنے سے لوٹ۔ فسبحان اللہ الملک العزیز (تفسیر کبیر جلد چہارم صفحہ 52 زیر تفسیر الحجر آیت 10)

اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق اس زمانہ میں مبعوث ہونے والے مامور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق کہ **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر: 10) قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے چودھویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا۔ (ملفوظات جلد اول صفحہ 433)

وہ پاک وعدہ جس کو یہ پیارے الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** وہ انہیں دنوں کے لیے وعدہ ہے جو بتلا رہا کہ جب اسلام پر سخت بلا کا زمانہ آئے گا اور سخت دشمن اس کے مقابل کھڑا ہوگا اور سخت طوفان پیدا ہوگا تب خدائے تعالیٰ آپ اس کا مقابلہ کرے گا اور آپ اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی کشتی عنایت کرے گا۔ وہ کشتی اس عاجز کی دعوت ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 264 حاشیہ)

اس وقت میرے مامور ہونے پر بہت سی شہادتیں ہیں۔ اول اندرونی شہادت، دوم بیرونی شہادت، سوم صدی کے سر پر آنے والے مجدد کی نسبت حدیث صحیح، چہارم **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا**

الدِّكْرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِيظُونَ (الحجر: 10) کا وعدہ حفاظت۔ (ملفوظات جلد دوم صفحہ 360)

آپ فرماتے ہیں:

ماسلمانیم از فضلِ خدا مصطفیٰ ما را امام و مقتدا
ہم خدا کے فضل سے مسلمان ہیں۔ محمد مصطفیٰ ہمارے امام اور پیشوا ہیں
آں کتابِ حق کہ قرآن نامِ اوست بادۂ عرفانِ ما از جامِ اوست
خدا کی وہ کتاب جس کا نام قرآن ہے ہماری شرابِ معرفت اسی جام سے ہے
آل رسولے کش محمد ہست نام دامنِ پاش بدستِ مادام!
وہ رسول جس کا نام محمد ہے۔ اُس کا مقدس دامن ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہے
مہر او با شیرشد اندر بدن جان شدو با جاں بدر خواہد شدن
اُس کی محبت ماں کے دودھ کے ساتھ ہمارے بدن میں داخل ہوئی وہ جان بن گئی اور جان کے ساتھ ہی باہر نکلے گی
ہست او خیر الرسل خیر الانام ہر نبوت را برو شد اختتام
وہی خیر الرسل اور خیر الانام ہے اور ہر قسم کی نبوت کی تکمیل اُس پر ہوگی
مازو یا بیم ہر نور و کمال! وصلِ دلداری ازل بے او محال
ہم ہر روشنی اور ہر کمال اُس سے حاصل کرتے ہیں محبوب ازلی کا وصل بغیر اُس کے ناممکن ہے

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام قرآن کریم کی معنوی حفاظت اور اس کی
ضرورت اور معنوی حفاظت کے الہی انتظام کے بارہ میں فرماتے ہیں:

علاوہ اس کے مشاہدہ صاف بتلا رہا ہے کہ جو لوگ صادقوں کی صحبت سے لاپرواہ ہو کر عمر
گزارتے ہیں ان کے علوم و فنون جسمانی جذبات سے ان کو ہرگز صاف نہیں کر سکتے اور کم سے کم
اتنا ہی مرتبہ اسلام کا کہ دلی یقین اس بات پر ہو کہ خدا ہے ان کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا اور جس
طرح وہ اپنی اس دولت پر یقین رکھتے ہیں جو ان کے صندوقوں میں بند ہو یا اپنے ان مکانات پر
جو ان کے قبضہ میں ہوں ہرگز ان کو ایسا یقین خدا تعالیٰ پر نہیں ہوتا۔ وہ سم الفار کھانے سے ڈرتے
ہیں کیونکہ وہ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ ایک زہر مہلک ہے لیکن گناہوں کی زہر سے نہیں ڈرتے
حالانکہ ہر روز قرآن میں پڑھتے ہیں اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا
وَلَا يَحْيٰ (طہ: ۷۵) پس سچ تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ قرآن کو بھی نہیں پہچان
سکتا۔ ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے مگر قرآن کی ہدایتیں اس

شخص کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جس پر قرآن نازل ہوا یا وہ شخص جو منجانب اللہ اس کا قائم مقام ٹھہرایا گیا۔ اگر قرآن اکیلا ہی کافی ہوتا تو خدا تعالیٰ قادر تھا کہ قدرتی طور پر درختوں کے پتوں پر قرآن لکھا جاتا یا لکھا لکھایا آسمان سے نازل ہو جاتا مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ قرآن کو دنیا میں نہیں بھیجا جب تک معلم القرآن دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ قرآن کریم کو کھول کر دیکھو کتنے مقام میں اس مضمون کی آیتیں ہیں کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (الجمعة: ۳) یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور قرآنی حکمت لوگوں سکھاتا ہے اور پھر ایک جگہ اور فرماتا ہے وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: ۸۰) یعنی قرآن کے حقائق و دقائق انہیں پر کھلتے ہیں جو پاک کئے گئے ہیں۔ پس ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہو۔ اگر قرآن کے سیکھنے کے لیے معلم کی حاجت نہ ہوتی تو ابتدائے زمانہ میں بھی نہ ہوتی اور یہ کہنا کہ ابتداء میں تو حل مشکلات قرآن کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی لیکن جب حل ہو گئیں تو اب کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حل شدہ بھی ایک مدت کے بعد پھر قابل حل ہو جاتی ہیں ماسوا اس کے امت کو ہر ایک زمانہ میں نئی مشکلات بھی تو پیش آتی ہیں اور قرآن جامع جمیع علوم تو ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی زمانہ میں اس کے تمام علوم ظاہر ہو جائیں بلکہ جیسی جیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ویسے ویسے قرآنی علوم کھلتے ہیں اور ہر ایک زمانہ کی مشکلات کے مناسب حال ان مشکلات کو حل کرنے والے روحانی معلم بھیجے جاتے ہیں جو وارث رسل ہوتے ہیں اور ظلی طور پر رسولوں کے کمالات کو پاتے ہیں اور جس مجدد کی کاروائیاں کسی ایک رسول کی منصبی کاروائیوں سے شدید مشابہت رکھتی ہیں وہ عند اللہ اسی رسول کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

اب نئے معلموں کی اس وجہ سے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ بعض حصے تعلیم قرآن شریف کے از قبیل حال ہیں نہ از قبیل قال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے معلم اور اصل وارث اس تخت کے ہیں حالی طور پر ان دقائق کو اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں عالم الغیب ہوں اور میں مجیب الدعوات ہوں اور میں قادر ہوں اور میں دعائوں کو قبول کرتا ہوں اور طالبوں کو حقیقی روشنی تک پہنچاتا ہوں اور میں اپنے صادق بندوں کو الہام دیتا ہوں اور جس پر چاہتا ہوں اپنے بندوں میں سے اپنی روح ڈالتا ہوں یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جب تک معلم خود ان کا نمونہ بن کر نہ دکھلاوے تب تک یہ کسی طرح سمجھ نہیں آ سکتیں پس ظاہر ہے کہ صرف ظاہری علماء خود اندھے ہیں ان تعلیمات کو سمجھ نہیں سکتے بلکہ وہ تو اپنے شاگردوں کو ہر وقت اسلام کی

عظمت سے بدظن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہیں اور ان کے ایسے بیانات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا اسلام اب زندہ مذہب نہیں اور اس کی حقیقی تعلیم پانے کے لیے اب کوئی بھی راہ نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے لیے یہ ارادہ ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن کریم کے چشمہ سے ان کو پانی پلاوے تو بیشک وہ اپنے ان قوانین قدیمہ کی رعایت کرے گا جو قدیم سے کرتا آیا ہے۔ اور اگر قرآن کی تعلیم صرف اسی حد تک محدود ہے جس حد تک ایک تجربہ کار اور لطیف الفکر فلاسفر کی تعلیم محدود ہو سکتی ہے اور آسمانی تعلیم جو محض حال کے نمونہ سے سمجھائی جاتی ہے اس میں نہیں تو پھر نعوذ باللہ قرآن کا آنا لا حاصل ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دم کے واسطے بھی اس مسئلہ میں فکر کرے کہ انبیاء کی تعلیم اور حکیموں کی تعلیم میں بصورت فرض کرنے صحت ہر وہ تعلیم کے ماہ الامتیاز کیا ہے تو بجز اس کے اور کوئی ماہ الامتیاز قرار نہیں دے سکتا کہ انبیاء کی تعلیم کا بہت سا حصہ فوق العقل ہے جو بجز حالی تفہیم اور تعلیم کے اور کسی راہ سے سمجھ ہی نہیں آ سکتا اور اس حصہ کو وہی لوگ دلنشین کرا سکتے ہیں جو صاحب حال ہوں مثلاً ایسے ایسے مسائل کہ اس طرح پرفرشتے جان نکالتے ہیں اور پھر یوں آسمان پر لے جاتے ہیں اور پھر قبر میں حساب اس طور سے ہوتا ہے اور بہشت ایسا ہے اور دوزخ ایسا اور پل صراط ایسا اور عرش اللہ کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں اور پھر قیامت کو آٹھ اٹھائیں گے اور اس طرح پر خدا اپنے بندوں پر وحی نازل کرتا ہے یا مکاشفات کا دروازہ ان پر کھولتا ہے یہ تمام حالی تعلیم ہے اور مجرد قیل وقال سے سمجھ نہیں آ سکتی اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس کی کتاب کا یہ حصہ تعلیم ابتدائی زمانہ تک محدود نہ رہے تو بیشک اس نے یہ بھی انتظام کیا ہوگا کہ اس حصہ تعلیم کے معلم بھی ہمیشہ آتے رہیں کیونکہ حصہ حالی تعلیم کا بغیر توسط ان معلموں کے جو مرتبہ پر پہنچ گئے ہوں ہرگز سمجھ نہیں آ سکتا اور دنیا ذرہ ذرہ بات پر ٹھوکریں کھاتی ہے پس اگر اسلام میں بعد آنحضرت ﷺ ایسے معلم نہیں آئے جن میں ظلی طور پر نور نبوت تھا تو گویا خدا تعالیٰ نے عملاً قرآن کو ضائع کیا کہ اس کے حقیقی اور واقعی طور پر سمجھنے والے بہت جلد دنیا سے اٹھالیے مگر یہ بات اس کے وعدہ کے برخلاف ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ یعنی ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر قرآن کے سمجھنے والے ہی باقی نہ رہے اور اس پر یقینی اور مالی طور پر ایمان لانے والے زاویہ عدم میں مختفی ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی۔ کیا حفاظت سے یہ حفاظت مراد ہے کہ قرآن بہت سے خوشخط نسخوں میں تحریر ہو کر قیامت تک

صندوقوں میں بند رہے گا جیسے بعض مدفون خزانے گو کسی کے کام نہیں آتے مگر زمین کے نیچے محفوظ پڑے رہتے ہیں کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت سے خدا تعالیٰ کا یہی منشاء ہے۔ اگر یہی منشاء ہے تو ایسی حفاظت کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ یہ تو ہنسی کی بات ہے اور ایسی حفاظت کا منہ پر لانا دشمنوں سے ٹھٹھا کرانا ہے کیونکہ جبکہ علت غائی مفقود ہو تو ظاہری حفاظت سے کیا فائدہ۔ ممکن ہے کہ کسی گڑھے میں کوئی نسخہ انجیل یا توریت کا بھی ایسا ہی محفوظ پڑا ہو اور دنیا میں تو ہزار ہا کتابیں اسی قسم کی پائی جاتی ہیں کہ جو یقینی طور پر بغیر کسی کمی بیشی کے کسی مؤلف کی تالیف سمجھی گئی ہیں تو اس میں کمال کیا ہوا اور امت کو خصوصیت کے ساتھ فائدہ کیا پہنچا؟ گو اس سے انکار نہیں کہ قرآن کی حفاظت ظاہری بھی دنیا کی تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے اور خارق عادت بھی لیکن خدا تعالیٰ جس کی روحانی امور پر نظر ہے ہرگز اس کی ذات کی نسبت یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اتنی حفاظت سے مراد صرف الفاظ اور حروف کا محفوظ رکھنا ہی مراد لیا ہے حالانکہ ذکر کا لفظ بھی صریح گواہی دے رہا ہے کہ قرآن بحیثیت ذکر ہونے کے قیامت تک محفوظ رہے گا اور اس کے حقیقی ذاکر ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور اس پر ایک اور آیت بھی بین قرینہ ہے اور وہ یہ ہے بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ یعنی قرآن آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ مومنوں کو قرآن کریم کا علم اور نیز اس پر عمل عطا کیا گیا ہے اور جب کہ قرآن کی جگہ مومنوں کے سینے ٹھہرے تو پھر یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ بجز اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے کہ قرآن سینوں سے مجھ نہیں کیا جائے گا جس طرح کہ توریت اور انجیل یہود اور نصاریٰ کے سینوں سے محو کی گئی اور گو توریت اور انجیل ان کے ہاتھوں اور ان کے صندوقوں میں تھی لیکن ان کے دلوں سے محو ہو گئی یعنی ان کے دل اس پر قائم نہ رہے اور انہوں نے توریت اور انجیل کو اپنے دلوں میں قائم اور بحال نہ کیا۔ غرض یہ آیت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ کوئی حصہ قرآن کا برباد اور ضائع نہیں ہوگا اور جس طرح روز اول سے اس کا پودا دلوں میں جمایا گیا۔ یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

دوم جس طرح پر کہ عقل اس بات کو واجب اور محتتم ٹھہراتی ہے کہ کتب الہی کی دائمی تعلیم اور تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ انبیاء کی طرح وقتاً فوقتاً ملہم اور مکلم اور صاحب علم لدنی پیدا ہوتے رہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں اور غور کی نگہ سے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی باواز بلند یہی فرما رہا ہے کہ روحانی معلموں کا ہمیشہ کے لیے ہونا اس کے ارادہ قدیم میں مقرر ہو چکا ہے دیکھو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّثُ فِي الْاَرْضِ الْجَزْءِ وَنُومِرِ ۱۳

یعنی جو چیز انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین پر باقی رہتی ہے اب ظاہر ہے کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کو نفع پہنچانے والے گروہ انبیاء ہیں کہ جو خوارق سے، معجزات سے، پیشگوئیوں سے، حقائق سے، معارف سے، اپنی راستبازی کے نمونہ سے انسانوں کے ایمان کو قوی کرتے ہیں اور حق کے طالبوں کو دینی نفع پہنچاتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بہت مدت تک نہیں رہتے بلکہ تھوڑی سی زندگی بسر کر کے اس عالم سے اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن آیت کے مضمون میں خلاف نہیں اور ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام خلاف واقع ہو۔ پس انبیاء کی طرف نسبت دیکر معنی آیت کے یوں ہوں گے کہ انبیاء من حیث الظل باقی رکھے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ظلی طور پر ہریک ضرورت کے وقت میں کسی اپنے بندہ کو ان کی نظیر اور مثیل پیدا کر دیتا ہے جو انہیں کے رنگ میں ہو کر ان کی دائمی زندگی کا موجب ہوتا ہے اور اسی ظلی وجود قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا ہمارے ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو تیرے ان بندوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا انعام جو انبیاء پر ہوا تھا جس کے مانگنے کے لیے اس دعا میں حکم ہے اور وہ درم اور دینار کی قسم میں سے نہیں بلکہ وہ انوار اور برکات اور محبت اور یقین اور خوارق اور تائید سماوی اور قبولیت و معرفت تامہ کاملہ و روحی اور کشف کا انعام ہے اور خدا تعالیٰ نے اس امت کو اس انعام کے مانگنے کے لیے تبھی حکم فرمایا کہ اول اس انعام کے عطا کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ پس اس آیت سے بھی کھلے کھلے طور پر یہی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ اس امت کو ظلی طور پر تمام انبیاء کا وارث ٹھہراتا ہے تا انبیاء کا وجود ظلی طور پر ہمیشہ باقی رہے اور دنیا ان کے وجود سے کبھی خالی نہ ہو اور نہ صرف دعا کے لیے حکم کیا بلکہ ایک آیت میں وعدہ بھی فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں جو صراط مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو اپنی راہیں بتلا دیں گے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئیں تھیں۔

پھر بعض اور آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور خداوند کریم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ روحانی معلم جو انبیاء کے وارث ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں اور وہ یہ ہیں۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ الجز و نمبر ۱۳ وَمَا كُنَّا مُعَدِّينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے اے مومنان امت محمدیہ ﷺ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھی وہ زمین میں خلیفہ کرے گا

جیسا کہ تم سے پہلوں کو کیا اور ہمیشہ کفار پر کسی قسم کی کوفتیں جسمانی ہوں یا روحانی پڑتی رہیں گی یا ان کے گھر سے نزدیک آجائیں گی۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آپہنچے گا اور خدا تعالیٰ اپنے وعدوں میں تخلف نہیں کرتا اور ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں۔

ان آیات کو اگر کوئی شخص تامل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیونکر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے۔ اگر خلافت دائمی نہیں تھی تو شریعت موسوی کے خلیفوں سے تشبیہ دینا کیا معنی رکھتا تھا اور اگر خلافت راشدہ صرف تیس برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا اس سے لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس امت پر ہمیشہ کے لیے ابواب سعادت مفتوح رکھے کیونکہ روحانی سلسلہ کی موت سے دین کی موت لازم آتی ہے اور ایسا مذہب ہرگز زندہ نہیں کہلا سکتا جس کے قبول کرنے والے خود اپنی زبان سے ہی یہ اقرار کریں کہ تیرہ سو برس سے یہ مذہب مرا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس مذہب کے لیے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا کہ حقیقی زندگی کا وہ نور جو نبی کریم کے سینہ میں تھا وہ توارث کے طور پر دوسروں میں چلا آوے۔ (شہادۃ القرآن روحانی خزائن جلد ششم صفحہ 347 تا 351)

امام الزماں علیہ السلام ایک دوسری جگہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جاگنے اور قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اے بزرگان اسلام! خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے پیدا کرے اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بناوے۔ میں اس وقت محض اللہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے چودھویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین مبین اسلام کی تجدید اور تائید کے لئے بھیجا ہے تاکہ میں اس بُر آشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ ﷺ کی عظمتیں ظاہر کروں اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیہ کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کئے گئے ہیں۔ (برکات الدعا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 34)

خدا تعالیٰ نے مجھے چودھویں صدی کے سر پر اس تجدید ایمان اور معرفت کے لئے مبعوث فرمایا ہے اور اس کی تائید اور فضل سے میرے ہاتھ پر آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے ارادہ اور مصلحت کے موافق دعائیں قبول ہوتی ہیں اور غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہیں۔ اور حقائق اور معارف قرآنی بیان فرمائے جاتے اور شریعت کے معضلات و مشکلات حل کئے جاتے ہیں اور مجھے اس خدائے کریم و عزیز کی قسم ہے جو جھوٹ کا دشمن اور مفتری کا نیست و نابود کرنے والا ہے کہ میں اُس کی

طرف سے ہوں اور اس کے بھیجنے سے عین وقت پر آیا ہوں اور اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں۔ اور وہ میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے۔ اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور نہ میری جماعت کو تباہی میں ڈالے گا جب تک وہ اپنا تمام کام پورا نہ کر لے جس کا اُس نے ارادہ فرمایا ہے۔ اُس نے مجھے چودھویں صدی کے سرپر تکمیل نور کے لئے مامور فرمایا۔ (اربعین نمبر 2 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 348)

ایک جگہ آپؑ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحتاً کہتا ہوں کہ اسلام کے لئے جاگو کہ اسلام سخت فتنہ میں پڑا ہے۔ اس کی مدد کرو کہ اب یہ غریب ہے اور میں اسی لئے آیا ہوں اور مجھے خدا تعالیٰ نے علم قرآن بخشا ہے اور حقائق معارف اپنی کتاب کے میرے پرکھولے ہیں اور خوارق مجھے عطا کئے ہیں۔ سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ۔ مجھے قسم ہے اُس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کیا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیم الفتن صدی کے سرپر جس کی گھلی گھلی آفات ہیں ایک مجدد گھلے گھلے دعویٰ کے ساتھ آتا۔ سو عنقریب میرے کاموں کے ساتھ تم مجھے شناخت کرو گے ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اُس وقت کے علماء کی ناسمجھی اُس کی سدّ راہ ہوئی۔ آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لاسکتا۔ اور خدا غیر کو وہ برکتیں نہیں دیتا جو خاصوں کو دی جاتی ہیں۔ اے لوگو! اسلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے اور اعداء دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے اور تین ہزار سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمدردی سے اپنا ایمان دکھاؤ اور مردان خدا میں جگہ پاؤ۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔ (برکات الدعا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 36)

حضرت مسیح موعود و مہدیؑ معہود علیہ السلام نے اردو عربی اور فارسی زبانوں میں 83 سے زائد کتب اور بے شمار اشتہارات اور خطوط تحریر کر کے تعلیم قرآن کریم کے فہم اور قرآنی معارف کی اشاعت کے لیے شائع کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق قرآن کریم کا پیش فرمودہ ایمان دُنیا سے اٹھتے اٹھتے اس قدر بلندی پر چلا گیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ثریا جتنا بلند ہو گیا۔ اسلام کا یہ بطل جلیل دوبارہ ایمان کو آسمان سے اُتار لایا۔ آپؑ نے قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف جاری رسوم کا قلع قمع کیا اور امت مسلمہ کے اُن عقائد کی اصلاح فرمائی جو قرآنی تعلیمات کے صریحاً خلاف تھے۔ آپؑ فرماتے ہیں:

مجملہ ان اُمور کے جو میرے مامور ہونے کی علت غائی ہیں مسلمانوں کے ایمان کو قوی کرنا ہے۔ اور انکو خدا اور اسکی کتاب اور اسکے رسول کی نسبت ایک تازہ یقین بخشنا۔ اور یہ طریق ایمان کے تقویت کا دو طور سے میرے ہاتھ سے ظہور میں آیا ہے۔ اول قرآن شریف کی تعلیم کی خوبیاں کرنی اور اسکے

عجازی حقائق اور معارف اور انوار اور برکات کو ظاہر کرنے سے جن سے قرآن شریف کا منجانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ میری کتابوں کو دیکھنے والے اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ کتابیں قرآن شریف کے عجائب اسرار اور نکات سے پُر ہیں اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جہتد مسلمانوں کا علم قرآن شریف کی نسبت ترقی کریگا اسبقدر انکا ایمان بھی ترقی پذیر ہوگا۔
(کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 294 تا 297 حاشیہ)

اپنے مقام کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے بلکہ میری حیثیت سُنن انبیاء کی سی حیثیت ہے۔ مجھے ایک سماوی آدمی مانو۔ پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہیں، ایک دم میں طے ہو سکتی ہیں۔ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر حکم بن کر آیا ہے۔ جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہی صحیح ہوں گے اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی حدیث صحیح ہوگی۔
(ملفوظات جلد اول صفحہ 399)

ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں:

مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمام دینوں میں سے دین اسلام ہی سچا ہے۔ مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام ہدایتوں میں صرف قرآنی ہدایت ہی صحت کے کامل درجہ پر اور انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے۔ مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجہ کی پاک اور پُر حکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعہ سے اعلیٰ نمونہ دکھلانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں اور مجھے خدا کی پاک اور مطہر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود اور مہدی موعود اور اندرونی اور بیرونی اختلافات کا حاکم ہوں۔ یہ جو میرا نام مسیح اور مہدی رکھا گیا ان دونوں ناموں سے رسول اللہ ﷺ نے مجھے مشرف فرمایا اور پھر خدا نے اپنے بلا واسطہ مکالمہ سے یہی میرا نام رکھا اور پھر زمانہ کی حالت موجودہ نے تقاضا کیا کہ یہی میرا نام ہو۔ غرض میرے ان ناموں پر یہ تین گواہ ہیں۔ میرا خدا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے میں اس کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور وہ اپنے نشانوں سے میری گواہی دیتا ہے۔ اگر آسمانی نشانوں میں کوئی میرا مقابلہ کر سکے تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی میرے برابر اتر سکے تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر قرآن کے نکات اور معارف بیان کرنے میں کوئی میرا ہم پلہ ٹھہر سکے تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر غیب کی پوشیدہ باتیں اور اسرار جو خدا کی اقتداری قوت کے ساتھ پیش از وقت مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں ان میں کوئی میری برابری کر سکے تو میں خدا کی

طرف سے نہیں ہوں۔

(اربعین روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 345-346)

اسی طرح فرماتے ہیں:

میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نشانوں پر ہی ایمان لاؤ۔ بلکہ میں کہتا ہوں اگر میں حکم نہیں ہوں تو میرے نشانوں کا مقابلہ کرو۔ میرے مقابل پر جو اختلاف عقائد کے وقت آیا ہوں اور سب بحثیں نکمی ہیں۔ صرف حکم کی بحث میں ہر ایک کا حق ہے جس کو میں پورا کر چکا ہوں۔ خدا نے مجھے چار نشان دیئے ہیں۔ (1) میں قرآن شریف کے معجزہ کے ظل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔

(2) میں قرآن شریف کے حقائق و معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔

(3) میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں تیس ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے۔ (4) میں نبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے پاس ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی پیشگوئیاں میرے حق میں چمکتے ہوئے نشانوں کی طرح پوری ہوئیں۔ (ضرورت الامام روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 496-497)

خدا تعالیٰ برکات رسالت کو انبیاء کی وفات کے بعد بھی جاری رکھنے کے لیے قدرتِ ثانیہ یعنی خلافت کا مقدس سلسلہ جاری فرماتا ہے۔ چنانچہ خلفاء راشدین کی محافظت قرآن شریف کے بارہ میں خدمات پر ایک اجمالی نظر ہم ڈال چکے ہیں۔ اس قدرتِ ثانیہ کا ایک زندہ و جاوید نمونہ خلافت احمدیہ ہے۔ جو تھم ریزی امام الزماں حضرت مسیح موعود و مہدیؑ نے فرمائی تھی اس پودے کو مزید تناور کرنے اور کل عالم پر سایہ فگن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام جاری فرمایا۔ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ خلفاء مسیح موعود علیہ السلام تعلیم القرآن کی اس مہم کو پوری شان سے آگے بڑھا رہے ہیں اور حضرت مسیح موعودؑ کی بعثت کے مقصد کو پورا فرما رہے ہیں۔

قرآن شریف کی معنوی حفاظت کے پہلو کے حوالہ سے دیکھا جائے تو خلافت احمدیہ نے ہمیشہ بنی نوع کی جھولیاں بھری ہیں۔ خلافت احمدیہ کا طرہ امتیاز اپنے آقا و مطاع حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسوۂ حسنہ اور راہنمائی کے مطابق چلتے ہوئے تعلیم قرآن رہا ہے۔ خلفاء احمدیت کی ہر کاوش دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ دنیا پر ظاہر کرنے پر صرف ہوئی۔ ایک طائرانہ نظر ان کاوشوں پر ڈالتے جو براہ راست قرآن کریم کی معنوی حفاظت سے تعلق رکھتی ہیں۔

حضرت حکیم الحاج مولوی نور الدین خلیفہ مسیح الاول رضی اللہ عنہ کے درس ہائے قرآن، تصانیف اور خطبات

سے مرتبہ تفسیری نکات اور معارف کا مجموعہ جو قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے حوالہ سے آپ کی خدمت قرآن کا زندہ و جاوید ثبوت ہے ”حقائق الفرقان“ کے نام سے چار جلدوں میں شائع شدہ ہے۔ اسی طرح آپ کے مطبوعہ خطبات، خطابات اور تقاریر وغیرہ معارف قرآن کا ایک نادر خزانہ ہیں۔

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی امین الموعود رضی اللہ عنہ کی تمام زندگی کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر کرنے میں گزری۔ تفسیر کبیر، دیباچہ تفسیر القرآن، فضائل القرآن اور بہت سی دیگر تفاسیر نا صرف اعجاز قرآنی کا ایک ثبوت بلکہ فی ذاتہ اعجاز اور انسانی دسترس سے محض بالا الہامی مضامین سے پُر ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالہ سے امام الزمان کی اتباع کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا دعویٰ ہے کہ اس مامور کی اتباع کی برکت سے کسی علم کا متبع خواہ قرآن کریم کے کسی مسئلہ پر حملہ کرے۔ میں اس کا معقول اور مدلل جواب دے سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ذی علم کو ساکت کر سکتا ہوں خواہ وقتی جوش کے ماتحت وہ علی الاعلان اقرار کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ میں نے اس کا ربیع صدی سے زیادہ عرصہ میں تجربہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے اس میدان میں داخل ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر و باطن میں کبھی مجھے اس بارہ میں شرمندہ ہونے کا موقعہ نہیں ملا۔ (تفسیر کبیر جلد چہارم صفحہ 52 زیر تفسیر الحجر آیت 10)

حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بھی تھے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآنی معارف کا خزانہ بھی۔ یوں آپ بھی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی طرح قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کے حوالہ سے اس سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے جو خدا تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کی خاطر ہی قائم کیا تھا اور جب کا پہلا سرا آخضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے یعنی حفظ قرآن کریم۔ اسی طرح معنوی حفاظت کے حوالہ سے بھی آپ خدا تعالیٰ کے اُن چنیدہ سالاروں میں سے تھے جن پر خدا تعالیٰ خود اپنی کتاب کی معنوی حفاظت کے لیے اس کے معارف آشکار کرتا چلا آیا ہے۔ آپ کے خطبات اور تقاریر یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے عظیم الشان ثبوت ہیں جو مختلف کتب اور اشتہارات کی زینت ہیں۔

برکاتِ خلافت کے ضمن میں دوِ خلافتِ رابعہ میں بھی تعلیمات اور معارف قرآن کی بارش ویسی ہی آن بان کے ساتھ جاری رہی۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے خطبات جمعہ میں دقائق قرآن کا ایک سمندر موجزن ہے۔ ان کے علاوہ درس القرآن اور ترجمۃ القرآن کلاس ہر زمانہ کی طرح موجودہ زمانہ میں بھی قرآن کریم کی ہر دور میں اور ہر میدان میں راہنمائی مہیا کرنے کی ایک دلیل اور اعجاز قرآنی کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف آپ سے علم سیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلسل آسمان سے مجھ پر علوم

روشن فرماتا ہے اور وہ جو آسمان سے علم اترتے ہیں اس میں میرا اکتساب کوئی نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس منصب کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معمولی علم والے کو بھی چن کر جب ایک منصب پر فائز فرمادیتا ہے تو علمی رہنمائی پھر خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ (خطبہ عید الفطر 3 مارچ 1995، بحوالہ الفضل سالانہ نمبر 30 دسمبر 2000 صہ 63)

خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد چونکہ آپ کا قیام زیادہ تر لندن میں رہا اس لیے اردو زبان کے ساتھ ساتھ آپ نے انگریزی زبان میں بھی قرآن کریم کے معارف و معانی سے لبریز کتب شائع فرمائیں۔ مثلاً ایک معروف کتاب Revelation Rationality Knowledge And Truth ہے۔ اس کے علاوہ خلفاء احمدیت کی نگرانی میں بہت سی کتب آڈیو اور ویڈیو اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعہ تعلیم کتاب اور حکمت کے سلسلے میں برکاتِ خلافت تمام دُنیا میں پہنچ رہی ہیں نیز ساری دُنیا میں شائع ہونے والے بہت سے اخبارات اور رسائل تعلیم کتاب اور حکمت کے باب کو ہر آن وار کھتے ہیں۔

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز آج تعلیمات قرآن کی اشاعت میں جو بے انتہا محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح آپ (ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز) کے ہزاروں ہزار جانثار اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ آپ کے انصار میں شامل ہیں۔ یہ اسوہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ صرف تعلیم قرآن کے حوالہ سے ہی اس پاکیزہ وجود کی برکات چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آج دُنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں یہ شریں آواز تشنہ روجوں کو سیراب اور مغموم دلوں کو مسرور نہ کر رہی ہو۔

معنوی حفاظت کا بہت زبردست ثبوت خدا تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات پر چل کر وصال الہی کے مرتبہ تک پہنچتے ہیں اور دُنیا کے سامنے قرآن کریم کی صداقت کے عملی گواہ ہوتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قرآن شریف کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ توریت یا کسی اور کتاب کے لیے نہیں اسی لیے ان کتابوں میں انسانی چالاکیوں نے اپنا کام کیا۔ قرآن شریف کی حفاظت کا یہ بڑا زبردست ذریعہ ہے کہ اس کی تاثیرات کا ہمیشہ تازہ بتازہ ثبوت ملتا رہتا ہے اور یہود نے چونکہ توریت کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ان میں کوئی اثر اور قوت باقی نہیں رہی جو ان کی موت پر دلالت کرتی ہے۔ (ملفوظات جلد چہارم صفحہ 450)

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

پھر اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب تک قرآن کریم کی پیروی سے مجدد اور مامور اس امت میں آتے رہیں گے یہ ثابت ہوتا رہے گا کہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ کیونکہ ذکر کے ایک

معنی شرف اور نصیحت کے بھی ہیں۔ قرآن کریم کا نام ذکر اس لیے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے اس کے ماننے والوں کو شرف اور تقویٰ حاصل ہوگا۔ پس اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ کہ یہ کلام جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے ذریعہ سے ماننے والوں کو شرف اور عزت اور تقویٰ ملے گا۔ ہمارا ہی اُتارا ہوا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یعنی ان صفات کو عملاً پورا کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ اگر یہ صفات اس کی ظاہر نہ ہوں تو گویا اس کی تعلیم ضائع ہوگئی۔ مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔۔۔

غرض خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی معنوی حفاظت کا مدار صرف عقل پر ہی نہیں رکھا اور اس کی تشریح کا انحصار صرف انسانی دماغ پر ہی نہیں چھوڑا۔ بلکہ خود اپنے کلام سے اس کو ظاہر فرمانے کا ذمہ لیا ہے۔ جس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب اس طرح سے عملی پھل ظاہر ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے محفوظ ہونے کا ایک بین ثبوت ملتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کے تازہ پھل بھی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ اور زندہ کتاب ہے اور یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایسا زبردست ذریعہ ہے۔ جو اور کسی کتاب کو میسر نہیں اور نہ کبھی ہوگا۔ (تفسیر کبیر جلد چہارم صفحہ 52 زیر تفسیر الحجر آیت 10)

پس جیسا کہ یہ عملی پھل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر تمام زمانوں میں ظاہر ہوتے رہے اسی طرح آپ کے غلام کامل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی شکل میں قرآن کریم کی حفاظت کے ایک اتم اور اکمل ثبوت کے طور پر موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کی قائم فرمودہ جماعت میں آپ کے ہزاروں صحابہ اور جانثار قرآن کریم کی محافظت کے تازہ بتازہ ثبوتوں کے طور پر مخالفین اسلام پر حجت تمام کرتے رہے ہیں۔ یہ پاک وجود خلفاء احمدیت کی سرکردگی میں قرآن کریم کی معنوی حفاظت کو یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی ایک پاکیزہ نورانی چہرہ ایسے لوگوں کی بڑی جماعت کو اپنی حفاظت کے حصار اور اپنے جلو میں لیے اہل اسلام کو مسرور کر رہا ہے۔

اللهم اید امامنا بروح القدس و کن معہ حیث ما کان وانصرہ نصراً عزیزاً
اے اللہ ہمارے امام کی روح القدس سے تائید فرما اور وہ جہاں بھی ہوں اُن کے ساتھ ہو جا اور ان کی غالب مدد فرما
اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم و
اے اللہ جو دین محمد ﷺ کے انصار میں شامل ہو تو اس کا مددگار بن جا اور ہمیں اُن خوش نصیبوں میں سے بنا اور
اخزل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم
جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اچا ہے تو اسے ناکام و نامراد کر دے اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا۔ (آمین)

مسئلہ نسخ و منسوخ

دُنیا کے عام قانون دان یا قانون ساز ادارے جو مہذب معاشرہ کے لیے قوانین سازی کرتے ہیں، آئے دن اپنے قوانین پر نظر ثانی کرتے اور تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں غلطیوں کی اصلاح اور رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم بھی دستورِ حیات ہے لیکن یہ کسی ایسے قانون کی طرح نہیں جو انسان نے بنایا ہو۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا پیش فرمودہ ہے۔ پس اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو پھر اس میں کسی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے۔ الہی قانون میں تبدیلی ناممکن ہے ورنہ اعتراض پیدا ہوتے کہ کیا خدا تعالیٰ کو بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کو بھی بیان بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ بھی غلطی سے پاک نہیں ہے۔ اگر خدا تعالیٰ علیم اور قدوس ہے یعنی ہر علم پر کامل طور سے محیط اور ہر غلطی اور عیب سے منزہ ہے تو پہلی دفعہ ہی درست اور حتمی بات کرتا اور بار بار بات بدلنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیونکہ نظر ثانی کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں غلطی کا امکان ہو۔ اگر خدا غلطی کر سکتا ہے تو پھر نظر ثانی کر کے اپنی بات کو بدل سکتا ہے۔ اگر غلطی نہیں کرتا تو پھر بدلنے کا سوال ہی نہیں۔ پس اگر خدا تو غلطی نہیں کرتا لیکن قرآن مجید میں ہمیں ایسے بیانات ملتے ہیں جو ایک دوسرے کو رد کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ متضاد ہونے کی وجہ سے ایک حصہ دوسرے کو منسوخ کرتا ہے تو پھر یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یا اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی اصول بیان فرماتا ہے:

لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء: 83)

اگر (یہ قرآن) غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔

مگر بد قسمتی سے پھر بھی مسلمانوں نے واضح ہدایت اور راہنمائی کے باوجود اس قسم کی غلطی کی اور اس اصول کو کلیتاً رد کرتے ہوئے قرآن کریم کی بعض آیات کو بعض دوسری آیات کے متضاد سمجھ کر منسوخ قرار دے دیا اور یوں عامۃ المسلمین کو بھی اپنے مذہب کے بارے میں شکوک میں مبتلا کیا اور مخالفین کو بھی اعتراضات کا موقع دیا۔ قرآن کریم کے بارہ میں مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں ان میں سے ایک غلط فہمی نسخ فی القرآن کا عقیدہ ہے۔ نسخ کے عقیدہ کا براہ راست قرآن کریم کی معنوی حفاظت سے تعلق ہے۔ اگر قرآن کریم میں نسخ کا جواز تسلیم کیا جائے تو پھر قرآن کریم محفوظ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ پھر یہ جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی نہیں۔ ہر شخص اپنے فہم کے مطابق قرآنی آیات کو رد کرنے لگے گا۔

پس قرآن کریم کی معنوی محافظت کے ضمن میں مناسب ہے کہ نسخ منسوخ کے مسئلہ پر بھی ایک مختصر نظر ڈالی جائے۔ مستشرقین اور مغربی محققین بھی حفاظت قرآن کریم کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے نسخ کے عقیدہ کو سہارا بناتے ہیں۔ چنانچہ ابن وراق نے بھی قرآن کریم کی عدیم النظیر حفاظت کے پہلو پر اعتراض کرنے کے لیے عقیدہ نسخ کا سہارا لیا ہے۔ کہتا ہے:

The doctrine of abrogation also makes a mockery of the Muslim dogma that the Koran is a faithful and unalterable reproduction of original scriptures that are preserved in Heaven. If God's words being superseded or becoming obsolete? Are some words of God to be preferred to other words of God? Apparently yes. According to Muir, some 200 verses have been canceled by later ones. Thus we have the strange situation where the entire Koran is recited as the word of God, and yet there are passages that can be considered not "true"; in other words, 3 percent of the Koran is acknowledged as falsehood.

(Ibn Warraq: Why I am Not A Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, under heading; The Koran: Pg: 115)

کیا نسخ کا عقیدہ بھی اس اسلامی عقیدہ کا تمسخر نہیں اڑاتا کہ قرآن کریم لوح محفوظ کی دیانت داری اور اخلاص سے کی گئی ناقابل تحریف نقل بمطابق اصل ہے۔ کیا خدا کے بعض اقوال پُرانے اور فرسودہ ہیں؟ کیا خدا کے بعض احکام بعض دوسرے احکام سے زیادہ اہم ہیں؟ (اس عقیدہ کے مطابق) بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ میور کے مطابق لگ بھگ دو سو آیات بعد میں نازل ہونے والی آیات سے منسوخ ہوئیں ہیں۔ اب ہم عجیب خاصہ میں ہیں کہ ایک طرف تو سارے قرآن کریم کی بطور کلام الہی تلاوت کی جاتی ہے جبکہ اس میں ایسے حصے بھی ہیں جو کہ حق نہیں ہیں۔ بالفاظ دیگر قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ مسلمہ طور پر باطل ہے۔

اس ضمن میں ایک بات تو یہ مدنظر رہی چاہیے کہ نسخ کا عقیدہ اگر درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی قرآن کریم کی لفظی حفاظت کے بارہ میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ حقیقت بہر حال تسلیم شدہ ہے کہ قرآن کریم جس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بنی نوع کو عطا ہوا یعنی اسی طرح محفوظ ہے۔ چنانچہ میور کی گواہی درج کی جا چکی ہے کہ قرآن کریم بلا تحریف و تبدل ہم تک پہنچا ہے۔ ہاں معنوی حفاظت کے پہلو کے لحاظ سے قرآن کریم میں نسخ و منسوخ کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

ابن وراق درست کہتا ہے کہ قرآن کریم میں خدا کا بیان فرمودہ ایک ایک حرف حتمی، درست اور قابل عمل ہے

اور پُرانا اور فرسودہ نہیں ہے اور اس میں بیان شدہ کوئی لفظ غیر اہم نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی لفظ منسوخ ہے تو وہ غلط کہتا ہے! قرآن کریم کلام الہی ہے اور اس کا ایک شعشہ بھی منسوخ نہیں اور ہر ایک حرف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا برحق اور رہتی دنیا تک کے لیے راہنمائی ہے اور اسی طرح قابل عمل ہے جیسا کہ بوقت نزول قابل عمل تھا۔ گو عام طور پر مسلمان علماء نسخ فی القرآن کے قائل ہیں لیکن آئمہ جب نسخ کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے جو معنی ہم کیا کرتے تھے ان معانی کا غلط ہونا فلاں آیت کے نزول سے ثابت ہو گیا ہے۔ پس نسخ سے مراد نسخ معانی تھا۔ گویا نسخ سے مراد یہ تھی کہ ہماری نظر میں اس آیت کے جو معنی ہیں دوسری آیت ان معنی کو درست قرار نہیں دیتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب و مادی ہے اور ایک شعشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام منجانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔

(ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170)

ابن وراق کے لیے تو اتنا جواب کافی ہے لیکن اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات کے ساتھ عرض ہے کہ ایک طرف تو آپ قرآن کریم کو کلام الہی تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف اس میں ایسے نسخ کے قائل ہیں کہ گویا قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوتی تھی پھر وہ کالعدم ہو جاتی تھی۔ یہ دو متضاد عقائد کیونکر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایسا عقیدہ رکھنے سے عقل و خرد کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے۔ خاص کر اس صورت میں تو بالکل ہی اس عقیدہ کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ جب یہ علم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس عقیدہ کو رد کرتا ہے اور کسی صحیح حدیث میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں نسخ کا ذکر نہیں فرماتے اور نہ ہی صحابہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آیت کو فلاں آیت سے منسوخ قرار دیتے تھے۔ ذیل میں ہم نسخ فی القرآن کے قائلین کے عقیدہ کا مختصر تجزیہ کرتے ہیں:

قرآن کریم میں نسخ کو جائز سمجھنے والے ایک دلیل اس آیت سے پیش کرتے ہیں:

مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (البقرہ: 107)

ترجمہ: جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا اسے بھلا دیں، اُس جیسی یا اُس سے بہتر ضرور لے

آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے؟

اس سے یہ مطلب اخذ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت میں منسوخ کر دیتا ہوں

مگر جب منسوخ کرتا ہوں تو بعینہ ویسی یا اس سے بھی بہتر آیت لے آتا ہوں۔ حالانکہ یہاں تو قرآنی آیات کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ یہاں تو یہود کا ذکر ہو رہا ہے۔ پس ایسی بے تعلق بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جس کا سارے قصہ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اصل میں تو یہ قصہ چل رہا ہے کہ یہود نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو۔ مگر تم پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ قرآن کے نزول کی ضرورت کیا ہے جبکہ پہلے سے ہی الہی تعلیمات اور کتب موجود ہیں۔ اس کا جواب یہ آیت دے رہی ہے کہ ان کتب کے بعض حصے اس قابل تھے کہ منسوخ کر دیے جاتے اور بعض ایسی باتیں تھیں کہ مرور زمانہ سے لوگوں کو بھول گئی تھیں اور آہستہ آہستہ کتب سماویہ سے محو ہو گئی تھیں۔ ان کا دوبارہ بیان کرنا ضروری تھا۔ پس ایک حصہ کو ہم نے منسوخ کر دیا اور اس سے بہتر تعلیم اس کتاب میں بیان کر دی اور وہ تعلیم جو بھول گئی تھی اس کو پھر اسی طرح بیان کر دیا اور اہل کتاب اس پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ خود ان کی کتابوں میں نئی شریعت کی خبر موجود ہے۔ چنانچہ یرمیاہ باب 31 آیت 31 میں ہے:

”دیکھو وے دن خداوند کہتا ہے میں اسرائیل کے گھرانے اور یہود کے گھرانے کے ساتھ نیا

عہد باندھوں گا۔ اس عہد کے موافق نہیں جو میں نے اُن کے باب دادا سے کیا“

پس قائلین نسخ اس آیت سے نسخ فی القرآن کا جو عقیدہ اخذ کرتے ہیں وہ سیاق و سباق کی رو سے غلط ٹھہرتا ہے۔ مضمون کوئی اور بیان ہو رہا ہے اور مطلب کچھ لیا جا رہا ہے۔ پس عقیدہ نسخ کی بنیاد ہی نا سمجھی پر ہے۔ اس غلط تفہیم پر بنیاد رکھتے ہوئے علماء نسخ کی تین اقسام بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک:

۱۔ نسخ کی ایک قسم یہ ہے کہ آیت کے معنی تو قائم ہوتے ہیں مگر الفاظ مہو کر دیے جاتے ہیں۔ گویا ایک آیت معناً تو قرآن کریم میں موجود ہوتی ہے مگر اس کے الفاظ اس میں نہیں ہوتے۔ وہ اس کی ایک مثال یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے یہ آیت کہ الشیخ والشیخوۃ اذا زینا فارجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔

۲۔ دوسری قسم کا نسخ یہ بتاتے ہیں کہ آیت کے الفاظ تو قائم رکھے جاتے ہیں مگر اس کا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ایک آیت لا اکراہ فی الدین پیش کرتے ہیں۔ اس قسم کا نسخ قرآن کریم میں بہت زیادہ تسلیم کیا گیا ہے۔

۳۔ تیسری قسم کا نسخ وہ ہوتا ہے جس میں ان کے نزدیک آیت کے الفاظ اور معنی دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال وہ تحویل قبلہ کا حکم بتاتے ہیں۔

ننسہا سے مراد وہ لیتے ہیں کہ متعلقہ حصہ ذہنوں سے اتر جاتا ہے اور اس کے ثبوت میں ایک من گھڑت قصہ پیش کرتے ہیں جس کا ذکر آگے آئے گا۔

قرآن کریم کے نسخ کے عقیدہ پر قائم لوگ اس بارہ میں کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ قرآن کریم میں اتنی کثرت سے نسخ منسوخ موجود ہو لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارہ میں کوئی رہنمائی نہ فرمائیں۔ پس قائلین نسخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی کے بغیر محض استدلال کرتے ہیں جس میں ان کی اپنی سوچ کا فرما ہوتی ہے۔ اور یہ استدلال قرآن کریم کے معانی کے عدم فہم یا عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ وقتی احکام اور شرائع منسوخ ہوتی ہیں۔ مگر قرآن کریم جو کہ ایک دائمی شریعت ہے اس کی طرف اس یہ بات منسوب کرنا واقعی معیوب ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر معیوب بات یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم کے بارہ میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں بعض الفاظ تو موجود ہیں مگر وہ قابل پیروی نہیں کیوں کہ منسوخ ہیں اور اپنے اس قول کی تائید میں کوئی وجہ پیش نہ کرے بلکہ اپنا قیاس پیش کرے۔ اس سے گمراہی کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا۔

پس قرآن کریم کی اس آیت میں عموماً مفسرین غلطی کھاتے ہیں جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ نے قرآن کریم میں اتاری ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتی ہے اور ہم اس سے بہتر آیت لا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نسخ منسوخ کا بہت لمبا جھگڑا چل پڑا۔ مفسرین نے تقریباً پانچ سو آیات کو نسخ اور پانچ سو آیات کو منسوخ قرار دے دیا۔ حالانکہ قرآن کریم کا ایک شعشہ بھی منسوخ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وقت تک یہ ساری نسخ و منسوخ آیات حل ہو چکی تھیں سوائے پانچ کے اور حضرت مسیح موعود کے علم کلام کی برکت سے یہ پانچ آیات بھی حل ہو گئیں۔ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک شعشہ بھی منسوخ نہیں۔ یہاں آیت سے مراد پہلی شریعتیں ہیں جب بھی وہ منسوخ ہوئیں یا بھلا دی گئیں تو ویسی ہی یا ان سے بہتر نازل کر دی گئیں۔

انسانی دماغ کے کئی مدارج ہیں۔ بعض دماغ ایک بات کو سمجھتے ہیں اور بعض نہیں سمجھتے۔ اگر انسانی دماغ کی سمجھ پر اس بات کی بنیاد رکھی جائے کہ کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی آیت منسوخ نہیں تو ایک لحاظ سے سارا قرآن ہی منسوخ ماننا پڑے گا کیوں کہ کسی حصہ کو کوئی نہیں مانتا اور کسی کو کوئی نہیں مانتا۔ جس کی سمجھ میں سو آیات نہ آئیں اس نے سو منسوخ قرار دے دیں اور جس کی سمجھ میں ہزار نہ آئیں اس نے ہزار آیات منسوخ قرار دے دیں۔ چنانچہ اس کی امر مثال کہ بعض آیات کو اس لیے منسوخ کہا جاتا ہے کہ وہ بظاہر دوسری آیات کے مخالف نظر آتی ہیں، ہم مولوی مودودی کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں: آپ رقم طراز ہیں:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة: 257)

یعنی دین میں جبر نہیں مگر اس واضح آیت کے ہوتے ہوئے بھی بعض مسلمان دین میں جبر کو

جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بعد میں نازل ہونے والی جہاد کی آیات نے یہ آیت منسوخ کر دی ہے۔ اگر اس منسوخ نہ کہا جائے تو تضاد پیدا ہوتا ہے قرآن میں۔

(سید ابوالاعلیٰ مودودی 'ارتداد کی سزا اسلامی قانون میں' صہ 53,54 زیر عنوان عقل اور قتل مرتد بار اول جون 1951ء مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی اچھرہ پاکستان)

جبکہ قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی دو آیات میں تضاد ہو تو ایک آیت کو منسوخ قرار دے دو بلکہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تضاد ہو تو سمجھو کہ قرآن کریم خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں بلکہ خدا کے سوا کسی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ فرمایا:

لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء: 83)

اگر یہ قرآن اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ تاریخ اسلام میں بہت کثرت سے احادیث درج ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرآن بالقرآن کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ مثلاً:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أَحَبُّ إِلَيَّ بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشِيخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغَضَّبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالشَّرَابِ وَيَقُولُ مَهَلًا يَا قَوْمِ بِهِدَا أَهْلَكَتِ الْأُمَّمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرَبَهُمُ الْكُتُبَ بَعْضُهَا بَعْضٌ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكْذِبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهَلْتُمْ مِنْهُ فَارُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ

مسند احمد بن حنبل مسند المكثرين من الصحابة حديث: 6415

حضرت انس بن عیاض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا تذکرہ کیا جس میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ کا چہرہ شدت غضب سے سُرخ تھا۔ آپ نے ناراضگی سے فرمایا اے میری قوم

اس قسم کے معاملات میں نہ پڑو۔ تم سے پہلی امتیں انبیاء اور ان کی کتب میں تقابل کر کے ان کے بارہ میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئیں ہیں۔ قرآن کریم اس طرح تو نازل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو جھٹلائے بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ پس (اس اصول کو راہنما بناتے ہوئے) جو سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کرو اور جو سمجھ نہ آئے تو اس سے پوچھ لیا کرو جو اس معاملہ میں اہل علم ہو۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو راہنما بناتے ہوئے ہمیں قرآن کریم کی وہی تفسیر کرنی چاہیے جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے مطابق ہونہ کہ اپنی مرضی کے معانی کر کے ان تمام آیات کو منسوخ قرار دیدینا چاہیے جو ہمارے کیے ہوئے معانی کو رد کرتی ہوں۔ اگر کسی آیت کے معانی قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف ہوں تو لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ معانی غلط ہیں کیونکہ قرآن تضاد سے پاک ہے۔ پس درست معانی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر نہ سمجھ آئیں تو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ کسی آیت کو مکمل طور پر نا سمجھنے کی صورت میں یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ وہ آیت منسوخ ہے اور نہ ہی کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سب قرآن سمجھ چکا ہے پس نا سمجھی پر کیسے ایک عقیدے کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بڑے بڑے علم والے لوگ پیدا کیے ہیں مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا علم قرآن حاصل کر لیا ہے۔ میں بھی کہ جس پر اللہ نے قرآن کریم کے بے شمار معارف کھولے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا سارا علم میں نے حاصل کر لیا ہے اگر ایسا ہوتا کہ کوئی شخص اس کے تمام معارف سمجھ لیتا تو قیامت آجاتی۔ کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ جب اس میں سے نئے نئے مضامین نکلنے بند ہو جائیں گے اس وقت قیامت آجائے گی۔ پس اس کے معارف کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور یہ کتاب ہمیشہ نئے نئے مطالب دنیا میں ظاہر کرتی رہے گی۔

(تفسیر کبیر جلد دوم ص 97-98)

تاکلین نسخ کی یہ گستاخی بہت عجیب ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوڑا ایک کروڑا حدیث بھی قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں کر سکتیں لیکن دوسری طرف اپنے ظن سے قرآن کی آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں اور اپنی سوچ کا مرتبہ احادیث رسولؐ سے بھی بڑا سمجھتے ہیں کہ گویا انہیں تو یہ حق حاصل ہے کہ کچھ آیات کو منسوخ قرار دے دیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل نہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہر عقل مند اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا۔

پس قرآن کریم کی آیات کے معنی اور تفسیر کرنے کا ایک بہت بنیادی اصول اور ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے معنی قرآن کریم کی دوسری آیات کے مطابق کیے جائیں۔ قرآن کریم آیات کے وہ معنی کرنے چاہئیں جو کہ تمام آیات کے مطابق ہوں اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی مرضی سے ایک آیت کے معنی کر لیے اور باقی آیات کو منسوخ قرار دے دیا۔ یہ منشاء الہی اور منشاء رسول کے خلاف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ القرآن ینسخ بعضہ بعضا۔

سوال یہ ہے اگر درحقیقت قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے تو پھر کیوں بعض صحابہ نے بعض آیات کو منسوخ قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ اگر یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو کسی قرآنی آیت کے منسوخ ہونے کے بارہ میں نہیں بلکہ اس کے عام رائج معنی کے منسوخ ہونے کے کرتے تھے کہ نئی نازل ہونے والی آیت نے پہلے سے نازل شدہ اس آیت کی تفسیر کر دی ہے اور جو معنی ہم سمجھتے تھے وہ معانی منسوخ ہو گئے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارہ میں رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قالین نسخ کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر حدیث سے آیت منسوخ ہو جاتی ہے بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ واقعی امر تو یہی ہے کہ قرآن پر نہ زیادت جائز ہے اور نہ نسخ کسی حدیث سے لیکن ہماری نظر قاصر میں جو استخراج مسائل قرآن سے عاجز ہے یہ سب باتیں صورت پذیر معلوم ہوتی ہیں اور حق یہی ہے کہ حقیقی نسخ اور حقیقی زیادت قرآن پر جائز نہیں کیونکہ اس سے اس کی تکذیب لازم آتی ہے۔

(الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 92-93)

پس نہ تو وحی الہی سے کوئی آیت کبھی منسوخ قرار دی گئی اور نہ ہی معانی سمجھ نہ آنے سے کوئی آیت منسوخ سمجھی جاسکتی ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وحی الہی سے کسی آیت کے منسوخ ہونے کا علم ہوتا یا آپ کا یہ منشاء ہوتا کہ معنوں کو دیکھ کر بظاہر متضاد آیات منسوخ قرار دے دی جائیں تو پھر لازمی تھا کہ جس طرح قرآن کریم کی آیات کی نزول کے ساتھ ہی اشاعت کی جاتی تھی اسی طرح آنحضرت وحی الہی سے منسوخ ہونے والی آیات کی بھی سب صحابہ کو اطلاع کیا کرتے اور تاریخ میں ایسے واقعات محفوظ رکھے جاتے۔ امت نے یہ واقعات تو محفوظ کر لیے جن میں آنحضرت نے تفسیر القرآن بالقرآن کی تاکید فرمائی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے نسخ و منسوخ کا ایک بھی واقعہ محفوظ نہ کیا۔ عاقل را اشارہ کافی است!

پس قرآن کریم کی تفسیر کے لیے یہ بنیادی اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرما دیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے وہی معنی ہوں گے جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے مطابق ہوں گے۔ اگر کسی آیت کے ایسے معانی

کیے جائیں جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف ہوں تو وہ معنی غلط ہوں گے۔ اگر تفسیر قرآن کے لیے آنحضرتؐ کے بیان فرمودہ اس بنیادی اصول کو تسلیم نہ کیا جائے اور نسخ فی القرآن کا عقیدہ تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کریم کا وجود ہی بیکار ہو جاتا ہے اور امن اٹھ جاتا ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی سے معنی کرے گا۔ مثلاً اگر نسخ کا قائل دین میں جبر کا قائل ہوگا تو پھر تو ایک آفت آجائے گی۔ ایسا شخص قرآن کریم سے وہ تمام آیات منسوخ قرار دیدے گا جن میں یہ ذکر ہے کہ اپنے لیے مذہب کا انتخاب کرنا انسان کا ایسا ذاتی فعل ہے جس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے۔ دلائل کی رو سے سچے دین کی تلاش تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی شخص جبراً کسی دوسرے شخص کو اپنے دین میں نہیں داخل کر سکتا اور نہ ہی کسی دین سے نکال سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا شخص اگر طاقتور ہو تو ظلم اور تعدی کی راہ سے دُنیا کا امن برباد کر دے گا اور صرف اُن لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دے گا جو اس کے دین کے مطابق اپنا دین بنائیں گے۔

ایک بات یہ بھی مد نظر رہے کہ موجودہ قرآن کریم پر صحابہ کا دومرتبہ اجماع ہوا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکرؓ کے دور میں اور ایک مرتبہ حضرت عثمانؓ کے دور میں۔ پس جب صحابہ کا سارے قرآن کریم پر اتفاق ہے تو کوئی آیت کسی ایک صحابی کے کہنے پر منسوخ قرار نہیں دی جاسکتی۔ ایک طرف تو تمام صحابہ اس آیت کو قرآن کریم کا حصہ قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک صحابی کسی آیت کو منسوخ مانتا ہے تو ہزاروں صحابہؓ کے اجماع کے خلاف اُس ایک صحابی کی رائے کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟ اگر تمام صحابہؓ نے بالاتفاق یہ شہادت دی ہو کہ یہ آیت قرآن کریم میں شامل ہے اور پھر اسی اتفاق کے ساتھ بیان نہ کیا ہو کہ یہ آیت منسوخ ہے تو محض ایک یا دو صحابہؓ کے کہنے پر ہم کسی آیت کو منسوخ قرار نہیں دے سکتے۔ ایک آیت کے قرآن کریم کا حصہ ہونے پر جس قسم کی شہادت مہیا ہے اسی قسم کی شہادت اگر اس کے منسوخ ہونے پر ہو تو وہی قابل توجہ ہو سکتی ہے۔ مگر یہ حقیقت بھی ظاہر و باہر ہے کہ تمام صحابہؓ کسی آیت کے منسوخ ہونے پر متفق نہیں۔ بلکہ کسی آیت کے منسوخ ہونے پر صحابہؓ کی کوئی چھوٹی سی جماعت بھی متفق نظر نہیں آتی جو پانچ یا چھ افراد پر ہی مشتمل ہو۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اُن کی ذاتی رائے تھی اور اس رائے کا مطلب وہی تھا جو امام الزماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے معنی کو منسوخ قرار دیتے تھے آیت کو نہیں۔

جہاں تک اُن آیات کا تعلق ہے جن کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم سے منسوخ کر دی گئی ہیں مگر الفاظ پیش نہیں کرتے اس لیے ایسا دعویٰ قابل اعتبار نہیں رہتا۔

پھر قائلین نسخ کے نزدیک کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کے معنی تو قائم ہیں مگر الفاظ منسوخ ہیں۔ یہ تو بات ہی بے وقوفی والی ہے۔ الفاظ منسوخ کرنے کی کیا تک اور حکمت ہے۔ یہ بے حکمت اور فضول کام خدا کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتا۔

اسی طرح قائلین نسخ ایک آیت پیش کرتے ہیں جس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ یہ بھی منسوخ ہوگئی ہے۔ یہ بات بھی عجیب ہے۔ حکم کے منسوخ ہونے کی کچھ سمجھ بھی آتی ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی صفت قدوس کو عملی طور پر نہیں مانتے اور یہ تسلیم نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور پھر علم ہوا کہ اس حکم سے بہتر حکم دیا جاسکتا ہے تو اُس نے گزشتہ حکم منسوخ کر دیا اور نیا حکم نازل کر دیا لیکن واقعہ جو ہو چکا ہے وہ تو منسوخ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو معرض وجود میں آچکا اور ماضی کا حصہ بن چکا۔ پھر اس کے منسوخ کرنے سے کیا مراد؟ کیا تاریخ جو وقوع پذیر ہو چکی منسوخ ہو سکتی ہے۔ مثلاً کسی قائل نسخ کے ساتھ یہ واقع ہو جائے کہ اس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی میت کو غسل دے اور تجہیز و تکفین کرے۔ اب وہ کس طرح اس واقعہ کو منسوخ کرے گا؟ کیا وہ یہ اعلان کرے گا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اب اسے منسوخ سمجھیں اور ماضی کا حصہ نہ سمجھیں؟ واقعہ کے منسوخ کرنے سے تو صرف یہی مراد ہو سکتی ہے کہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ درست نہیں تھا۔ غلطی ہوگئی اس لیے وہ حذف کر دیا جائے۔ مگر کیا خدا تعالیٰ سے ایسی غلطی کی امید رکھی جاسکتی ہے۔ مفسرین کا بھی اس پر اجماع ہے کہ واقعہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔

قائلین نسخ کی طرف سے ایک من گھڑت اور عجیب و غریب واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ دو افراد تھے جن میں سے ایک نے ایک آیت پڑھنے کی کوشش کی تو اسے یاد نہ آئی۔ اس نے دوسرے سے پوچھی تو اسے بھی بھول چکی تھی۔ وہ باہر نکلے اور دوسرے صحابہ سے پوچھنے لگے مگر سب صحابہ کو بھول چکی تھی اور کوئی بھی اُس آیت کے الفاظ نہ بتا سکا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ اُن دو افراد کے نام کیا تھے؟ وہ کس قبیلہ یا خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے کہاں رہتے تھے؟ کسی قسم کی کوئی مستند تفصیل کتب تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس واقعہ کے راوی کون ہیں؟ کچھ علم نہیں! بس درج کر دیا گیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا کبھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سینکڑوں حفاظ تھے مگر روایت میں دو ایسے صحابہ کا ذکر ملتا ہے جن کو کوئی نہیں جانتا اور ان کے آباء کا بھی علم نہیں۔ روایت کے کچھ اصول ہیں ان پر بھی یہ روایت پوری نہیں اترتی کیوں کہ راوی بھی مذکور نہیں کہ کون ہیں۔ پھر بھولنے والی بات تو عقل کو کسی طرح تسلیم نہیں کیونکہ اس صورت میں شور پڑ جانا چاہیے تھا۔ پس یہ روایت درایت کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ننسہا کے معنی قرآن کے بھولنے کے کیسے لیے جاسکتے ہیں جبکہ قرآن خود فرماتا ہے کہ سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسِيْ چنانچہ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے جو پھر اس کے بھولنے یا منسوخ ہونے کے کیا معنی؟ اللہ خود فرماتا ہے؛ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ پھر اگر بھلا یا یا منسوخ کیا جاسکتا ہے تو پھر حفاظت کے کیا معنی؟

سوال یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ اتنا ہے بعید از عقل ہے تو پھر کیوں امت مسلمہ میں اس قدر رائج ہو گیا؟ اس کا

جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ کو رائے تقلید بنی ہے۔ ابتدا میں جب نسخ کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو آج معروف ہو چکا ہے۔ ابتدا میں نسخ سے مراد صرف یہ تھی کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے جو معنی ہم سمجھتے تھے قرآن کریم کی ایک نئی نازل ہونے والی آیت نے یفسر بعضہ بعضا کے مطابق اس کے وہ معانی کھول دیے ہیں جو حقیقی ہیں اور جو ہم سمجھتے تھے وہ معنی رد کر دیے ہیں۔ پس وہ معنی منسوخ ہو گئے ہیں اور بہتر معانی عطا ہوئے ہیں۔ یہی حقیقت مضمون کی ابتدا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں درج کی جا چکی ہے۔

بعد میں آنے والوں نے اندھی تقلید کرتے ہوئے مسئلہ تو اپنا لیا مگر اس کے صحیح مفہوم کو اپنانا سکے۔ واللہ اعلم۔ بہر حال حقیقت جو بھی ہو یہ واضح ہے کہ اگر اس سارے مسئلہ کا تجزیہ کیا جائے تو عقل اسے دھکے دیتی ہے۔ تاریخ بھی کوئی سہارا نہیں دیتی۔ اگر کوئی دلیل بن سکتی ہے منسوخ شدہ آیت کی تو یہ ہی بن سکتی ہے اور ہمیشہ مختلف الفاظ کے جامے میں لپیٹ کر یہی بنائی گئی ہے کہ فلاں آیت چونکہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے منسوخ ہے۔ یا فلاں آیت باقی قرآنی آیات کے متضاد معلوم ہوتی ہے اس لیے منسوخ ہے۔ پس سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر متضاد معلوم ہوتی ہے تو یہ بھی فہم قرآن کی کمی ہے کیوں کہ قرآن کریم کا تو یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اختلاف ہو تو سمجھ لو کہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں۔ یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ اگر اختلاف ہو تو ایک آیت کو منسوخ قرار دے لو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ”عدم علم سے عدم شے لازم نہیں“ اور اسی حقیقت کے برعکس پر نسخ اور منسوخ کے مسئلہ کی بنیاد ہے۔ یعنی اس مسئلہ کی بنیاد کسی حقیقت پر نہیں بلکہ عدم علم اور کم فہمی پر ہے اور یہ وہ واحد مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد بر ملا طور پر ناسمجھی اور جہالت پر رکھی گئی ہے اور باقاعدہ اقرار کیا جاتا ہے کہ فلاں آیت چونکہ سمجھ نہیں آئی اس لیے منسوخ ہے۔ الفاظ جو بھی ہوں مفہوم یہی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امام الزماں حکم و عدل علیہ السلام کے کے اس فیصلہ کے بعد عقیدہ نسخ فی القرآن کا سب سے بڑا علمبردار وہی ہو گا جسے سب سے کم آیات کا فہم نصیب ہو گا اور قرآن مجید کی تفسیر سے سب سے زیادہ ناواقف اور قرآنی تعلیمات کے عرفان سے سب سے زیادہ دور ہو گا۔

قرآن کریم کی دائمی حفاظت کا وعدہ ہے

ابن وراق اور اس قماش کے باقی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے جو یقیناً اس کے ہوش اڑا دے گی اور یہ نوید سنا دے گی کہ جو انجام گزشتہ ادوار میں قرآن کریم کے بارہ میں شک پیدا کرنے والوں کا ہوا وہی تمہارا بھی ہے۔۔۔ ناکامی، نامرادی اور ذلت۔۔۔ وہ خوشخبری یہ کہ آئندہ زمانہ میں بھی قرآن کریم کی حفاظت پر کوئی آنچ آئے اس بات کا دُور دُور تک کوئی امکان نہیں۔ جو کتاب اب اتنی کثرت سے شائع ہوتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں حفاظ موجود ہیں، ساری دُنیا میں تلاوت کرنے والے موجود ہیں، وہ کس طرح بدلی جاسکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ یہ تو عام دُنیاوی حالات دیکھ کر ایک تسلی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بشارت بھی ہے ابن وراق کے لیے۔ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا سب سے بڑھ کر قادر اور توانا خدا اس کی حفاظت پر نگران ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ نادانستہ بشری کوتاہی یا دانستہ بشری کوشش اس میں کوئی کمی یا بیشی یا کوئی تغیر یا تبدل کر سکے۔ یہ کلّیاً ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی معنوی حفاظت کا بھی ایک بے نظیر انتظام یہ فرمایا کہ امت محمدیہ سے یہ عہد کیا کہ ہر دَور میں اور ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ایسے کامل افراد کو پیدا کرتا رہے گا جو خدا تعالیٰ سے براہ راست راہنمائی پا کر قرآن کریم کی صحیح تعلیم کی اشاعت کرتے رہیں گے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس تنزیل کی محافظت کریں گے۔ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تعلیم کو تازہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔“ (شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 338)

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ جل شانہ، قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ یعنی ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس تنزیل کی محافظت کریں گے اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تعلیم کو تازہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کے وجود کا فائدہ کیا ہے جس فائدہ کے وجود پر اس کی حقیقی حفاظت موقوف ہے تو اس دوسری آیت سے ظاہر ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ [الجمعة: 3] اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے فائدے دو ہیں جن کے پہنچانے کے لیے آنحضرت صلی اللہ

علیہ والہ وسلم تشریف لائے تھے۔

ایک حکمتِ فرقان یعنی معارف و دقائقِ قرآن۔ دوسری تاثیرِ قرآن جو موجب تزکیہِ نفوس ہے اور قرآن کی حفاظت صرف اسی قدر نہیں جو اس کے صفحاتِ مکتوبہ کو خوب نگہبانی سے رکھیں کیونکہ ایسے کام تو اوائلِ حال میں یہود اور نصاریٰ نے بھی کیے یہاں تک کہ توریت کے نقطے بھی گن رکھے تھے۔ بلکہ اس جگہ مع حفاظت ظاہری حفاظت فوائد و تاثیراتِ قرآنی مراد ہے اور وہ موافق سنتِ اللہ کے تبھی ہو سکتی ہے کہ جب وقتاً فوقتاً نائبِ رسول آویں جن میں ظلی طور پر رسالت کی تمام نعمتیں موجود ہوں اور جن کو وہ تمام برکات دی گئی ہوں جو نبیوں کو دیجاتی ہوں جیسا کہ ان آیات میں اسی امرِ عظیم کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

پس یہ آیت درحقیقت اس دوسری آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ النور: ۵۶ کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظتِ قرآن کیونکر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا اور ان کے ہاتھ سے برجائی دین کی ہوگی اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا یعنی ایسے وقتوں میں آئیں گے کہ جب اسلام تفرقہ میں پڑا ہوگا۔ پھر ان کے آنے کے بعد جو ان سے سرکش رہے گا وہی لوگ بدکار اور فاسق ہیں۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ کیا ہم پر اولیاء کا ماننا فرض ہے۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیشک فرض ہے اور ان سے مخالفت کرنے والے فاسق ہیں اگر مخالفت پر ہی مرے۔

(شہادۃ القرآن روحانی خزائن جلد ششم صفحہ 338، 339)

پھر فرماتے ہیں:

”یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ بجز اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے کہ قرآن سینوں سے محو نہیں کیا جائے گا جس طرح کہ توریت اور انجیل یہود اور نصاریٰ کے سینوں سے محو کی گئی اور گو توریت اور انجیل ان کے ہاتھوں اور ان کے صندوقوں میں تھی لیکن ان کے دلوں سے محو ہو گئی یعنی ان کے دل اس پر قائم نہ رہے اور انہوں نے توریت اور انجیل کو اپنے

دلوں میں قائم اور بحال نہ کیا۔ غرض یہ آیت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ کوئی حصہ تعلیم قرآن کا برباد اور ضائع نہیں ہوگا اور جس طرح روز اول سے اس کا پودا دلوں میں جمایا گیا۔ یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔“ (شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 351)

”یہ حدیث (اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰی رَاسِ كُلِّ مِئْتَةٍ سَنَةً مِّنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا۔ ناقل) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ کی شرح ہے۔ صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سو سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ذریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے پھر نئے سر سے پیدا ہو جائیں گے اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر سو سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کر دیتا ہے جیسا رزق کا سامان کرتا ہے۔ پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تو اتر کا حکم رکھتی ہے۔

قرآن شریف کی تعلیم کا محرف مبدل ہونا اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۔ (سورۃ الحجر الجز ونمبر ۱۴) یعنی اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے۔ سو تیرہ سو برس سے اس پیشینگوئی کی صداقت ثابت ہو رہی ہے۔ اب تک قرآن شریف میں پہلی کتابوں کی طرح کوئی مشرکانہ تعلیم ملنے نہیں پائی اور آئندہ بھی عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ اس میں کسی نوع کی مشرکانہ تعلیم مخلوط ہو سکے۔ کیونکہ لاکھوں مسلمان اس کے حافظ ہیں۔ ہزار ہا اس کی تفسیریں ہیں۔ پانچ وقت اس کی آیات نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ ہر روز اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح تمام ملکوں میں اس کا پھیل جانا۔ کروڑ ہا نسخے اس کے دنیا میں موجود ہونا۔ ہر ایک قوم کا اس کی تعلیم سے مطلع ہو جانا۔ یہ سب امور ایسے ہیں کہ جن کے لحاظ سے عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہے کہ آئندہ بھی کسی نوع کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا متمنع اور محال ہے۔“ (براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول ص 102 حاشیہ نمبر 9 ایڈیشن اول ص 111)

اسی طرح فرماتے ہیں:

پھر بعض اور آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور خداوند کریم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ روحانی معلم جو انبیاء کے وارث ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں اور وہ یہ ہیں۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

اٰمَنُوۡا مِنْكُمْ وَعَمِلُوۡا الصّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ. وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوۡا تُصِيۡبُهُمْ بِمَا صَنَعُوۡا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيۡبًا مِّنْ
دَارِهِمْ حَتّٰى يٰتٰى وَعَدَاللّٰهِ. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخَلِّفُ الْمِيۡعَادَ الْجَزِوۡ نَمْبَر ۱۳ وَمَا كُنَّا
مُعَدِّبِيۡنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوۡلًا لِّعَنِ خَدَاتَعَالٰى نَعْمَا رَعٰى لِيَعْلَمَ اَمْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ
وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھی وہ زمین میں خلیفہ کرے گا جیسا کہ تم سے پہلوں کو کیا اور ہمیشہ کفار پر کسی
قسم کی کوفتیں جسمانی ہوں یا روحانی پڑتی رہیں گی یا ان کے گھر سے نزدیک آ جائیں گی۔ یہاں
تک کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آپہنچے گا اور خدا تعالیٰ اپنے وعدوں میں میں تخلف نہیں کرتا اور ہم کسی
قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں۔

ان آیات کو اگر کوئی شخص تامل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیونکر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ
نہ جائے کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے۔ اگر خلافت
دائمی نہیں تھی تو شریعت موسوی کے خلیفوں سے تشبیہ دینا کیا معنی رکھتا تھے اور اگر خلافت راشدہ
صرف تیس برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا اس سے لازم آتا ہے کہ خدا
تعالیٰ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس امت پر ہمیشہ کے لیے ابواب سعادت مفتوح رکھے کیونکر
روحانی سلسلہ کی موت سے دین کی موت لازم آتی ہے اور ایسا مذہب ہرگز زندہ نہیں کہلا سکتا
جس کے قبول کرنے والے خود اپنی زبان سے ہی یہ اقرار کریں کہ تیرہ سو برس سے یہ مذہب مرا
ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس مذہب کے لیے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا کہ حقیقی زندگی کا وہ نور جو نبی کریم
کے سینہ میں تھا وہ توارث کے طور پر دوسروں میں چلا آوے۔

(شہادۃ القرآن روحانی خزائن جلد ششم صفحہ 347 تا 351)

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اب رہا آئندہ کا سوال سوا اس کا اول تو یہ جواب ہے کہ اس وقت تک اس میں کوئی تغیر نہیں
ہوگا اور آئندہ کے لیے قرآن کریم میں پیشگوئیاں موجود ہیں کہ جب بھی مسلمان اسلام سے
غافل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان میں مامور بھیجتا رہے گا۔ پس اس وعدہ کی موجودگی میں ہم یقین
رکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم سے ہمیشہ دنیا کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی.... یقیناً وہ ہمیشہ
اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا کیونکہ کوئی عقلمند آدمی اپنی کارآمد شے کو تباہ نہیں ہونے دیتا اور
اللہ تعالیٰ تو سب عقلمندوں سے بڑھ کر عقلمند ہے۔“

(تفسیر کبیر جلد چہارم صفحہ 22 زیر تفسیر آیت الحج 10)

قرآن کریم کے بعد اور کسی الہامی کتاب کے نزول کی ضرورت نہیں

یہاں ایک خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ان بدلتے حالات میں تعلیم وہی کام آئے جو پندرہ سو سال پہلے نازل کی گئی۔ یقیناً بدلتے حالات اور جدید تقاضوں کے مطابق نئی تعلیم کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ پس قرآن کریم بے شک محفوظ رہے لیکن نئی تعلیم کی ضرورت بہر حال موجود ہے۔

اس ضمن میں مختصراً عرض ہے کہ یہ ذکر گزر چکا ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک کامل کتاب ہے جس میں قیامت تک بنی نوع کی تمام ضروریات اور مسائل کا حل موجود ہے۔ ہاں یہ تمام مضامین ضرورت حقہ کے مطابق ظاہر ہوں گے۔ یعنی جوں جوں زمانہ اپنی ضروریات اور مسائل پیش کرے گا قرآن کریم ان ضروریات کو پورا کرے گا اور ان مسائل کا حل پیش فرماتا چلا جائے گا۔ چنانچہ آج بھی ضرورتِ زمانہ کے مطابق قرآن کریم کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے چلے جائیں گے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

قرآن شریف ایسے زمانہ میں آیا تھا کہ جس میں ہر ایک طرح کی ضرورتیں کہ جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آگئی تھیں۔ یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فعلی بگڑ گئے تھے اور ہر ایک قسم کا افراط تفریط اور ہر ایک نوع کا فساد اپنے انتہاء کو پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجہ پر نازل ہوئی۔ پس انہی معنوں سے شریعت فرقانی مختتم اور مکمل ٹھہری اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفسد کو کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں پہنچے تھے اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنی انتہاء کو پہنچ گئے تھے۔ پس اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہیں پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرورت تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی فرقان مجید ظہور پذیر ہوتا۔ مگر قرآن شریف کے لیے اب یہ ضرورت درپیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آوے۔ کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے اور تعلیم تو حید میں تبدل اور تحریف عمل میں آوے گی اور اگر ساتھ اس کے یہ بھی فرض کیا جائے جو کسی زمانہ میں وہ کروڑ ہا مسلمان جو تو حید پر قائم ہیں وہ بھی پھر طریق شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے تو بے شک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا۔ مگر دونوں قسم کے فرض مجال ہیں۔“

(براہین احمدیہ ہر چہار حصص، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 101 حاشیہ)

انڈیکس

انڈیکس آیات قرآن کریم
انڈیکس اعتراضات
انڈیکس اسماء

انڈیکس آیات قرآن کریم

[270] حافظوا على الصلوات... (239)
 [378] لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (257)
 [153] آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ... (286)

آل عمران

لعنة الله على الكاذبين- [62]
 [235] [268]
 ولقد صدقكم الله وعده اذ
 تحسونهم.... (153 تا 155) [363]

النساء

وجئنا بك على هؤولاءِ شهيداً (42)
 [42]
 لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ... (83)
 [125] [378] [383] [388]
 لا يستوى القاعدون.... (96,97) [19]

المائدة

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ.... نِعْمَتِي (4)
 [234]
 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ.... مِنَ النَّاسِ (68)
 [157] [168] [258] [315]
 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ (83) [255]
 وَإِذَا سَمِعُوا (84) [255]
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... اهْتَدَيْتُمْ (106) [369]

الانعام

ما فرطنا في الكتاب من شيء [39]
 [243]
 أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ... (47)
 [225]
 لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ.... مُبِينٍ (60)
 [243]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[3] [17] [179] [180]

الفتح

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)
 [43] [244] [256] [273] [274] [303]
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)
 [43] [244] [246] [303]
 مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)
 [244]

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)
 [278] [374]
 صِرَاطَ الَّذِينَ.... وَلَا الضَّالِّينَ (7)
 [273] [277] [279] [374] [366]

البقرة

الم (2)

[41] [236] [248]
 ذَلِكَ الْكِتَابُ... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (3)
 [45] [209] [236] [248]
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا... تَتَّقُونَ (22)
 [236]
 وَإِنْ كُنْتُمْ فِي.... لِّلْكَافِرِينَ (24`25)
 [183]
 لِيَتَّخِذُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (44)
 [202]
 قُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا (84) [214]
 مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ.... قَدِيرٌ- (107) [385]
 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ.... (122) [44]
 ان الله يحب المحسنين (196) [214]
 ليس عليكم جناح ان تبغوا (199)
 [214] [270]

فَالَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ... يَعْلَمِ اللَّهُ (15) [229]	وما انا عليكم بحفيظ (105) [311] [319]
<u>يوسف</u> لا تثريب عليكم اليوم (93) [154]	وَ كَذَلِكَ لُنْصِرِفُ الْآيَاتِ... (106) [237]
<u>الرعد</u> واما ما ينفع الناس... الارض (18) [374] ولا يزال الذين كفروا... الميعاد (32) [375] [397]	قل ان صلوتي و نسكى (163) [153]
<u>الحجر</u> تلك آيت الكتاب و قران مبين (2) [255] [386]	<u>الاعراف</u> ولله الاسماء الحسنى (181) [214]
ربما يود الذين (3) وقالوا يا ايها الذي نزل... لمجنون (3) [3] انا نحن نزلنا الذكر... (10) [vii,viii] [4] [5] [7][27] [35] [65] [73] [173] [339] [350] [351] [370] [371] [373] [374] [376] [381] [392] [394] [395] [396]	وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا... (205) [40]
<u>الانفال</u> يريدون ان يطوفوا... الكفرون (32) [362] لا تحزن ان الله معنا (41) [154]	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ (18) [320] وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا... (46) [253] [254]
<u>التوبة</u> وان بين شىء الا عندنا.. معلوم (22) [243]	<u>التوبة</u> يريدون ان يطوفوا... الكفرون (32) [362] لا تحزن ان الله معنا (41) [154]
<u>النحل</u> فاستلوا اهل الذكر... تعلمون (44) [337] ونزلنا عليك الكتاب... شىء (90) [243] فاذا قرأت القرآن فاستعذ... (99) [39]	<u>يونس</u> قال الذين لا يرجون لقاءنا... (16) [123] [124] [181] [183] قل لو شاء الله ما تلوته... (17) [126] [135] ما يتبع اكثرهم الا ظنا... شيئا (37) [120] وما تكون في شأن و ما تملوا... (62) [63]
<u>بنى اسرائيل</u> وقل لعبادى يقولوا التى هى احسن (8) [214] وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (16) [375] [397] اقم الصلوة لدلوك... مشمؤدا (79) [40]	<u>هود</u> الراكب احكمت اليه ثم... (2) [238] الا تعبدوا الا الله اننى لكم منه... (3) [236] [238] وان استغفروا ربكم... كبير (4) [238]

<p><u>النمل</u> قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ ... يُفْعَلُونَ (35) [148]</p>	<p>بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ (106) [124]</p>
<p><u>العنكبوت</u> بل هو آيات بينات... العلم (50) [373] وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ... مُبِينٌ (51) [125] والذين جاهدوا فينا... سبنا (70) [375]</p>	<p>وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ... تَنْزِيلًا (107) [12]</p>
<p><u>السجده</u> آلَمْ تَنْزِيلَ (2,3) [68] الذي أحسن كل شيء خلقه (32) [214]</p>	<p><u>الكهف</u> قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ... مَدَدًا- (110) [242]</p>
<p><u>الاحزاب</u> منهم من قضى... ينتظر (24) [163] ملعونين - اينما ثقفوا... تقتيلاً [62] [265]</p>	<p><u>طه</u> الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی (9) [214] انه من يات ربه... يحيى (75) [371] فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ... عِلْمًا- (115) [62] [66]</p>
<p><u>الزمر</u> اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ... هَادٍ- (24) [16] [213] [240] [245]</p>	<p><u>الحج</u> احلت لكم الانعام... عليكم (31) [184] وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ... أُمْنِيَّتِهِ) [106]</p>
<p><u>المؤمن</u> و صوركم فاحسن صوركم (40) [214]</p>	<p>وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ... حَكِيمٌ (53) [62] [106]</p>
<p><u>حم السجده</u> إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... حَمِيدٍ (42،43) [16]</p>	<p><u>المؤمنون</u> وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ... طِينٍ (13) [117] ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ... الْحَالِقِينَ (15) [110] [111] [117] [215]</p>
<p><u>الشورى</u> فَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنْ... يُنْفِقُونَ (37 تا 39) [334]</p>	<p><u>النور</u> وعد الله الذين امنوا... لفساقون (56) [375] [395] [397]</p>
<p><u>الاحقاف</u> وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمُ الْيَتْنَا... سِحْرٌ مُبِينٌ (8) [220]</p>	<p><u>الفرقان</u> وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ... وَأَصِيلًا (6) [15] [69] وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ... تَرْتِيلًا (33) [13] [181] [208]</p>
<p><u>الفتح</u> تؤزروه و توقروه- (10) [141] إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ... أَيْدِيهِمْ (11) [320]</p>	<p><u>الشعراء</u> انذر عشيرتک الاقربین (132) [131]</p>
<p><u>ق</u> ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) [51]</p>	

<p><u>القيمة</u> إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (18) [205] [181] [177] [65] [39]</p>	<p><u>الذريت</u> وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ... لِيَعْبُدُونِ (57) [236]</p>
<p><u>النبا</u> عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (2) [156]</p>	<p><u>النجم</u> وَمَا يَنْطِقُ عَنِ... فَاسْتَوَى (4تا7) [192] [160] [61]</p>
<p><u>التكوير</u> وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (2) [156]</p>	<p>ولقد راه نزلة اخرى (14) [108] لقد راى من آيات ربه الكبرى (19) [108] افرئيتم اللات والعزى (20) [109]</p>
<p><u>الاعلى</u> سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى (7) [392] [340] [65] [64] [63]</p>	<p>ان هي الا اسماء سميتوها... (24) [109] فاسجدوا لله واعبدوا (63) [109]</p>
<p>الا ماشاء الله (8) [340] [336] [65] [64] [63]</p>	<p><u>القمر</u> وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ (23) [253]</p>
<p><u>العلق</u> اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (2) [208] [15]</p>	<p><u>الرحمن</u> فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ (14) [254] [253] [252]</p>
<p><u>الكافرون</u> قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (2) [316] [315]</p>	<p><u>الواقعه</u> لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (80) [371] [39]</p>
<p><u>لهب</u> تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ (2) [277]</p>	<p><u>الصف</u> لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا... تَفْعَلُونَ (3:4) [369]</p>
<p><u>الاحلاص</u> قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (2) [312] [277] [187] [186] اللَّهُ الصَّمَدُ... كُفُّوا أَعْدَاءَ اللَّهِ (3تا5) [279]</p>	<p><u>الجمعة</u> هُوَ الَّذِي بَعَثَ... وَالْحِكْمَةَ (3) [394] [380] [371] [67] [50] [16] وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (4) [277]</p>
<p><u>الفلق</u> قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (2) [312] [278] [277] [276] [186] [183]</p>	<p><u>الحاقة</u> انه لقول رسول كريم... حاجزين (41تا48) [218]</p>
<p><u>الناس</u> قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (2) [312] [278] [276] [187] [186]</p>	<p><u>الملك</u> تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (2) [68]</p>

انڈیکس اعتراضات

- | | | |
|----|--|-----|
| 12 | اس وسوسہ کا جواب کہ شیطانی آیات کا قصہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول کریمؐ نے قرآن کریم میں رد و بدل کیا تھا۔ | 105 |
| 13 | اس وسوسہ کا جواب کہ رسول کریمؐ لوگوں کی مرضی سے قرآن کریم کی آیات میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے۔ | 110 |
| 14 | اعتراض کہ ایسا کیونکر ممکن ہے کہ جو آیت نبی کریمؐ پر نازل ہو وہی دوسروں کو بھی وحی ہو۔ | 115 |
| 15 | اس وسوسہ کا جواب کہ ہو سکتا ہے رسول کریمؐ نے اپنی طرف سے قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کی ہو۔ | 119 |
| 16 | اس وسوسہ کا جواب کہ رسول کریمؐ کو لوگ اس لیے سچا کہہ دیتے تھے کہ انہیں یہ علم نہ تھا کہ آپؐ نبوت کا دعویٰ کر دیں گے۔ | 132 |
| 17 | اس وسوسہ کا جواب کہ رسول کریمؐ نے دنیاوی منفعت کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا۔ | 137 |
| 18 | اس وسوسہ کا جواب کہ رسول کریمؐ اپنی فطرتی رحم دلی کی وجہ سے بنی نوع کی ناگفتہ بہ حالت کے علاج کے طور پر یہ تعلیم بنائی تھی اور اسے الہام الہی کا نام دے دیا۔ | 140 |
| 19 | اس وسوسہ کا جواب کہ رسول کریمؐ کے تمام اخلاق محض کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ تھے۔ | 148 |
| 20 | اس وسوسہ کا جواب کہ نبی کریمؐ نے اپنی مرضی سے قرآن کریم مرتب کیا ہے۔ | 177 |
| 21 | اس وسوسہ کا جواب کہ سورتوں کی ترتیب صحابہؓ نے لگائی ہے۔ | 178 |
| 1 | اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم رسول کریمؐ کے زمانہ میں محفوظ نہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ کے وصال کے بعد میں ادھر ادھر سے جو حصہ وحی ملا اُسے اکٹھا کر لیا گیا۔ | 9 |
| 2 | اعتراض کہ مسلمان قرآن کو بے معنی پڑھتے ہیں | 35 |
| 3 | اس وسوسہ کا جواب کہ ہو سکتا ہے کہ رسول کریمؐ کچھ آیات بھول گئے ہوں۔ | 57 |
| 4 | اس وسوسہ کا جواب کہ اسلامی تاریخ میں اہم معاملات میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں | 57 |
| 5 | اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کریمؐ ضرور کچھ آیات قرآنیہ بھول گئے ہونگے۔ | 63 |
| 6 | اس وسوسہ کا جواب کہ ہو سکتا ہے صحابہ سے کچھ آیات قرآنیہ ضائع ہو گئی ہوں۔ | 70 |
| 7 | اس وسوسہ کا جواب کہ ہو سکتا ہے کہ کاتبین وحی نے غلطی سے کچھ آیات قرآنیہ غلط لکھ دی ہوں۔ | 75 |
| 8 | اس اعتراض کا جواب کہ رسول کریمؐ نے قرآن کریم ایک کتاب کی شکل میں پیش نہیں کیا۔ | 78 |
| 9 | حضرت ابو بکرؓ نے آسان راہوں کو چھوڑ کر جمع قرآن کے لیے مشکل رستہ کیوں اختیار کیا۔ | 89 |
| 10 | اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم بعض آیات صرف ایک صحابی کے علم میں تھیں باقی کو ان کا علم نہ تھا۔ | 94 |
| 11 | اس وسوسہ کا جواب کہ حضرت ابو بکرؓ نے جو نسخہ قرآن تیار کیا وہ مرکزی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ | 96 |

22	اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کی تعداد مختلف ہے۔	179	281	اس وسوسہ کا جواب کہ حضرت ابی بن کعب کا نسخہ قرآن موجودہ نسخہ سے مختلف تھا۔
23	اس وسوسہ کا جواب کہ سورتوں کی ترتیب حضرت عثمانؓ نے لگوائی۔	194	35	اس وسوسہ کا جواب کہ حضرت عثمانؓ کے دور میں قرآن کریم کے بارہ میں بہت اختلاف ہو گیا۔ اس پر آپ نے بہت سے باہمی مختلف نسخہ ہائے قرآن میں سے ایک رائج کر دیا اور باقی جلوادے۔
24	اس وسوسہ کا جواب کہ جس نے بھی قرآن کریم مدون کیا ہے اس نے زیادہ لمبی سورتیں شروع میں رکھی ہیں۔	205	36	اس وسوسہ کا جواب کہ آنحضرتؐ کے بعد قرآن کریم کی مختلف قراءتیں رائج تھیں جو دراصل قرآن کریم کے متن میں اختلافات کو ظاہر کرتی ہیں۔
25	اعتراض کہ قرآن کریم کی ترتیب نزول بدل دی گئی۔	207	37	اعتراض حضرت عمرؓ اور حضرت حکیم بن ہشام کا اختلاف قراءت کیوں ہوا جب کہ دونوں ایک ہی قبیلہ سے تھے؟
26	اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم ایک بے ربط اور بے ترتیب کلام ہے۔	221	38	اگر مصحف امام دراصل مصحف ام کی بعینہ نقل تھا تو پھر حضرت عثمان کی اس ہدایت کا کیا مطلب ہے جو انہوں نے مصحف الامام کی تیاری کے وقت دی کہ اگر کوئی اختلاف ہو تو قرائت کی قراءت پر لکھنا۔
27	اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم کے مضامین میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔	236	297	اعتراض کہ مختلف قراءتیں حفص اور ورش وغیرہ تو اب بھی جاری ہیں۔ پھر حضرت عثمانؓ نے کون سا اختلاف ختم کیا؟
28	اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم میں واقعات کو ان کی ظاہری اور تاریخی ترتیب کے مطابق بیان نہیں کیا گیا۔	248	39	اس وسوسہ کا جواب کہ حضرت عثمانؓ کے جمع کیے گئے نسخہ قرآن میں اعراب اور نقطے نہیں تھے۔
29	اعتراض کا جواب کہ قرآن کریم میں اعادہ اور تکرار پائی جاتی ہے۔	252	305	جب لگائے گئے تو مختلف قراءتیں بن گئیں۔
30	اس وسوسہ کا جواب کہ آیات رجم قرآن کریم کا حصہ تھیں مگر درجنہ کی گئیں۔	256	41	اس وسوسہ کا جواب کہ موجودہ دور میں عالم اسلام میں دو قسم کے قرآن رائج ہیں۔
31	اعتراض کہ اگر آیات رجم قرآن کا حصہ نہیں تھیں تو پھر رسول کریمؐ اور خلفاء راشدین نے کیوں رجم کی سزا دی۔	261	307	اس وسوسہ کا جواب کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کا حصہ نہیں لکھیں لیکن شامل کر دیں گئیں مثلاً سورۃ الفاتحہ اور معوذتین۔
32	اس وسوسہ کا جواب کہ کچھ آیات متن قرآن کریم کا حصہ نہیں تھیں لیکن شامل کر دیں گئیں مثلاً سورۃ الفاتحہ اور معوذتین۔	271	42	اس وسوسہ کا جواب کہ صحابہ کے نسخہ ہائے قرآن ایک دوسرے سے مختلف تھے۔
33	اس وسوسہ کا جواب کہ صحابہ کے نسخہ ہائے قرآن ایک دوسرے سے مختلف تھے۔	269		

323	حصہ نہیں ہو سکتی۔	311	کر دیا ہے۔
49	اس وسوسہ کا جواب کہ بعض مسلمان بھی قرآن کریم	43	اعتراض کہ مترجمین تراجم میں اپنی طرف سے
323	میں الحاقی آیات کی موجودگی کے قائل ہیں۔		ایسے الفاظ شامل کر دیتے ہیں جو متن قرآن
	اس وسوسہ کا جواب کہ اکثر محققین کے خیال میں	314	میں موجود نہیں ہوتے۔
50	حضرت عثمانؓ نے قرآن کریم میں سیاسی منفعت	44	اس وسوسہ کا جواب کہ علامہ سیوطیؒ کے نزدیک
333	حاصل کرنے کے لیے آیات شامل کر دی ہیں۔		قرآن کریم کے پانچ مقامات کے بارہ میں
	اس وسوسہ کا جواب کہ اہل تشیع کے نزدیک	314	شک ہے کہ یہ حصے متن قرآن کا حصہ نہیں۔
337	قرآن کریم میں رد و بدل ہوا ہے۔	45	اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم متن کے بعض حصوں
52	اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم حفظ کرنے	316	کا سائل بتاتا ہے کہ یہ بعد میں شامل کیے گئے ہیں۔
352	سے ذہنی صلاحیتوں پر بُرا اثر پڑتا ہے۔	46	اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم متن میں شامل
53	اس وسوسہ کا جواب کہ قرآن کریم کی بعض		بعض الفاظ واضح طور پر رسول کریمؐ کے اپنے
383	آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔	319	الفاظ ہیں۔
54	اعتراض کہ قرآن کریم کی تعلیم پندرہ سو سال قبل	47	اس وسوسہ کا جواب کہ محققین کے نزدیک قرآن
	نازل ہوئی تھی۔ آج کے مسائل کا حل کیونکر	321	کریم کی بہت سی آیات الحاقی ہیں۔
398	پیش کر سکتی ہے۔	48	اس وسوسہ کا جواب کہ سورۃ یوسف قرآن کریم کا

انڈیکس اسماء

[254] [261] [264] [271] [278] [280] [181] [283] [284] [295] [297] [298] [301] [302] [314] [323] [324] [336] [339] [344] [349] [358] [391]			
	ابو بکر انباری	[22]	ابانؓ
[190]			ابن اَبّٰی
	ابو جہل	[65] [358]	
[133] [134] [221]			ابن حجر
	ابودرداؓ	[89] [107] [187] [199]	
[21] [25]			ابن سعدؓ
	ابوزیدؓ	[27] [25] [58] [341]	
[21] [25]			ابن عباسؓ
	ابوسعیدؓ	[25] [33] [157] [256] [287] [299]	
[20] [35]			ابن وراق (Ibn Warraq)
	ابوسفیان	[9] [10] [11] [14] [26] [27] [57] [70] [71] [73] [76] [105] [109] [111-114] [118] [119] [122] [131] [164] [173] [174] [179-181] [205] [207] [218] [221] [222] [225] [227] [228] [235] [248] [252] [253] [256] [257] [261] [268] [281] [286] [305] 307-310 [314-316] [319] [320] [323-326] [331-333] [335] [337] [340] [345] [350-354] [357-363] [384] [394]	
[112] [113] [122] [132] [133] [173]	ابوعبداللہ محمد بن احمد القرطبی		
[255]			ابوالاسود دؤلی
	ابوعلی احمد بن جعفر دینوری		
[227]			ابوالفضل بن الحسن الطبرسی
	ابوموسیٰ الاشعریؓ	[26] [189] [190] [338] [339]	
[54]			ابوامامہ باہلیؓ
	ابونضرؓ	[100] [101]	
[35]			ابوبکرؓ
	ابی بن کعبؓ		
[10] [21] [22] [25] [27] [52] [189] [190] [274-276] [281] [283] [284]			
	ابی عمرانؓ	[41]	
[50]			
	اُمّ سلمہؓ	[10] [17] [20] [22] [28] [48] [72] [76] [77-89] [91-93] [95] [96] [98] [99] [101] [128] [129] [154-156] [185] [191] [193-195] [198-204]	
[43] [303]			

	انسؓ	[21] [25] [43] [51] [56] [113] [114] [232] [273] [303] [388]
ج	امیر معاویہؓ	[101] [112] [301] [344]
جان برٹن (John Burton)	امیہ بن خلف	[164] [165]
[197] [299] [346] [347]	اوس ثقفیؓ	[21] [196]
جان ڈیون پورٹ (John Davenport)	ایڈورڈ صیڈ (Edward Said)	[121] [323]
[127] [157] [158] [159] [161] [170]	ایچ۔ اے۔ آرگب (H.A.R. Gibb)	[345]
جہم بن صلتؓ	ایچ۔ ایم۔ ہینڈمن (H. M. Hyndman)	[99] [100]
[23]	اینڈریو رپین (Andrew Rippen)	[29]
جیفری لینگ (Jeffery Lang)	اے۔ لیونارڈ (Major A. Leonard)	[159]
[123] [323]	ایوب بن موسیٰؓ	[41]
ح	باسورٹھ سمتھ (Basworth Smith)	[57] [58] [345]
حذیفہ بن یمانؓ	بدرالدین محمد بن عبداللہ الزکشیؒ علامہ	[12] [80] [196] [199] [200]
[23]	براء بن عازبؓ	[44]
حذیفہ ثقفیؓ	بلال بن رباحؓ	[164] [188] [189]
[21] [196]	ح	
خ	ثابت بن قیس بن شماسؓ	[23]
خالد بن سعیدؓ		
[17]		
خالد بن ولیدؓ		
[23] [163]		
خباب بن الارتؓ		
[165] [166]		
ر		
ریونڈ وھیری		
[16]		
ز		
زبیر بن العوامؓ		
[22]		

عائشہؓ	زید بن ثابتؓ
[23] [26] [34] [46] [56] [162] [167] [168] [184] [186] [187] [256-258] [264] [268] [269] [270] [277] [312] [367]	[19-22] [24] [25] [77] [78] [80] [82] [83] [85-88] [91] [96] [98] [117] [185] [187] [191] [200] [253] [262] [263] [266] [290] [297] [298] [344]
عبداللہ بن ارقم زہریؓ	س
[22]	سالمؓ
عبداللہ بن رواحہؓ	[27] [52]
[22]	سٹینلی لین پول (Stanley Lane-Poole)
عبداللہ بن زبیرؓ	[150] [159] [167]
[344]	سہیل بن معاذ جہمیؓ
عبداللہ بن سبا	[55]
[324] [325]	سعید بن جبیرؓ
عبداللہ بن سعد ابی سرح	[23]
[22] [109-115] [117] [119] [122] [325] □ □ □ □ □ □	علامہ سید محمود آلوسی
عبداللہ بن سعدؓ	[118] [190] [258]
[22]	علامہ سیوطی
عبداللہ بن عباسؓ	[81] [87] [88] [94] [102] [188] [191] [194] [196] [197] [199] [227] [314] [321] [337]
[178]	س
عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی بن سلول	شرجیل بن حسنہؓ
[22]	[22]
عبداللہ بن عمرؓ	شوالی (Schwally)
[19] [33] [44] [51] [195] [255] □ □ □ □	[347]
عبداللہ بن عمروؓ	ع
[35] [214]	عامر بن فہیرہؓ
عبداللہ بن مسعودؓ	[18] [23]
[25] [27] [41] [51] [52] [154] [164] [186] [189] [190] [269] [270] [271] [274-281] [284] [287] [293] [299] [301] [302] [313] [325] □ □	عامر بن واثلہ
عبدیہ مملکیؓ	[56]
[42]	

ق	عثمانؓ
قائدہ	[10] [17] [22] [26] [55] [77] [80] [81] [89] [95] [96] [98-101] [112] [178] [185] [191] [194] [198-201] [203] [255] [270] [271] [283] [285] [294-303] [305] [306] [308] [321] [323-325] [333] [334] [336] [337] [339] [343] [344] [346] [391]
[25] [43] [303]	عزیٰ
کیرم آرمسٹرانگ	[109] [110] [145] [164]
[15] [38] [58] [121] [219] [220] [226] [322] [341]	عقبہ بن عامرؓ
کینتھ کریگ (Kenneth Cragg)	[42]
[37] [347]	علاء بن حضرمیؓ
لات	[22]
[145] [164]	علیؓ
لما رٹن (فرانس دے لما رٹن) LaMartine	[17] [20] [22] [26] [100] [142] [194] [200] [201] [268] [296] [301] [321] [323-325] [333-335] [337-339] [342] [344]
[171] [355]	علی داتھی
لبید بن ربیعہ عامریؓ	[110] [111] [113]
[216-218] [335]	عمر بن الخطابؓ
مرزا بشیر احمد صاحبؓ	[18] [19] [32] [46] [48] [50] [51] [56] [71] [72] [77-88] [90] [92] [96] [98] [117] [164] [165] [168] [203] [216-218] [256-259] [261-264] [270] [287] [293] [293] [294] [297] [335] [358] [] []
[12] [30] [72] [206] [210] [246]	عمر بن العاصؓ
مرزا بشیر الدین محمود احمدؓ	[23] [35] [214] []
[4] [27] [29] [35] [36] [38] [46] [52] [68] [72] [73] [78] [90] [105] [125] [155] [205] [223] [244] [253] [266] [278] [281] [288] [291] [318] [370] [379] [381] [389] [397]	ف
مرزا طاہر احمدؓ	فاطمہؓ (بنت الخطاب)
[60] [185] [362] [380]	[18]
مرزا غلام احمدؓ	فاطمہؓ (بنت محمد ﷺ)
[7] [14] [39] [42] [45] [48] [236] [237] [239] [240] [242] [243] [249] [261] [368] [370] [382]	[48] [128] [134] [184] [265]
مرزا ناصر احمدؓ	
[73] [359] [380]	

مورلیس بوکائیے (Dr. Maurice Bucaille)
[37] [76] [95] [108] [197] [348]

موسیٰؑ

[37] [73] [142] [167] [249]

میر محمود احمد (پرنسپل جامعہ احمدیہ)

[353]

۶

نافع بن عبدالحارث

[56] [358]

نضر بن الحارث

[133]

نورالدین خلیفۃ المسیح الاولؒ

[65] [201] [359]

۷

واشنگٹن ایرویگ (Washington Irving)
[61] [134] [135]

ولید بن مغیرہ

[217] [218]

ویلم گراہم (William Graham)

[24]

ویلم میور (William Muir)

[75] [120] [129] [300] [334] [347]
[348] [384]

۸

ہشام بن حکیم بن حزامؒ

[32] [50] [51] [164] [287] [293]
[294]

۹

یعلیٰ بن مملکؒ

[43] [304]

مرقس ڈاؤڈ ڈاکٹر (Dr. Marcus Dods)
[158]

مزنیؒ

[26] [189] [339]

محمد (Mohammad) ﷺ

[10] [15] [16] [26] [34] [36-38]
[57] [59] [65] [68] [69] [73] [74]
[76] [105] [106] [108] [109] [112]
[113] [119] [120] [124-127] [129]
[131-134] [136] [140] [150] [157]
[158] [161-164] [167] [169] [171]
[173] [177] [179] [197] [198]
[208] [210] [217] [219] [221]
[256] [257] [260] [300] [310]
[311] [315-319] [342] [344-348]
[350] [355-357] [362] [375] [378]
[382] [397]

محمد بن کعب القرظیؒ

[71]

محمد بن مسلمہؒ

[23]

مسلمہ

[29] [81]

معاذ بن جبلؒ

[21] [25] [27] [52] [117]

معاویہ بن ابی سفیانؒ

[22]

معقیب بن ابی فاطمہؒ

[22]

مغیرہ بن شعبہؒ

[23]

مقوقس

[30] [74] [75]

منٹگری واٹ (Montgomery Watt)

[147]

"Merneptah" منفتاح

[37]